

تاریخ اسلام

دور جاہلیت سے وفات مرسل اعظم تک

مہدی پیشوائی

مترجم

کلب عابد خان سلطانپوری

مجمع جهانی اہل الییت علیم السلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست مطالب

- 1 ----- حرف اول
3 ----- عرض مترجم
4 ----- مقدمہ مولف

----- پہلا حصہ

پہلی فصل

- 7 ----- جزیرۃ العرب کی جغرافیائی، سماجی اور ثقافتی صورتحال
8 ----- جزیرۃ العرب کی تقسیم
9 ----- جنوبی جزیرۃ العرب (یمن) کے حالات
11 ----- ما رب کے بند کی تباہی
12 ----- جزیرۃ العرب پر جنوبی تہذیب کے زوال کے اثرات
13 ----- شمالی جزیرۃ العرب [حجاز] کے حالات
14 ----- صحرائین
15 ----- قبائلی نظام
16 ----- نسلی رشتہ
16 ----- قبیلہ کی سرداری
17 ----- قبائلی تعصب
18 ----- قبائلی انتقام
19 ----- قبائلی رقابت اور فخر و مباہات
20 ----- نسب کی اہمیت
22 ----- قبائلی جنگیں
23 ----- غارت گری اور آدم کشی
24 ----- حرام مہینے
25 ----- عرب کے سماج میں عورت
26 ----- عورت کی زبوں حالی (ٹہچڑی)
دوسری فصل
30 ----- عربوں کے صفات اور نفسیات

30	متضاد صفات
30	عربوں کی اچھی صفتوں کی بنیاد
31	جہالت اور خرافات
32	علم و فن سے عربوں کی آگاہی
33	امی لوگ
33	شعر
34	عرب اور ان کے پڑوسیوں کی تہذیب
35	ایران اور روم کے مقابلہ میں عربوں کی کمزوری اور پستی
36	موہوم افتخار
37	دور جاہلیت
	تیسری فصل
39	جزیرہ نمائے عرب اور اسکے اطراف کے ادیان و مذاہب
39	موحدین
40	عیسائیت
41	یمن میں عیسائیت
41	حیرہ میں عیسائیت
43	دین یہود
44	یمن میں یہودی
44	صابئین
45	مانی دین
46	ستاروں کی عبادت
47	جنات اور فرشتوں کی عبادت
48	شہر مکہ کی ابتداء
49	دین ابراہیم کی باقی ماندہ تعلیمات
50	عربوں کے درمیان بت پرستی کا آغاز
52	کیا بت پرست، خدا کے قائل تھے؟
54	پریشان کن مذہبی صورت حال
55	ظہور اسلام کی روشنی میں بنیادی تبدیلی
57	شہر مکہ کی توسیع اور مرکزیت
59	قریش کی تجارت اور کلید برداری
61	قریش کا اقتدار اور اثر و رسوخ

پہلی فصل

- 64-----اجداد پیغمبر اسلام ﷺ
- 64-----حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کا حسب و نسب
- 65-----حضرت عبدالمطلب کی شخصیت
- 66-----خاندان توحید
- دوسری فصل

- 68-----حضرت محمد ﷺ کا بچپن اور جوانی
- 68-----ولادت
- 69-----کم سنی اور رضاعت کا زمانہ
- 71-----والدہ کا انتقال اور جناب عبدالمطلب کی کفالت
- 72-----جناب عبدالمطلب کا انتقال اور جناب ابوطالب کی سرپرستی
- 73-----شام کا سفر اور راہب کی پیشین گوئی
- 74-----عیسائیوں کے ذریعہ تاریخ میں تحریف

تیسری فصل

- 77-----حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی جوانی
- 77-----حلف الفضول
- 79-----شام کی طرف دوسرا سفر
- 80-----جناب خدیجہ کے ساتھ شادی
- 81-----حجر اسود کا نصب کرنا
- 82-----علیؑ متب پیغمبرؐ میں

تیسرا حصہ

پہلی فصل

- 85-----بعثت اور تبلیغ
- 85-----رسالت کے استقبال میں
- 87-----رسالت کا آغاز
- 89-----طلوع وحی کی غلط عکاسی
- 90-----تقید و تحلیل

93	مخفی دعوت
93	پہلے مسلمان مرد اور عورت
94	حضرت علیؓ کی سبقت کی دلیلیں
96	اسلام قبول کرنے میں سبقت کرنے والے گروہ
99	دعوت ذوالعشرہ
	دوسری فصل
102	علی الاعلان تبلیغ اور مخالفتوں کا آغاز
102	ظاہری تبلیغ کا آغاز
102	قریش کی کوششیں
103	ابوطالب کی طرف سے حمایت کا اعلان
104	قریش کی طرف سے مخالفت کے اسباب
104	سماجی نظام کے بکھرنے کا خوف
105	اقتصادی خوف
107	پڑوسی طاقتوں کا خوف و ہراس
108	قبیلہ جاتی رقابت اور حسد
	تیسری فصل
109	قریش کی مخالفت کے نتائج اور ان کے اقدامات
109	مسلمانوں پر ظلم و تشدد
110	حبشہ کی طرف ہجرت
112	حضرت فاطمہؓ زہراؓ کی ولادت
112	اسراء اور معراج
113	روایات معراج کی تحلیل اور ان کا تجزیہ
114	بنی ہاشم کا سماجی اور اقتصادی بائیکاٹ
117	جناب ابوطالب اور جناب خدیجہؓ کی وفات
117	جناب خدیجہؓ کا کارنامہ
117	جناب ابوطالب کا کارنامہ!
118	ایمان ابوطالب
120	ازواج پیغمبر اسلامؐ
125	قرآن کی جاذبیت
126	جاد و گری کا الزام
127	طائف کا تبلیغی سفر

- 129 ----- کیا پیغمبرؐ نے کسی سے پناہ مانگی؟
- 130 ----- عرب قبائل کو اسلام کی دعوت

----- چوتھا حصہ

پہلی فصل

- 133 ----- مدینہ کی طرف ہجرت
- 133 ----- مدینہ میں اسلام کے نفوذ کا ماحول
- 134 ----- مدینہ کے مسلمانوں کا پہلا گروہ
- 135 ----- عقبہ کا پہلا معاہدہ
- 136 ----- عقبہ کا دوسرا معاہدہ
- 136 ----- مدینہ کی طرف ہجرت کا آغاز
- 137 ----- پیغمبرؐ کے قتل کی سازش
- 138 ----- پیغمبر اسلامؐ کی ہجرت
- 138 ----- عظیم قربانی
- 139 ----- قبا میں پیغمبرؐ کا داخلہ
- 140 ----- پیغمبرؐ کا مدینہ میں داخلہ
- 141 ----- ہجری تاریخ کا آغاز

دوسری فصل

- 143 ----- مدینہ میں پیغمبر اسلامؐ کے سیاسی اقدامات
- 143 ----- مسجد کی تعمیر
- 143 ----- اصحابِ صفہ
- 144 ----- عام معاہدہ
- 145 ----- مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارگی کا معاہدہ
- 147 ----- یہودیوں کے تین قبیلوں کے ساتھ امن معاہدہ
- 148 ----- منافقین

تیسری فصل

- 150 ----- یہودیوں کی سازشیں
- 150 ----- یہودیوں کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزیاں
- 151 ----- یہودیوں کی مخالفت کے اسباب
- 154 ----- قبلہ کی تبدیلی

چوتھی فصل

- 157 ----- لشکر اسلام کی تشکیل
- 157 ----- اسلامی فوج کا قیام
- 158 ----- فوجی مشقیں
- 159 ----- فوجی مشقوں سے پیغمبرؐ کے مقاصد
- 160 ----- عبداللہ بن جحش کا سریہ
- 161 ----- جنگ بدر
- 163 ----- مسلمانوں کی کامیابی کے اسباب
- 165 ----- اسلامی لشکر کی کامیابی کے نتائج اور آثار
- 167 ----- بنی قینقاع کی عہد شکنی
- 168 ----- جناب فاطمہ زہراؑ سے حضرت علیؑ کی شادی
- 169 ----- جنگ احد
- 171 ----- جنگ کے پہلے مرحلے میں مسلمانوں کی فتح
- 172 ----- مشرکوں کی فتح
- 175 ----- جنگ احد کے نتائج
- 178 ----- بنی نضیر کے ساتھ جنگ
- 179 ----- جنگ خندق (احزاب)
- 182 ----- بنی قریظہ کی خیانت
- 183 ----- عمرو بن عبدود کا قتل
- 185 ----- غیبی امداد
- 185 ----- جنگ بنی قریظہ
- 187 ----- تجزیہ و تحلیل
- 189 ----- جنگ بنی مصطلق
- 189 ----- عمرہ کا سفر
- 190 ----- بیعت رضوان
- 191 ----- پیمانہ صلح حدیبیہ (فتح آشکار)
- 192 ----- پیغمبرؐ کی پیشین گوئی
- 192 ----- صلح حدیبیہ کے آثار و نتائج
- پانچواں حصہ

پہلی فصل

195	عالمی تبلیغ
195	پیغمبر اکرمؐ کی عالمی رسالت
196	عالمی تبلیغ کا آغاز
196	جنگ خیبر
200	یہودیوں کا انجام
200	فدک

دوسری فصل

201	اسلام کا پھیلاؤ
201	جنگ موتہ
203	فتح مکہ
203	قریش کی عہد شکنی
205	پیغمبر اسلامؐ کی طرف سے عام معافی کا اعلان
206	فتح مکہ کے آثار اور نتائج
207	جنگ حنین
208	آغاز جنگ میں مسلمانوں کی شکست اور عقب نشینی
209	مسلمانوں کی عالیشان فتح
210	جنگ تبوک
212	مدینہ میں حضرت علیؑ کی جانشینی
214	راستے کی دشواریاں
214	اس علاقہ کے سرداروں سے پیغمبرؐ کے معاہدے
214	غزوہ تبوک کے آثار اور نتائج
215	جزیرہ نمائے عرب میں اسلام کا نفوذ اور اس کا پھیلاؤ
215	مشرکین سے برائت کا اعلان
217	پیغمبر اکرمؐ کا مخصوص نمائندہ اور سفیر
217	اعلان برائت کا متن اور پیغمبر اکرمؐ کا الٹی میٹم
218	نجران کے عیسائی نمائندوں کی انجمن سے پیغمبرؐ کا مباہلہ
	تیسری فصل
221	حجۃ الوداع اور رحلت پیغمبرؐ
221	حجۃ الوداع
222	پیغمبر اسلامؐ کا تاریخی خطبہ

223	عظیم فضیلت
224	واقعہ غدیر اور مستقبل کے رہنما کا تعارف
230	شواہد اور قرائن
235	شکر اسامہ
237	پیغمبرؐ کا اعلیٰ مقصد
238	وہ وصیت نامہ جو لکھنا نہ جاسکا!
239	پیغمبر اسلامؐ کی رحلت
240	رحلت پیغمبرؐ کے وقت اسلامی سماج، ایک نظر میں
242	اجمالی فہرست

حرف اول

جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چیز اپنی صلاحیت و ظرفیت کے مطابق اس سے فیضیاب ہوتی ہے حتیٰ ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ و کلیاں رنگ و نکھار پیدا کر لیتی ہیں تاریکیاں کافور اور کوچہ و راہ اجالوں سے پر نور ہو جاتے ہیں، چنانچہ متمدن دنیا سے دور عرب کی سنگلاخ وادیوں میں قدرت کی فیاضیوں سے جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا، دنیا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابلیت کے اعتبار سے فیض اٹھایا۔

اسلام کے مبلغ و موسس سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ غار حراء سے مشعل حق لے کر آئے اور علم و آگہی کی پیاسی اس دنیا کو چشمہ حق و حقیقت سے سیراب کر دیا، آپ کے تمام الہی پیغامات ایک ایک عقیدہ اور ایک ایک عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشریت کی ضرورت تھا، اس لئے ۲۳ برس کے مختصر عرصے میں ہی اسلام کی عالمتاب شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں اور اس وقت دنیا پر حکمران ایران و روم کی قدیم تہذیبیں اسلامی قدروں کے سامنے ماند پڑ گئیں، وہ تہذیبی اصنام جو صرف دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں اگر حرکت و عمل سے عاری ہوں اور انسانیت کو سمت دینے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہب عقل و آگہی سے رو برو ہونے کی توانائی کھودیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت میں اسلام نے تمام ادیان و مذاہب اور تہذیب و روایات پر غلبہ حاصل کر لیا۔

اگرچہ رسول اسلام ﷺ کی یہ گرانہا میراث کہ جس کی اہل بیت علیہم السلام اور ان کے پیرووں نے خود کو طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسلام کی بے توجہی اور ناقدری کے سبب ایک طویل عرصے کے لئے تنگنائیوں کا شکار ہو کر اپنی عمومی افادیت کو عام کرنے سے محروم کر دی گئی تھی، پھر بھی حکومت و سیاست کے عتاب کی پروا کئے بغیر مکتب اہل بیت علیہم السلام نے اپنا چشمہ فیض جاری رکھا اور چودہ سو سال کے عرصے میں بہت سے ایسے جلیل القدر علماء و دانشور دنیائے اسلام کو تقدیم کئے جنہوں نے بیرونی افکار و نظریات سے متاثر اسلام و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زد پر اپنی حق آگین تحریروں اور تقریروں سے مکتب اسلام کی پشت پناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے میں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا ہے، خاص طور پر عصر حاضر میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ساری دنیا کی نگاہیں ایک بار پھر اسلام و قرآن اور مکتب اہل بیت علیہم السلام کی طرف اٹھی اور گڑھی ہوئی ہیں، دشمنان اسلام اس فکری و معنوی قوت و اقتدار کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسلام اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کامیاب و کامراں زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چین و بے تاب ہیں، یہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے بہتر طریقوں سے فائدہ اٹھا کر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار و نظریات دنیا تک پہنچائے گا، وہ اس میدان میں آگے نکل جائے گا۔

(عالمی اہل بیت کو نسل) مجمع جہانی بیت علیہم السلام نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بیت عصمت و طہارت کے پیروں کے درمیان ہم فکری و یکجہتی کو فروغ دینا وقت کی ایک اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس راہ میں قدم اٹھایا ہے کہ اس نورانی تحریک میں حصہ لے کر بہتر

انداز سے اپنا فریضہ ادا کرے، تاکہ موجودہ دنیائے بشریت جو قرآن و عترت کے صاف و شفاف معارف کی پیاسی ہے زیادہ سے زیادہ عشق و معنویت سے سرشار اسلام کے اس مکتب عرفان و ولایت سے سیراب ہو سکے، ہمیں یقین ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز میں اگر اہل بیت عصمت و طہارت کی ثقافت کو عام کیا جائے اور حریت و بیداری کے علمبردار خاندان نبوت و رسالت کی جاوداں میراث اپنے صحیح خدو خال میں دنیا تک پہنچادی جائے تو اخلاق و انسانیت کے دشمن، انانیت کے شکار، سامراجی خوں خواروں کی نام نہاد تہذیب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی یافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدمیت کو امن و نجات کی دعوتوں کے ذریعہ امام عصر (عج) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تیار کیا جاسکتا ہے۔

ہم اس راہ میں تمام علمی و تحقیقی کوششوں کے لئے محققین و مصنفین کے شکر گزار ہیں اور خود کو مؤلفین و مترجمین کا ادنیٰ خدمتگار تصور کرتے ہیں، زیر نظر کتاب، مکتب اہل بیت علیہم السلام کی ترویج و اشاعت کے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اہل تشیع کے جلیل القدر عالم دین آقائے پیشوائی کی گرانقدر کتاب ”تاریخ اسلام“ فاضل جلیل عالیجناب مولانا کلب عابد خان سلطانپوری ہندی نے اردو زبان میں اپنے ترجمہ سے آراستہ کیا ہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہیں اور مزید توفیقات کے آرزو مند ہیں، اس منزل میں ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونین کا بھی صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے میں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا کرے کہ ثقافتی میدان میں یہ ادنیٰ جہاد رضائے مولیٰ کا باعث قرار پائے۔

والسلام مع الاکرام

مدیر امور ثقافت، مجمع جهانی اہل بیت علیہم السلام

عرض مترجم

عرصہ دراز سے یہ خواہش تھی کہ ایک ایسی تاریخی کتاب کا ترجمہ کروں جو کسی حد تک کامل، معتبر، مستند اور مدلل ہو۔ جس میں واقعات کے تمام جزئیات کے حوالے درج ہوں۔ اور واقعات کا تجزیہ اور ان کی تحلیل نیز شبہات و اعتراضات کے مدلل جوابات دیئے گئے ہوں۔

چنانچہ اس سلسلہ میں کافی جستجو اور تحقیق کے بعد، مؤلف محترم جناب مہدی پیشوائی صاحب کی کتاب ”تاریخ اسلام“ میری نظروں سے گزری، کتاب کے مطالعہ کے بعد اندازہ ہوا کہ مجھے ایسی ہی کتاب کی تلاش تھی چنانچہ ابھی اسی فکر میں تھا کہ مجمع جهانی اہل البیت ۲۲ کی جانب سے اس کتاب کے ترجمہ کا کام میرے سپرد کیا گیا تو میں نے بخوشی قبول کر لیا مضامین و مقالات وغیرہ لکھنے کا شوق پہلے ہی سے تھا اور حقیر کے متعدد مضامین ادارہ تنظیم الکاتب کے ماہانہ رسالہ میں شائع ہو چکے ہیں لیکن ترجمہ کے میدان میں یہ میری پہلی کاوش ہے۔ ترجمہ کیسا ہے یہ فیصلہ قارئین کے حوالہ ہے البتہ اتنا بہر حال طے ہے کہ ایک زبان کے جملہ مطالب کسی دوسری زبان میں منتقل کرنا کتنا مشکل ہے اس کا اندازہ وہی حضرات لگا سکتے ہیں جنہوں نے اس میدان میں قدم رکھا ہے۔ میری کوشش یہی تھی کہ کتاب کے جملہ مطالب ہمارے اردو زبان معاشرہ تک پہنچ جائیں اگرچہ بشریت کے ناطے ہر قسم کے کمال کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔

امید ہے کہ میری یہ کوشش بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل کرے گی نیز حقیر اور اس کے تمام بزرگوں کے لئے ذخیرہ آخرت قرار پائے گی۔

والسلام

احقر العباد: کلب عابد خان

مقدمہ مولف

تمام تعریفیں اس ذات پروردگار کے لئے ہیں جس نے ہمیں اس کتاب کی نگارش کی توفیق عطا کی اور درود و سلام ہو عظیم الشان رسول، حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور اس کے برحق معصوم جانشینوں اور اصحاب پاک پر۔

قارئین کرام کی خدمت میں جو کتاب پیش کی جا رہی ہے یہ دس سال سے زیادہ عرصہ تک ملک کی اعلیٰ علمی درس گاہوں اور دوسرے تعلیمی اداروں میں نوٹس کی صورت میں تدریس کی جا چکی ہے۔ یہ کتاب، دقیق مطالعہ اور کلاس میں کئے گئے طرح طرح کے تاریخی سوالات کے جوابات میں، تاریخ اسلام سے برسوں کی واقفیت اور انسیت کے بعد تدوین و تالیف ہوئی ہے۔

اس کتاب کی تدوین و تالیف میں کچھ نکات کا لحاظ کیا گیا ہے جس کی طرف قارئین کرام، مخصوصاً طالب علموں اور اساتذہ کرام کی توجہ مبذول کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔

۱۔ کتاب کے پہلے حصہ کی فصلوں میں ظہور اسلام سے قبل، جزیرۃ العرب کے حالات کو بطور مفصل بیان کیا گیا ہے اس لئے کہ اس دور کے حالات سے مکمل واقفیت کے بغیر اسلامی تاریخ کے بے شمار واقعات کا صحیح ادراک کرنا اور ان کا تحلیل و تجزیہ کرنا ناممکن ہے۔

اسلامی تاریخ میں بہت سے واقعات کا تعلق زمانہ جاہلیت سے ہے لہذا ظہور اسلام کے بعد جزیرۃ العرب کے حالات کو سمجھنے کے لئے ظہور اسلام سے پہلے کے حالات سے واقفیت ضروری ہے۔ اسی بنا پر ان واقعات کے صحیح ادراک اور ان کے ایک دوسرے سے مربوط ہونے اور ظہور اسلام کے بعد اس علاقہ میں آنے والی بنیادی تبدیلیوں کو سمجھنے کے لئے اس باب کے مباحث کو کچھ تفصیل سے پیش کیا گیا ہے، اس کے برخلاف بعد کے ابواب میں ہماری سعی و کوشش رہی ہے کہ حتی الامکان اختصار سے کام لیا جائے۔

۲۔ زیادہ تر حوالے حاشیہ پر، اس لئے ذکر کر دیئے گئے ہیں تاکہ اگر قاری محترم واقعات کی تفصیلات کو معلوم کرنا چاہے تو اس سے کم از کم بعض حوالہ جات کی طرف رسائی حاصل کر سکے اس کے علاوہ یہ کوشش بھی کی گئی ہے کہ واقعات کی شہرت یا اس کا تو اثر ثابت ہو جائے۔

۳۔ عام طور سے تاریخی واقعات کی تفصیلات اور اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں اس کے حوالے ذکر کئے جاتے ہیں جب کہ اصل میں وہ حوالے ان تمام تفصیلات اور جزئیات کے نہیں ہوتے۔ ان حوالوں کو دیکھ کر قاری خیال کرتا ہے کہ اس کے زیر مطالعہ بحث کی تفصیلات تمام کتابوں میں موجود ہیں۔ جبکہ یہ طریقہ زیادہ دقیق اور درست نہیں ہے خاص طور سے اگر بعض تفصیلات بہت زیادہ اہم یا محل اختلاف ہوں۔

اس کتاب میں عام روش کے برخلاف ہر واقعہ کی تمام تفصیلات اور پہلوؤں کو بالکل الگ کر کے بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جنگوں کی تفصیلات جیسے وقوع جنگ کا سبب، اس کی تاریخ، دونوں طرف کے سپاہیوں کی تعداد، جنگ کا طریقہ، طرفین کو پہنچنے والے نقصانات، مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ اور جنگ کے آثار و نتائج وغیرہ، جدا طریقہ سے ذکر ہوئے ہیں ان جزئیات کا مطالعہ کرنے سے قاری متوجہ ہو جاتا ہے کہ واقعات کا کون سا حصہ کس کتاب میں بیان ہوا ہے اور ضرورت کے وقت آسانی سے اس کتاب کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ مولف

کے عقیدہ کے مطابق اس روش کے اپنانے میں (کئی اہم اور لطیف فائدے ہیں) بہت زیادہ دقت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں مؤلف کو زیادہ زحمت اٹھانا پڑتی ہے۔

۴۔ قرآنی شواہد اور حدیثی تائیدات پوری کتاب میں ذکر ہوئی ہیں البتہ ضرورت کے تحت (قرآن کریم کی آیات، روایات اور تاریخی متون کے خاص حصوں کو عربی متن کے طور پر حاشیہ پر تحریر کر دیا گیا ہے اور اس کا ترجمہ اصل کتاب میں نقل کر دیا گیا ہے تاکہ کتاب کے متن میں یکسانیت اور روانی باقی رہے اور جو حضرات عربی داں نہیں ہیں ان کے لئے ملال آور نہ ہو۔

۵۔ ضروری مقامات پر بحث کی مناسبت سے تجزیہ اور تحلیل کر کے شبہات کا واضح جواب دیا گیا ہے جبکہ بعض مقامات پر تفصیلی تجزیہ سے پرہیز کرتے ہوئے بہت سے موضوعات (جیسے جنگِ فجار میں آنحضرتؐ کی شرکت اور آپ کے سینہ کا شکافتہ کرنا اور عبدالمطلب کے نذر کی بحث) کو اس لئے نظر انداز کیا گیا ہے کہ کتاب کی تدریس صرف ۳۴ درسوں کی صورت میں ہونا طے پائی ہے لہذا اس کے لئے اس سے زیادہ ضخیم ہونا مناسب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بعض مطالب تخصصی اور مہارتی پہلو رکھتے ہیں اور ان کے ذکر کا اپنا محل ہے۔ لہذا اصل موضوع کی طرف مختصر سے اشارہ کے بعد اس طرح کی بحثوں کے حوالے حاشیہ پر بیان کر دیئے گئے ہیں تاکہ اس موضوع میں دلچسپی لینے والے حضرات ان کی طرف رجوع کر سکیں۔

۶۔ دوسرے درجے کے مطالب، اقوال کے اختلاف کی جگہیں، غیر ضروری گوشے اور تکمیلی و اضافی تفصیلات وغیرہ عام طور سے حاشیہ پر بیان کی گئیں ہیں۔ بہر حال کتاب کو دقیق ہستحکم اور مفید بنانے کے لئے، مطالب کے نقل میں دقت، ترجموں کی صحت، تجزیہ و تحلیل کی درستگی اور پھر ان کی نتیجہ گیری میں ہر ممکن کوشش اور زحماتیں اٹھائی گئیں ہیں۔ لیکن پھر بھی کتاب، نقص اور اصلاح و تکمیل سے بے نیاز نہیں ہے۔ لہذا اساتذہ کرام اور طلاب محترم اور صاحبانِ نظر کی تنقید اور مشورے کتاب کی اصلاح اور تکمیل کی راہ میں مفید ثابت ہوں گے۔

خلوص اور وفاداری کا تقاضہ ہے کہ اپنے دیرینہ دوست، نامور خطیب، مایہ ناز قلم کار حجۃ الاسلام والمسلمین الحاج غلام رضا گل سرخی کا شانی مرحوم کا بھی تذکرہ کروں جن کے تعاون اور مدد سے اس کتاب کی تدوین کا ابتدائی کام انجام پایا ہے۔ لہذا اپنے اس مرحوم دوست کے لئے خداوند عالم کی بارگاہ میں رحمت اور بلندی درجات کا خواہاں ہوں۔ اور اسی طرح سے حج اسلام الحاج شیخ علی اکبر ناصح اور فرج اللہ فرج الہی کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان حضرات نے کتاب کی تصحیح، ٹائپ اور مقدماتی مباحث کی تدوین اور تالیف میں ہمارا ہر طرح سے تعاون کیا۔ آخر میں درسی کتابوں کی تدوین اور تاریخ اسلام کے شعبہ کے سرپرست نیز اراک کی آزاد اسلامی یونیورسٹی کا بھی شکر گزار ہوں۔

والسلام

قم۔ مہدی پیشوائی

محرم الحرام ۱۴۲۴ ہجری قمری

پہلا حصہ

• مقدماتی بحثیں

• پہلی فصل: جزیرۃ العرب کی جغرافیائی، سماجی اور ثقافتی صورتحال

• دوسری فصل: عربوں کے صفات اور نفسیات

• تیسری فصل: جزیرہ نمائے عرب اور اس کے اطراف کے ادیان و مذاہب

پہلی فصل

جزیرۃ العرب کی جغرافیائی، سماجی اور ثقافتی صورت حال

جزیرہ نمائے عرب جس کو ”جزیرۃ العرب“ بھی کہتے ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ نما ہے جو مغربی ایشیا کے جنوب میں واقع ہے۔

یہ جزیرہ مغربی شمال سے مشرقی جنوب تک ”غیر متوازی چوکور“ شکل میں ہے۔¹ اور اس کی مساحت تقریباً تیس (۳۲) لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔² اس جزیرہ نما کے تقریباً ۴۵ حصے میں اس وقت سعودی عرب واقع ہے۔³ اور اس کا بقیہ حصہ دنیا کی موجودہ سیاسی تقسیم بندی کے اعتبار سے چھ ملکوں یعنی یمن، عمان، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین اور کویت میں بٹا ہوا ہے۔

اس جزیرہ نما کی سرحد، جنوب کی سمت سے خلیج عدن، تنگہ باب المندب، بحر ہند اور بحر عمان میں محدود ہے اور مغرب کی سمت میں یہ بحر احمر اور مشرق کی طرف خلیج عمان، خلیج فارس اور عراق تک پھیلا ہوا ہے اور شمال کی جانب سے ایک وسیع صحرا جو کہ درہ فرات سے سرزمین شام تک ہے اس جزیرہ کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور چونکہ اس علاقہ کی دریا اور پہاڑ وغیرہ جیسی کوئی قدرتی سرحد نہیں ہے لہذا جغرافیہ دان قدیم زمانے سے ہی سعودی عرب کی شمالی سرحدوں کے بارے میں اختلاف نظر رکھتے ہیں۔⁴

اگرچہ جزیرہ نمائے عرب خلیج فارس، بحر عمان، بحر احمر اور بحر مدی ٹرانہ سے گھرا ہوا ہے لیکن صرف جنوبی حصہ کے علاوہ اس پانی سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ علاقہ دنیا کے بہت زیادہ خشک اور گرم علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہاں ایک ایسا بڑا دریا بھی موجود نہیں ہے جس میں بحری جہاز کا راستہ ہو بلکہ اس کے بجائے وہاں ایسی گھاٹیاں موجود ہیں جن میں کبھی کبھار سیلاب آ جاتا ہے۔

اس علاقہ میں خشکی کی وجہ، اس جزیرہ میں پھیلے ہوئے ایسے پہاڑ ہیں جو ایک بلند دیوار کے مانند جزیرہ سینا سے شروع ہوتے ہیں اور مغرب کی سمت میں بحر احمر کے ساتھ ساتھ پھیلے ہوئے ہیں اور جنوب کے مغربی گوشہ سے ٹیڑھے ترچھے (غیر مستقیم) انداز میں جنوبی اور مشرقی ساحل

1 حسین قراچالو، حریم شریفین (تہران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۲ء)، ص ۹۔

2 یورپ کی ایک تہائی مساحت، فرانس کی چھ گنا مشرقی اور مغربی جرمنی کی نو برابر، دس برابر اٹلی ملک کی، ۸۰ گنا سویزر لینڈ اور ایران کی مساحت کے دو گنی مساحت ہے۔

3 مؤسسہ گیتاشناسی، گیتاشناسی کشورها (تہران: انتشارات گیتاشناسی، ۱۳۶۵ء)، ص ۲۰۵۔

4 فیلیپ خلیل حتی، تاریخ عرب، ترجمہ: ابوالقاسم پایندہ (تہران: انتشارات آگاہ، طبع دوم، ۱۳۶۶ء ش)، ص ۲۱۔

سے، خلیج فارس تک ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس طرح سے سعودی عرب تین طرف سے اونچے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے اور یہ پہاڑ سمندروں کی رطوبت کو اس علاقہ میں سرایت کرنے سے روک دیتے ہیں۔¹

دوسرے یہ کہ اس کے اطراف کے ملکوں میں پانی کا ذخیرہ اتنا کم ہے کہ افریقا اور ایشیا کی اس وسیع آراضی کی گرمی اور خشکی کو یہاں کی مختصر سی بارش متعادل موسم میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ کیونکہ عرب میں ہمیشہ چلنے والی موسمی ہوائیں (جن کو سموم کہتے ہیں) بحر ہند کے جنوبی علاقہ سے اٹھتے ہوئے ابر باران کو جزیرۃ العرب میں برسنے سے روک دیتی ہیں۔²

جزیرۃ العرب کی تقسیم

عرب اور عجم کے جغرافیہ نویسوں نے جزیرۃ العرب کو کبھی موسم (آب و ہوا) کے لحاظ سے اور کبھی قوم یا نسل کی بنیاد پر تقسیم کیا ہے۔³ اور بعض معاصر دانشوروں نے اس کو مندرجہ ذیل تین بنیادی علاقوں میں تقسیم کیا ہے:

۱۔ مرکزی حصہ جس کا نام ”صحرائے عرب“ ہے۔

۲۔ شمالی حصہ جس کا نام ”حجاز“ ہے۔

۳۔ جنوبی حصہ جو ”یمن“ کے نام سے مشہور ہے۔⁴

جزیرۃ العرب کی تقسیم اس کے شمالی اور جنوبی (قدرتی) حالات کی بنا پر موجودہ دور میں ایک دوسری بھی تقسیم رائج ہوئی ہے جو اس کتاب کے لئے زیادہ مناسب ہے۔ یہ تقسیم زندگی کے ان حالات کی بنیاد پر ہے جو اس علاقہ کے انسانوں، حیوانوں اور مقامات پر اثر انداز تھے اور یہ شرائط وہاں کے باشندوں کی انفرادی اور اجتماعی خصوصیات اور تبدیلیوں میں جلوہ گر ہوئے جو ظہور اسلام تک باقی رہے کیونکہ جزیرۃ العرب دو مخالف جغرافیائی حالات کا گہوارہ رہا ہے اور وہاں کے اجتماعی حالات کا دار و مدار پانی کے وجود پر ہے اور پانی کی موجودگی یا عدم موجودگی ہی وہاں کے اجتماعی حالات پر اثر انداز ہوتی ہے جس کی بنا پر اس کا جنوبی علاقہ یعنی ”یمن“ اس کے شمالی اور مرکزی علاقہ سے الگ ہو جاتا ہے۔

1 علی اکبر فیاض، تاریخ اسلام، (تہران: انتشارات تہران یونیورسٹی، ط ۳ ۱۳۶۷) ص ۲؛ آلبرمالہ وٹول یزاک، تاریخ قرون وسطی تا جنگ صد سالہ، ترجمہ: میرزا عبدالحسین ہشیر، (تہران: دنیای کتاب، ۱۳۶۲) ص ۹۵۔

2 فلیپ حتی، گزشتہ حوالہ، ص ۲۴۔

3 مقہر سی، چوتھی صدی کا مسلمان دانشور کہتا ہے کہ ملک عرب چار بڑے علاقوں، حجاز، یمن، عمان اور ہجر پر مشتمل ہے۔ (احسن التماسیم فی معرفۃ الاقالیم، ترجمہ علی نقی منزوی، تہران: گروہ مؤلفین و مترجمین، ایران، ط ۱، ۱۳۶۱) ص ۱۰۲، لیکن دوسروں نے کہا ہے کہ وہ پانچ حصے یعنی تہامہ، حجاز، نجد، یمن اور عروص پر مشتمل ہے۔ (الفداء، تفہیم البلدان، ترجمہ: عبدالمحمد آیتی، تہران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۹) ص ۱۰۹، یا قوت حموی، معجم البلدان، بہ الفصح محمد امین الحائمی، الکتبی، قاہرہ: مطبعۃ السعادة، ط ۱، ۱۳۲۴ھ، ق) ص ۱۰۱ اور ۲۱۹؛ شکر علی آلوسی، بغدادی، بلوغ الارب فی معرفۃ احوال العرب، (قاہرہ: دار الکتب الحدیث، ط ۲) ص ۱۸۷؛ جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام (بیروت: دار العلم، للملکین، ط ۱، ۱۹۶۸) ج ۱، ص ۱۶۷۔ ان کے علاوہ دوسری تقسیمات بھی ذکر ہوئی ہیں جس کا ہمارے زمانے میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ رجوع کریں: گوستاولوبون، تمدن اسلام و عرب، ترجمہ: سید ہاشم حسینی، (تہران: کتاب فروشی اسلامیہ) ص ۳۱۔

4 یحییٰ نوری، اسلام و عقائد و آراء بشری، (جاہلیت و اسلام)، تہران: مطبوعاتی فراہانی، ۱۳۴۶) ص ۲۳۴۔ ۲۳۱)

جنوبی جزیرۃ العرب (یمن) کے حالات

اگر ہم اس سرزمین کے نقشہ پر نگاہ ڈالیں تو جزیرۃ العرب کے مغربی جنوب کے آخر میں ایک علاقہ مثلث کی شکل میں نظر آتا ہے جس کے مشرقی ضلع میں بحر عرب کا ساحل اور مغربی ضلع میں بحر احمر کا ساحل ہے اور ظہران (جو کہ مغرب میں واقع ہے) سے وادی حضر موت (جو کہ مشرق میں واقع ہے) تک کھینچے جانے والے خط کو مثلث کا تیسرا ضلع قرار دیا جاسکتا ہے ان حدود میں جو علاقہ ہے اس کو قدیم زمانے سے ”یمن“ کہا جاتا ہے اس علاقہ میں پانی کی فراوانی اور مسلسل بارش کی وجہ سے کاشتکاری اچھی اور آبادی زیادہ رہی ہے۔ اس بنا پر یہ علاقہ شمالی یا مرکزی جزیرۃ العرب سے قابل قیاس نہیں ہے۔

جیسا کہ معلوم ہے کہ ایک بڑی آبادی کے لئے دائمی سکونت کی ضرورت پڑتی ہے اور اسی وجہ سے قصبے اور شہر بنتے ہیں اور لوگ بڑی تعداد میں وہاں بستے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں جس کے نتیجے میں کوئی نظام لازم ہوتا ہے لہذا اس کے لئے قانون بنایا جاتا ہے (اگرچہ وہ ابتدائی اور آسان ہی کیوں نہ ہو) اور یہ بات واضح ہے کہ قوانین کے ساتھ حکومت کا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ ان دونوں میں تلازم پایا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس علاقہ میں حضرت مسیح کی ولادت سے صدیوں سال قبل حکومتیں قائم ہوئی ہیں اور ان کے ذریعہ تہذیب و ثقافت کو رواج ملا ہے۔¹ جو حکومتیں اس علاقہ میں قائم ہوئی ہیں وہ یہ ہیں :

۱) حکومت معین : یہ حکومت ۱۴۰۰ سے ۸۵۰ سال قبل عیسوی تک برقرار رہی اور حکومت سبا کے تسلط پر ختم ہو گئی۔

۲) حکومت حضر موت : جو ۱۰۲۰ء عیسوی سے قبل شروع ہوئی اور ۶۱۵ء عیسوی کے بعد تک باقی رہی اور حکومت سبا کے مسلط ہونے کے ساتھ ختم ہو گئی۔

۳) حکومت سبا : جو ۸۵۰ء عیسوی سے لیکر ۱۱۵ء عیسوی سال قبل مسیح تک برسر اقتدار رہی اور حمیری سبا ویدان کے برسر اقتدار آتے ہی بکھر گئی۔

۴) حکومت قتبان : جو ۸۶۵ء سے لے کر ۵۴۰ء سال قبل مسیح تک برسر اقتدار رہی اور حکومت سبا کے آتے ہی نابود ہو گئی۔

۵) حکومت سبا ویدان : حضر موت اور اطراف یمن جن کے بادشاہوں کے سلسلہ کو ”تبع“ کہا گیا ہے اور ان کی حکومت سال عیسوی سے ۱۱۵ سال پہلے شروع ہوئی اور عیسوی کے بعد ۵۲۳ء تک برقرار رہی اور اس کی راجدھانی ”ظفار“ تھی۔²

جنوبی عرب کی درخشاں تہذیب

یمن کی پر رونق تہذیب مورخین کی نگاہ میں قابل تحسین واقع ہوئی ہے جیسا کہ ہرودت (قبل مسیح پانچویں صدی میں یونان کا ایک بزرگ مورخ) دور سبا میں اس سرزمین کی تہذیب اور عالی شان محلوں اور ہیرے اور جواہرات سے مرصع دروازوں کا ذکر کر کے کہتا ہے کہ ان میں سونے چاندی کے ظروف اور قیمتی دھاتوں سے بنی ہوئی پلنگیں موجود تھیں۔³ کچھ مورخین نے صنعاء کے عالی شان محل (غمدان) کا ذکر

1 سید جعفر شہیدی، تاریخ تحلیلی اسلام (تہران : مرکز اشاعت پونیورسٹی، ۱۳۶۵) ص ۳۔

2 احمد حسین شرف الدین، الیمن عبر التاريخ (قاہرہ : مطبعة النعمان، ۱۳۸۴ھ) ص ۵۳۔

3 گوستا ولوبون، تمدن اسلام و عرب، ترجمہ : سید ہاشم حسینی (تہران : کتاب فروشی اسلامیہ) ص ۹۲۔

کیا ہے جو بیس منزلہ تھا جس میں سو عدد کمرے تھے اور کمروں کی دیواریں بیس ہاتھ لمبی اور ساری چھتیں آئینہ کاری اور شیشے سے مزین تھیں۔¹

سترابون (روم کا مشہور سیاح) نے بھی سن عیسوی سے ایک صدی قبل اس سرزمین کا دورہ کیا تو اس علاقہ کے تمدن کے بارے میں ہرودت کی طرح اپنے خیالات کا اظہار اس طرح سے کیا۔

مآرب ایک عجیب و غریب شہر ہے جس کی عمارتوں کی چھتیں عاج سے بنائی گئی ہیں اور ان کو ہیرے اور جواہرات سے مرصع تختیوں سے مزین کیا گیا ہے۔ اور وہاں ایسے خوبصورت ظروف دیکھنے کو ملے جن کو دیکھ کر انسان حیرت زدہ ہو جائے۔²

اسلامی مورخین اور جغرافیہ دان جیسے مسعودی (وفات ۳۴۶ھ) اور ابن رستہ (تیسری صدی ہجری کے دانشوروں سے ہیں) نے بھی اس علاقہ کے لوگوں کی ظہور اسلام سے قبل، پُر رونق اور خوشحال زندگی، عمارتوں اور آبادیوں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔³

انیسویں اور بیسویں صدی میں آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطالعے اور بحثوں اور مورخین کی تحقیقات سے اس علاقہ کی تاریخ واضح ہوئی اور ایسی نئی دستاویزات اور شواہد ملے جن سے اس سرزمین کے درخشاں اور قدیمی تمدن کا پتہ چلتا ہے۔ عدن، صنعاء، مآرب اور حضر موت کے آثار قدیمہ اس بات کے گواہ ہیں کہ عرب کے جنوبی علاقہ یمن اور اس کے نواح میں بسنے والوں میں عظیم تمدن پایا جاتا تھا جو فینیقیہ اور بابل کے تمدن کے مقابلہ میں تھا۔ یمن کے قدیمی تمدن کا ایک مظہر مآرب کا سب سے بڑا بند تھا۔⁴ یہ بند جو دقیق ریاضی محاسبات اور پیچیدہ نقشہ کے مطابق بنایا گیا تھا اس کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نقشہ بنانے والا علم ہندسہ کا کس قدر ماہر تھا کہ اس سے اس علاقہ میں کس قدر کاشتکاری اور خوشحالی پیدا ہوئی۔⁵

یمن کے لوگ کاشتکاری کے علاوہ تجارت بھی کرتے تھے اور سبئیان مشرق و مغرب کی تجارت کا وسیلہ تھے کیوں کہ ملک یمن اس زمانہ میں چند متمدن ملکوں کے درمیان واقع تھا۔

ہندوستان کے تاجر اپنے تجارتی مال کو سمندر کے ذریعہ یمن اور حضر موت لایا کرتے تھے اور یمن کے تاجر اس کو حبشہ، مصر، فینیقیہ، فلسطین، مدین کے شہر، ادم، عمان، مغربی ممالک لے جایا کرتے تھے۔ اور اہل مکہ بھی اپنے تجارتی مال کو خشکی کے راستے سے دنیا کے مختلف آباد علاقوں میں بھیجتے تھے۔⁶

1 سید محمود شکاری آلوسی بغدادی، بلوغ الارب فی معرفۃ احوال العرب (قاہرہ: دار الکتب الحدیثہ، ط ۲)، ج ۱، ص ۲۰۴۔

2 جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ترجمہ: علی جواہر کلام (تہران: امیر کبیر، ۱۳۳۳)، ج ۱، ص ۱۳۔

3 مسعودی، مروج الذهب و معادن الجوہر، تحقیق: محمد محیی الدین عبد الحمید (دار الرجا للطبع و النشر)، ج ۲، ص ۸۹؛ ابن رستہ، الاعلاق النفیہ، ترجمہ و تعلیق: حسین قراچانلو (تہران: امیر کبیر، ط ۱، ۱۳۶۵)، ص ۱۳۲۔

4 مآرب بند، یمن کے موجودہ دار الحکومت صنعاء کے مشرقی سمت میں ۱۹۲ کلومیٹر کے فاصلہ واقع پر ہے۔

5 اس بند کے نقشے اور اس کی تعمیر خصوصیات سے مزید آگاہی کے لئے رجوع کریں: فرہنگ قصص قرآن (ضمیمہ قصص قرآن) صدر بلاغی، (تہران: امیر کبیر، ط ۳، ص ۸۲ اور ۸۸؛ احمد حسین شرف الدین، لین عبر التاريخ، ص ۱۳۲-۱۴۲۔

6 جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ج ۱، ص ۱۱۔

ایک زمانہ تک مشرق وسطیٰ کی تجارت یمنیوں کے ہاتھ میں تھی¹ بحر احمر کی راہوں میں مشکلات کی بنا پر سببیوں نے خشکی کے راستے کو اختیار کیا اسی لئے وہ یمن سے شام تک کی مسافت کو جزیرۃ العرب کے مغربی ساحل سے طے کرتے تھے۔ یہ راستہ ”مکہ“ اور ”پترا“ سے گزر کر شمال کی جانب مصر، شام اور عراق کی طرف نکلتا ہے۔²

مَآرب کے بند کی تباہی

یمنیوں میں برائیوں کا رواج اور اندرونی فتنوں اور فسادات کی بنا پر وہاں کا چمکتا ہوا خورشید تمدن روز بروز غروب ہونے لگا تھا اور بند مَآرب جو کہ مرمت کا محتاج تھا وہاں کے حکمران اور باشندے اس کی مرمت نہیں کر سکے آخر کار ٹوٹنے کی وجہ سے سیلاب نے آس پاس کی آبادی اور کھیتی کو نابود کر دیا اور اس کے اطراف میں پانی کی قلت کی بنا پر کاشتکاری ختم ہو گئی اور لوگ دوسری جگہ کوچ کرنے پر مجبور ہو گئے۔³ قرآن کریم کے دو سوروں میں قوم سبا کا نام آیا ہے۔

ایک ملکہ سبا کے ذکر اور ان کے نام حضرت سلیمانؑ کے خط کی مناسبت سے اس طرح تذکرہ ہے ”زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ (ہدہد) آیا اور کہا: میں ایسی چیز جانتا ہوں جس سے آپ باخبر نہیں ہیں میں سرزمین سبا سے آپ کے لئے یقینی خبر لایا ہوں میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو وہاں حکومت کرتی ہے اور تمام چیزیں اس کے اختیار میں ہیں (خاص طور سے) ایک بڑا تخت رکھتی ہے۔“⁴

اور دوسری جگہ مَآرب نامی بند کے ٹوٹنے سے سیلاب کی آمد اور برائیوں اور فحشاء کے رواج کے نتیجے میں قوم کے انحطاط کی مناسبت سے یوں ذکر ہوا ہے۔ ”اور قوم سبا کے لئے ان کے وطن ہی میں ہماری نشانیاں تھیں کہ داسنے بائیں دونوں طرف باغات تھے۔ تم لوگ اپنے پروردگار کا دیار زق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو تمہارے لئے پاکیزہ شہر اور بخشش والا پروردگار ہے۔

مگر ان لوگوں نے انحراف کیا تو ہم نے ان پر بڑے زوروں کا سیلاب بھیج دیا اور ان کے دونوں باغات کو ایسے دو باغات میں تبدیل کر دیا جن کے پھل بے مزہ تھے اور ان میں جھاؤ کے درخت اور کچھ بیریاں تھیں یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کس کو سزا دیتے ہیں۔ اور جب ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں کچھ نمایاں بستیاں قرار دیں اور ان کے درمیان سفر کو معین کر دیا کہ اب دن و رات جب چاہو سفر کرو محفوظ رہو گے۔ تو انھوں نے اس پر بھی یہ کہا کہ پروردگار ہمارے شہروں اور آبادیوں میں دوری پیدا کر دے اور اس طرح اپنے نفس پر ظلم کیا تو ہم نے انھیں کہانی بنا کر چھوڑ دیا اور انھیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ یقیناً اس میں صبر و شکر کرنے والوں کے لئے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔“⁵

1 ویل ڈورانٹ، تاریخ تمدن، ترجمہ: احمد آرام و همکاران (تہران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ط ۲، ۱۳۶۷) ج ۱، ص ۳۴۱۔
2 فیلیپ حتی، تاریخ عرب، ترجمہ: ابوالقاسم پایندہ (تہران: سازمان انتشارات آگاہ، ط ۲، ۱۳۶۶) ص ۶۵-۶۴؛ رجوع کریں: گوشنلو یون، تمدن اسلام و عرب، ص ۹۴؛ احمد حسین شرف الدین، البین عبر التاريخ، ص ۱۰۵؛ آلوسی، بلوغ الارب، ج ۱، ص ۲۰۳۔

3 حسن ابراہیم، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمہ: ابوالقاسم پایندہ (تہران: سازمان انتشارات جاویدان، ط ۵، ۱۳۶۲) ص ۳۲۔

4 سورہ نمل، ۲۷-۲۲ آیت۔

5 سورہ سبا، ۳۴ آیت ۱۹-۱۵۔

حمزہ اصفہانی نے اس بند کی تباہی کو ظہور اسلام سے چار صدی قبل^۱، ابوریحان بیرونی نے تقریباً ۵ صدی قبل^۲ اور یاقوت حموی نے حبشیوں کے تسلط کے زمانہ میں ذکر کیا ہے^۳ اور چونکہ حبشیوں کا تسلط چھٹی صدی کے وسط میں ہوا تھا لہذا بعض مورخین کا گمان ہے کہ اس بند کی تباہی ۵۴۲ء سے ۵۷۰ء عیسوی کے درمیان میں ہوئی ہے۔^۴ بہر حال شاید اس بند کی تباہی تدریجی طور پر ہوئی ہے اور چند بار مرمت کے بعد آخر کار یہ منہدم ہو گیا۔

قرآن مجید میں قوم تُسُف اور ان کے انجام کار کا دو جگہ پر ذکر ہوا ہے۔

۱۔ ”بھلا یہ لوگ زیادہ بہتر ہیں یا قوم تُسُف اور ان سے پہلے والے افراد جنہیں ہم نے اس لئے تباہ کر دیا کہ یہ سب مجرم تھے“^۵

۲۔ ان سے پہلے قوم نوح، اصحاب رس^۷ اور شمود نے بھی تکذیب کی تھی۔ اور اسی طرح قوم عاد و فرعون، قوم لوط، اصحاب ایکہ^۸ اور قوم تُسُف نے بھی رسولوں کی تکذیب کی تو ہمارا وعدہ پورا ہو گیا۔^۹

جزیرۃ العرب پر جنوبی تہذیب کے زوال کے اثرات

جنوبی ملکوں کا انحطاط اور جزیرۃ العرب کے جنوب میں تمدن کا زوال اور بند مآرب کی تباہی اس علاقہ کے حالات کی تبدیلی کا باعث بنی کیونکہ وہاں پر زندگی کی سہولیت مفقود ہو گئیں تھیں اور بند کے اطراف کی کھیتیاں پانی کی عدم موجودگی کی بنا پر ختم ہو گئیں تھیں لہذا وہاں پر آباد قوموں میں سے کچھ لوگ مجبور ہو کر دوسری جگہ کوچ کر گئے۔ اس انتشار کے نتیجے میں تنوخ خاندان جو کہ یمنی قبیلہ ازد سے تھا، حیرہ (عراق)

1 حمزہ اصفہانی، تاریخ پیامبران و شاہان (تاریخ ملوک الارض والانبیاء)، ترجمہ: جعفر شعاع (تہران: امیر کبیر، ط ۲، ۱۳۶۷)، ص ۱۲۰ اور ۱۳۲۔

2 آثار الباقیہ، ترجمہ: ابکر داناسرشت (تہران: امیر کبیر، ط ۱، ۱۳۶۳)، ص ۱۸۱۔

3 معجم البلدان، الصحیح محمد امین الخانجی المکتبی (قاہرہ: مطبعۃ السعادة، ط ۱، ۱۳۲۴ھ، ق) ج ۷، ص ۳۵۵۔

4 فیلیپ خلیل حتی، تاریخ عرب، ص ۸۲۔

5 تُسُف (جس کی جمع تباہیہ ہے) یمن میں حمیری بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا۔ یہ لوگ دوسرے درجے کے بادشاہ ہوا کرتے تھے پہلے درجے کے بادشاہ، سبا اور یدان کے بادشاہ تھے جنہوں نے ۱۱۵ سال قبل مسیح سے ۲۷۵ سال بعد مسیح تک حکومت کی ہے۔ سبا، یدان، حضر موت اور شحر کے دوسرے درجے کے بادشاہوں نے ۲۷۵ء سے ۵۳۲ء تک بعد مسیح حکومت کی ہے۔ (احمد حسین شرف الدین، البین عبر التاريخ، ص ۹۷-۹۰)

6 سورۃ دخان، ۴۴، آیت ۳۔

7 وہ قوم جو یمامہ میں زندگی بسر کرتی تھی۔

8 قوم شعیب۔

9 ق. (۵۰) ۱۲-۱۳۔

ہجرت کر گیا اور وہاں ”لحمیان“ کی حکومت کی بنیاد ڈالی اور ”آل جفنه“ کا خاندان شام چلا گیا اور وہاں مشرقی اردن کے علاقہ میں حکومت کی بنیاد ڈالی اور ”سلسلہ غسانیان“ کے نام سے مشہور ہوا۔¹

قبیلہ اوس اور خزرج، یثرب (مدینہ) خزاعہ، مکہ اور اس کے اطراف میں قبیلہ بجیلہ و خثعم اور دوسرے چند گروہ، سروات کے علاقہ میں جا کر ہمیشہ کے لئے بس گئے² اور ان میں سے ہر ایک نے اپنی ایک مستقل تاریخ کی بنیاد ڈالی۔

شمالی جزیرہ العرب [حجاز] کے حالات

حجاز ایسا خشک علاقہ ہے جہاں پر بارش کم ہوتی ہے اور (پہاڑی اور ساحلی علاقوں کے علاوہ) لو چلتی ہے اور اس سے وہاں کے باشندوں کی زندگی متاثر ہے اور چونکہ یہاں کے رہنے والے، یمینیوں کے برخلاف آب و گیاہ کی کمی کی بنا پر صرف پالتو جانوروں کا ایک مختصر گلہ یا اونٹ کے علاوہ دوسری چیزیں نہیں رکھ سکتے تھے لہذا یہ لوگ اپنی خوراک اور پوشاک عموماً اونٹ کے ذریعہ فراہم کرتے تھے اور چونکہ دور دراز کے علاقوں میں ہجرت اور صحراؤں میں رفت و آمد صرف اسی طرح کی گلہ داری کے ذریعہ ممکن تھی لہذا ایک سیاسی نظام کا قیام اور خانہ بدوشوں کے لئے دائمی سکونت ممکن نہ تھی اس وجہ سے یہاں کے لوگ (جنوبی علاقہ کے لوگوں کی بہ نسبت جو کہ شہر نشین اور کاشتکار تھے) غیر متمدن، خانہ بدوش اور صحرائی لوگ تھے۔ مکہ کے علاوہ حجاز کے دوسرے شہر کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے تھے۔

انھیں علاقائی دشواریوں اور خراب راستوں کی وجہ سے اہل حجاز کا، اس زمانہ کے متمدن لوگوں سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا اور یہ قدرتی اور جغرافیائی حالات باعث بنے تھے کہ یہ علاقہ سلاطین جہاں کی طمع اور ان کے حملوں سے محفوظ رہا اور اس طرح سے دنیا کے بڑے سلاطین اور فاتحان عالم جیسے رامس دوم چودھویں صدی میں قبل مسیح، سکندر مقدونی کو قبل مسیح چوتھی صدی میں اور ایلےوس گالوس (اگوست کے زمانہ میں پہلی صدی عیسوی میں روم کا بادشاہ) کو حجاز پر تسلط سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور اسی طرح ایرانی شہنشاہوں نے بھی اس علاقہ پر قبضہ نہیں کیا اسی لئے حجاز کے لوگ آسودہ خاطر ہو کر اپنی زندگی گزار رہے تھے۔³ ایک مورخ اس بارے میں لکھتا ہے :

جس وقت دمتریوس، یونانی سردار (اسکندر کے بعد) سعودی عرب پر قبضہ کرنے کے ارادہ سے پتراپو نچا تو اس علاقہ کے بدوؤں نے اس سے کہا: اے امیر بزرگ! کیوں ہم سے جنگ کے لئے آئے ہو؟ ہم ایسے ریگستانی علاقہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جہاں زندگی گزارنے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے ہم اس بیابان اور پتے ہوئے صحرا میں اس بنا پر زندگی بسر کر رہے ہیں کہ کسی کے ماتحت اور غلام بن کر نہ رہیں۔ لہذا ہماری جانب سے پیش کردہ ہدیہ قبول فرمائیں اور اپنی جگہ واپس چلے جائیں اور ایسی صورت میں ہم آپ کے باوفا ساتھیوں میں سے ہوں گے لیکن اگر آپ نے ہمارا محاصرہ کر کے، ہمارے صلح کے مشورے کو قبول نہ کیا تو آپ کو ایک زمانہ تک اپنی راحت و سکون کی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور آپ ہماری اس عادت اور طرز زندگی کو جو شروع سے چلی آرہی ہے تبدیل نہیں کر سکتے اور اگر ہم میں سے چند افراد کو اسیر کر کے لے بھی گئے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا کیونکہ یہ لوگ اپنی ہمیشہ کی آزاد زندگی کو چھوڑ کر آپ کی غلامی نہیں کر سکتے۔ لہذا دمتریوس نے

1 حمزہ اصفہانی، تاریخ پیامبران و شاہان، ص ۹۹ اور ۱۱۹؛ نیز رجوع کریں: حسن ابراہیم حسن، تاریخ سیاسی اسلام، ص ۴۴؛ ابوریحان بیرونی، الآثار الباقیہ، ص ۱۸۱ اور ۱۸۳۔

2 کارل بروکلمان، تاریخ ملل و دول اسلامی، ترجمہ: ہادی جزایری، (تہران: ادارہ ترجمہ و نشر کتاب، ۱۳۴۶) ص ۵۔

3 جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ترجمہ: علی جواہر کلام، (تہران: امیر کبیر، ۱۳۳۳) ج ۱، ص ۱۵۔

ان کے پیش کردہ ہدیہ کو قبول کر لیا اور ایک ایسی جنگ سے جس میں مشکلات اور پریشانیوں کے علاوہ اس کے ہاتھ کچھ نہ آتا چشم پوشی کر کے واپس چلا گیا۔¹

ایک دانشمند کہتا ہے کہ جزیرۃ العرب انسان اور زمین کے درمیان روابط کے منقطع نہ ہونے کا ایک کامل نمونہ ہے۔ اگر مختلف ملکوں میں جیسے ہندوستان، یونان، اٹلی، انگلینڈ اور امریکہ میں موقع پرست قومیں مسلسل ایک دوسرے کو شکست دینے یا اپنے زیر تسلط رکھنے کی بنا پر دوسری جگہ کوچ کر گئی ہیں۔ تاریخ عرب میں کوئی ایسا جنگجو بادشاہ نہیں ملا جس نے ریگستان کے سینہ کو چاک کر کے وہاں پر دائمی سکونت اختیار کی ہو، بلکہ عرب کے لوگ (تاریخی دستاویزات کے مطابق) ہمیشہ اپنی سابقہ حالت پر باقی رہے۔ اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔²

صحرا نشین

جزیرۃ العرب کا شمالی علاقہ (حجاز) زیادہ تر صحرائی ہے لہذا وہاں کے اکثر قبائل ظہور اسلام سے قبل بادیہ نشین و صحرا گرد تھے۔ بدو عرب قدرتی مناظر سے محروم اور اپنے زندگی کے میدان میں صرف گلہ بانی کے ذریعہ وہ بھی محدود اور قدیم طرز پر زندگی گزارتے تھے۔ وہ لوگ بھیڑ بکریوں کے اون اور اونٹ کے بالوں سے بنے ہوئے خیموں میں زندگی بسر کرتے تھے۔ اور جس جگہ آب و گیاه موجود ہو وہیں جا کر بس جاتے تھے اور پانی اور سبزے کے ختم ہونے پر دوسرے علاقہ کی طرف کوچ کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے یہ لوگ ہریالی اور چراگاہ کی کمی کی وجہ سے صرف چند اونٹ اور مختصر گلہ کے علاوہ دوسرے چوپائے نہیں رکھ سکتے تھے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے: ”صحرا میں تین چیزوں، بدو عرب، اونٹ اور کھجور کے درخت کی حکومت ہوتی ہے۔“ اور اگر اس میں ریگزار کا بھی اضافہ کر دیا جائے تو بنیادی طور پر چار چیزوں کا صحرا پر غلبہ ہوتا ہے۔ پانی کی قلت، گرمی کی شدت، راہوں کی صعوبت اور آذوقہ کی کمی، عام طور سے انسانوں کے بڑے دشمن ہیں اور انسانوں کو خوف و خطرہ انھیں سے ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب یہ معلوم ہو کہ عرب اور صحرا انے کبھی بھی غیروں کے تسلط کو اپنے اوپر برداشت نہیں کیا تو ہمیں تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ صحرا کی خشکی، اس کا استرار اور یکسانیت، بدوؤں کے جسم و عقل کی تکوین میں تجلی پا گیا تھا۔ یہ لوگ کاشتکاری یا دوسرے پیشے اور کام کو اپنی شان کے لائق نہیں سمجھتے تھے۔³ لہذا امتدین حکومتوں اور شہری نظام کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور صحرا و ریگستانی علاقوں میں زندگی بسر کرنے کو ترجیح دیتے تھے اور یہ بات ان کی موروثی خصلت میں شامل تھی۔⁴

یہ لوگ ایک وسیع صحرا کے سپوت اور آزاد مزاج تھے لہذا بغیر کسی عمارت کی رکاوٹ کے یہ لوگ صاف و شفاف ہو اسے بہرہ مند ہوتے تھے، سورج کی دائمی تپش اور بارش و سیلاب کے پانی کو روکنے کے لئے کوئی سد نہیں تھا بلکہ تمام چیزیں قدرتی طور پر آزاد اور اپنی اصلی حالت پر تھیں۔

1 گوسٹاولو بون، تاریخ تمدن اسلام، ج ۱، ص ۸۸۔

2 فیلیپ حتی، تاریخ عرب، ص ۱۳۔

3 فیلیپ حتی، تاریخ عرب، (تہران: آگاہ ۲، ۱۳۶۶) ص ۳۵، ۳۳۔

4 گوسٹاولو بون، تاریخ تمدن اسلام، ج ۱، ص ۶۵-۶۴؛ ویل ڈورانٹ، تاریخ تمدن، (عصر ایمان) ج ۳، (بخش اول)، ترجمہ: ابوطالب صامی (تہران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۶۸) ص ۲۰۱۔

کاشتکاری اور کاروبار نے انھیں محدود اور مصروف نہیں کر رکھا تھا اور نہ ہی شہر کی بھیڑ بھاڑ سے وہ تنگ آ گئے تھے اور چونکہ آزاد زندگی کی عادت تھی لہذا آزادی کو پسند کرتے تھے اور اپنے کو کسی قانون اور نظام کا پابند نہیں سمجھتے تھے اور جو بھی ان پر فرمانروائی کرنا چاہتا تھا اس سے پوری طاقت کے ساتھ لڑتے تھے۔ صرف دو چیزیں ان کو محدود کئے ہوئے تھیں :

۱۔ ایک بت پرست نظام کی قید و بند اور اس کے مذہبی رسومات۔

۲۔ دوسرے قبیلوں کے آداب و رسومات اور قبیلے سے وابستگی کی بنا پر جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی تھیں۔

البتہ ان کے یہاں قبیلہ کے رسم و رواج کی پیروی خلوص اور اعتقاد جازم کے ہمراہ تھی۔¹

لار منس بلجیکی (مشرقی محقق) کہتا ہے: عرب، آزادی اور ڈیموکراسی کا نمونہ تھے۔ لیکن ایسی افراطی ڈیموکراسی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ اور جو بھی ان کی طاقت اور آزادی کو محدود کرنا چاہتا تھا (اگرچہ یہ محدودیت ان کے فائدہ میں ہو) وہ اس کے خلاف قیام کرنے کے لئے تیار ہو جاتے تھے۔ جس سے ان کے ظلم اور جرائم کا پتہ چلتا ہے جس سے تاریخ عرب کا ایک عظیم حصہ پڑ ہے۔²

قبائلی نظام

ظہور اسلام سے قبل حجاز کا علاقہ کسی حکومت کے تابع نہیں تھا اور وہاں کوئی سیاسی نظام نہیں پایا جاتا تھا اسی بنا پر ان کی معاشرتی زندگی ایران اور روم کے لوگوں سے بہت زیادہ فرق کرتی تھی۔ کیونکہ یہ دونوں ملک سعودی عرب کے ہمسایہ تھے اور ان میں مرکزی حکومت پائی جاتی تھی جس کے زیر نظر ملک کے تمام علاقے تھے اور وہاں پر مرکز کے قوانین نافذ تھے۔

لیکن حجاز (مجموعی طور سے شمال اور مرکز جزیرۃ العرب کے علاقہ کو کہتے ہیں) میں ایک مرکزی حکومت شہروں میں بھی موجود نہیں تھی۔ عرب کے سماج کی بنیاد قبیلے پر اور ان کا سیاسی اور اجتماعی نظام، قبائلی نظام کے مطابق تھا۔ اور یہ نظام ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں نمایاں تھا۔ اور اس نظام میں لوگوں کی حیثیت صرف کسی قبیلہ سے منسوب ہونے کی بنا پر متعین ہوتی تھی۔

قبیلہ جاتی زندگی کا تصور نہ تھا صحرائی نشینوں میں بلکہ شہروں میں بھی نمایاں تھا۔ اس علاقہ میں ہر قبیلہ ایک مستقل ملک کے مانند تھا اور اس دور میں قبائل کے درمیان تعلقات ویسے ہی تھے جیسے آج کسی ملک کے تعلقات دوسرے ملکوں سے ہوتے ہیں۔

1 احمد امین، فجر الاسلام، (قاہرہ: مکتبۃ النہضۃ المصریۃ، ۹۵، ۱۹۶۴ء)، ص ۴۶۔

2 وہی حوالہ، ص ۳۴-۳۳، نعمان بن منذر (حیرہ کے بادشاہ) نے کسریٰ (بادشاہ ایران) کے جواب میں جس نے پوچھا تھا کہ کیوں عرب کی قوم ایک حکومت اور نظام کے تحت نہیں رہتی ہے؟ کہا دوسری قومیں چونکہ اپنے کو کمزور محسوس کرتی ہیں اور دشمن کے حملہ سے خوف کھاتی ہیں، لہذا اپنے کاموں کو ایک خاندان کے سپرد کر دیتی ہیں لیکن عربوں میں ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم بادشاہ رہیں اور وہ خراج و ٹیکس دینے سے نفرت کرتے ہیں (آلوسی بلوغ الارب، ج ۱، ص ۱۵۰)۔

نسلی رشتہ

اس زمانہ میں عربوں میں ”ملت“ اور ”قومیت“ وحدت دین، زبان یا تاریخ جیسے مختلف موضوعات کی بنیاد پر متصور نہیں تھی بلکہ چند خاندانوں کے مجموعہ کو ”قبیلہ“ کہتے تھے اور حسب و نسب اور خاندانی رشتے اور ناطے ہی افراد کے درمیان تعلقات کی بنیاد تھے۔ اور انھیں چیزوں کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان تعلقات اور رشتے قائم تھے کیونکہ ہر قبیلہ کے لوگ اپنے کو اسی قبیلہ کے خون سے سمجھتے تھے۔¹ خانوادے کے اجتماع سے خیمہ اور خیموں کے اجتماع سے قبیلہ وجود پاتا تھا۔ اور متعدد قبیلوں سے مل کر بڑی تنظیمیں تشکیل پاتی تھیں جیسے یہودیوں کی تنظیم ایک ہی نسل اور خاندان کی بنیاد پر تھی۔ یہ لوگ اپنے خیموں کو اتنا قریب نصب کرتے تھے کہ اس سے چند ہزار افراد پر مشتمل قبیلہ ہو جاتا تھا اور پھر ایک ساتھ مویشیوں کے ہمراہ کوچ کرتے تھے۔²

قبیلہ کی سرداری

قبیلہ کے سردار اور نمائندہ کو ”شیخ“ کہا جاتا تھا³ شیخ عام طور پر سن رسیدہ ہوتا تھا اور قبیلہ کی سرداری چند چیزوں کی بنا پر ملتی تھی۔ بڑی شخصیت، تجربہ یا قبیلہ سے دفاع کرنے میں شجاعت کا اظہار اور کثرت مال ہے⁴ شیخ کے انتخاب میں امتیازی صفات جیسے سخاوت، شجاعت، صبر، حلم، تواضع اور انداز بیان کا لحاظ بھی کیا جاتا تھا۔⁵

قبیلہ کا سردار، فیصلے، جنگ اور دوسرے عمومی امور میں، ڈکٹیٹر شپ کا درجہ نہیں رکھتا تھا بلکہ ہر کام کے لئے، اس کمیٹی سے مشورہ لیتا تھا جو بزرگان قوم و قبیلہ کے ذریعہ تشکیل پاتی تھی اور یہی وہ افراد تھے جو شیخ کا انتخاب کرتے تھے اور جب تک اس کے گروہ والے اس سے خوش رہتے تھے وہ اپنے منصب پر باقی رہتا تھا⁶ ورنہ معزول کر دیا جاتا تھا۔ لیکن بہر حال قبیلہ کے دستور کے مطابق، تمام افراد رئیس کی پیروی کرتے تھے اور اس کے مرنے کے بعد اس کا بڑا بیٹا اور کبھی ایک سن رسیدہ شخص جس کے اندر اس کی تمام خوبیاں پائی جاتی تھیں یا وہ شخص جو خاص شخصیت اور لیاقت کا مالک ہو کر رہتا تھا اسے اس منصب کے لئے چنا جاتا تھا۔

دین اسلام نے قبیلہ جاتی نظام سے جنگ کی اور اس کو ختم کیا اور حسب و نسب جو اس نظام کی بنیاد تھی اس کو اہمیت نہیں دی اور نئے اسلامی معاشرے کی بنیاد، وحدت عقیدہ اور ایمان پر استوار کی، جو کہ اجتماعی رشتہ جوڑنے میں بہت موثر ہے اور اس طرح وحدت خون کی جگہ، وحدت ایمان کو بنیاد قرار دیا اور تمام مومنین کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا⁷ اور اس طرح سے عرب سماج کے ڈھانچے کی بنیاد میں تبدیلی پیدا ہوئی۔

1 احمد امین، فجر الاسلام، ص ۲۲۵؛ عبد المنعم ماجد، التاريخ السياسي للدولة العربية، (قاہرہ: ط ۷، ۱۹۸۲)، ص ۲۸.

2 کارل بروکلمان، تاریخ دول و ملل اسلامی، ص ۶-۵.

3 رئیس، امیر اور سید بھی کہا جاتا ہے۔ (عبد المنعم، التاريخ السياسي للدولة العربية، ص ۲۹)

4 وہی حوالہ.

5 آلوسی، بلوغ اللارب، تصحیح محمد بجدہ الأثری، (قاہرہ: دار الکتب الحديث، ط ۳)، ج ۲، ص ۱۸۷

6 فیلیپ حتی، تاریخ عرب، ص ۳۹.

7 (انما المومنون اخوة) سورہ حجرات، ۲۹، آیت ۱۰.

قبائلی تعصب

تعصب اس حد تک تھا کہ قبیلہ کی روح قرار دیا گیا تھا اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص بے انتہا اپنے قبیلہ کے افراد سے وابستہ تھا۔ مجموعی طور پر صحرائی قبیلوں میں قبیلہ جاتی تعصب، وطن پرستی کے تعصب کی مانند تھا۔¹ وہ کام جو ایک متمدن شخص اپنے ملک، مذہب یا قوم کے لئے انجام دیتا ہے بدو عرب اپنے قبیلہ کے لئے انجام دیتے تھے اور اس راہ میں ہر کام انجام دینے کے لئے تیار رہتے تھے، یہاں تک کہ اپنی جان نثار کر دیتے تھے۔²

عربوں کے درمیان، قبائلی لوگوں کا برتاؤ اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کے حق میں تعصب کی حد تک ہوتا تھا یعنی یہ لوگ ہر حال میں اپنے اقرباء کی حمایت کرتے تھے چاہے وہ حق پر ہوں یا باطل پر، خطاکار ہوں یا درست کار، ان کی نظروں میں اگر کوئی اپنے بھائی کی حمایت کرنے میں کوتاہی کرے تو اس کی شرافت داغ دار ہو جاتی ہے اس سلسلہ میں وہ کہتے تھے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔

ایک عرب شاعر نے اس بارے میں کہا ہے: جس وقت ان کے بھائیوں نے مشکلات میں ان کی مدد چاہی تو وہ بغیر کسی سوال اور دلیل کے ان کی مدد کو دوڑ پڑے۔³

یہی وجہ تھی کہ اگر قبیلہ کے کسی فرد کی اہانت ہو جاتی تو وہ پورے قبیلہ کی اہانت سمجھی جاتی تھی۔ اور قبیلہ کے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ اس اہانت اور بے عزتی کے داغ کو مٹانے کے لئے وہ اپنی پوری طاقت صرف کر دیں۔⁴

دین اسلام اس طرح کے اندھے قبائلی تعصب کی مذمت کرتا ہے اور اسے جاہلانہ اور غیر منطقی قرار دیتا ہے۔ ”اس وقت کو یاد کرو جب کفار اپنے دلوں میں زمانہ جاہلیت جیسا تعصب رکھتے تھے۔“⁵

پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے: جو شخص تعصب کرے یا اس کے لئے تعصب کیا جائے وہ اسلام سے خارج ہے⁶ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے: جو شخص تعصب کی بات کرے یا لوگوں کو تعصب کی طرف دعوت دے یا تعصب کی روح اور فکر رکھتے ہوئے مر جائے وہ ہم میں سے نہیں ہے⁷ نیز آپ

1 فیلیپ حتی گزشتہ حوالہ، ص ۳۸۔

2 ویل ڈورانٹ گزشتہ حوالہ، (عصر ایمان) ج ۴، ص ۲۰۰۔

۳ لایسٹون اخابم حین یندبہم * فی النائبات علی ماقال بریانا (احمد امین، گزشتہ حوالہ، ص ۱۰)۔

۴ حسن ابراہیم حسن، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمہ: ابوالقاسم پایندہ (تہران: سازمان انتشارات جاویدان، ط ۵، ۱۳۶۲)، ج ۱، ص ۳۸-۳۷؛ عبد المنعم ماجد، گزشتہ حوالہ، ص ۵۱-۵۰۔

۵ (اذجعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ) سورۃ فتح، ۴۸ آیت ۲۶۔

۶ من تعصب او تعصب لہ فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه۔ (صدوق)، ثواب الاعمال، و عقاب الاعمال، (تہران: مکتبۃ الصدوق)، ص ۲۶۳؛ کلینی، الاصول من الکافی (تہران: مکتبۃ الصدوق، ط ۲، ۱۳۸۱ھ)، ج ۲، ص ۳۰۸۔

۷ لیس منا من دعا الی عصبیۃ، و لیس منا من قال (علی عصبیۃ) و لیس منا من مات علی عصبیۃ۔ (سنن ابی داؤد (بیروت: دارالفکر)، ج ۴، کتاب الادب، باب فی العصبیۃ، ص ۳۳۲، حدیث ۵۱۲۱-)

نے فرمایا: اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم لوگوں نے عرض کیا: مظلوم کی مدد کرنا تو معلوم ہے، ظالم کی کس طرح سے مدد کریں؟ آپ نے فرمایا: اسے ظلم کرنے سے روکو۔¹

قبائلی انتقام

عرب میں اس وقت کوئی ایسی مرکزی حکومت یا کمیٹی موجود نہیں تھی جو لوگوں کے اختلافات کو ختم کرے اور وہاں پر عدل و انصاف قائم کر سکے۔ جس پر ظلم و ستم ہوتا تھا وہ اپنا انتقام لیتا تھا اور اگر ظالم دوسرے قبیلہ کا ہوا کرتا تھا تو مظلوم کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنا بدلہ اس قبیلہ کے تمام افراد سے لے اور یہ چیز عربوں میں بہت عام تھی²۔ کیونکہ لوگوں کی خطائیں پورے قبیلہ کی طرف منسوب ہوتی تھیں اور قبیلہ کا ہر فرد رشتہ دار ہونے کی وجہ سے ذمہ دار تھا کہ وہ اپنے قبیلے کے تمام افراد کی مدد کرے۔ (بغیر اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ وہ حق پر ہے یا ناحق) اور یہ ذمہ داری شروع میں گھر، خاندان اور اقرباء کی جانب سے انجام پاتی تھی۔ اور جب اس میں وہ کامیاب نہیں ہوتے تھے اور خطرہ نہیں ملتا تھا تو گروہ اور قبیلہ کے دوسرے افراد اس کی مدد کرتے تھے۔

اگر کوئی قتل ہو جاتا تھا تو قصاص کی ذمہ داری اس کے قریب ترین رشتہ دار پر ہوتی تھی³ اور اگر مقتول دوسرے قبیلہ سے ہوتا تھا تو وہاں پر انتقام کی ”رسم“ جاری ہوتی تھی اور قاتل کے قبیلہ کے ہر فرد کو یہ خطرہ لاحق رہتا تھا کہ کہیں مقتول کے بدلہ میں اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑے۔ کیونکہ ان کی صحرائی سنت اور رسم یہ تھی کہ ”خون صرف خون کے ذریعہ دھلتا ہے“ اور خون کا بدلہ صرف خون ہے۔

لوگوں نے ایک اعرابی سے کہا: کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ جس نے تمہیں اذیت پہنچائی ہے اسے معاف کر دو اور انتقام نہ لو؟ اس نے جواب دیا کہ میں خوش ہوؤں گا اگر بدلہ لوں اور جہنم میں جاؤں۔⁴

قبائلی رقابت اور فخر و مباہات

اس زمانہ میں عرب کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ ایک دوسرے پر فخر و مباہات کیا کرتے تھے اور جو چیزیں اس سماج میں عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھیں (اگرچہ وہ چیزیں موہوم اور بے بنیاد ہوتی تھیں) اس پر ناز کرتے تھے اور اس کی بنا پر دوسرے قبائل پر فخر کرتے تھے۔

1 عن انس قال: قال رسول الله انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً . قالوا: يا رسول الله هذا ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً؟ قال: تأخذ فوق يديه۔ (صحيح بخاری بحاشية السندی (بيروت: دارالمعرفة)، ج ۲، كتاب المظالم، ص ۶۶؛ مسند احمد، ج ۳، ص ۲۰۱)۔

2 حسن ابراہیم حسن گزشتہ حوالہ، ص ۳۹۔

3 بروکلیمان گزشتہ حوالہ، ص ۶۷۔

4 نویری، نہایۃ العرب فی فنون الادب (وزارة الثقافة والارشاد القومي المصري) ج ۶، ص ۶۷۔

میدان جنگ میں شجاعت، بخشش اور وفاداری،¹ مال و دولت کثرت اولاد اور کسی بڑے قبیلہ سے تعلق ہر ایک اس زمانہ کے عرب کی نگاہ میں بڑی اہمیت کا حامل اور وسیلہ برتری تھا اور وہ اس چیز کو اپنے افتخار کا ذریعہ سمجھتے تھے۔

قرآن کریم نے ان کی باتوں کی اس طرح سے مذمت کی ہے :

”اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اموال اور اولاد کے اعتبار سے تم سے بہتر ہیں اور ہم پر عذاب ہونے والا نہیں ہے آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار جس کے رزق میں چاہتا ہے کمی یا زیادتی کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں اور تمہارے اموال اور اولاد میں کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہیں ہماری بارگاہ میں قریب بنا سکے علاوہ ان کے جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کئے۔“²

ایک دن کسریٰ (بادشاہ ایران) نے نعمان بن منذر (بادشاہ حیرہ) سے پوچھا کہ کیا قبائل عرب میں کوئی ایسا قبیلہ ہے جو دوسروں پر شرف اور برتری رکھتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا: ہاں! تو اس نے کہا: ان کے شرف کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جس کے باپ دادا میں سے تین شخص لگاتار رئیس قبیلہ ہوں اور ان کی نسل سے چوتھا بھی رئیس بنے تو قبیلہ کی ریاست اس کے خاندان کو ملتی ہے۔³

عصر جاہلیت میں عرب قبیلہ کے افراد کی کثرت کو اپنے لئے مایہ افتخار سمجھتے تھے اور اس طرح اپنے رقیب قبائل پر فخر و مباہات کرتے اور ان سے افراد کی تعداد کا مقابلہ کرتے تھے⁴ یعنی اپنے افراد کی تعداد بتا کر یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان کے قبیلہ کی تعداد دشمن کے مقابلہ میں زیادہ ہے۔

ایک دن دو قبیلوں کے درمیان اس قسم کا تفاخر شروع ہوا، ہر ایک نے اپنے قبیلہ کے افتخارات بیان کئے اور طرفین نے دعویٰ کیا کہ ہماری خوبیاں اور قبیلہ کے افراد، دوسرے قبیلہ کے مقابل میں زیادہ ہیں اس موقع پر دونوں کی تعداد کو شمار کیا گیا، زندہ لوگوں کی سرشماری مفید ثابت نہیں ہوئی تو مردوں کے شمارش کی نوبت آئی اور دونوں طرف کے لوگ قبرستان گئے اور اپنے اپنے مردوں کو شمار کیا۔⁵

قرآن کریم نے ان کے اس جاہلانہ اور غیر عاقلانہ طرز عمل کی اس طرح سے مذمت کی ہے۔

”تمہیں باہمی مقابلہ کثرت مال اور اولاد نے غافل بنا دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں سے ملاقات کر لی اور اپنے مردوں کی قبروں کو شمار کیا اور اس پر فخر و مباہات کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ گمان کرتے ہو، دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔“⁶

1 آلوسی، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۸۰۔

2 سورہ سبا، آیت ۳۷-۳۵۔

3 آلوسی، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۸۱۔

4 منافہ، نفر سے بنا ہے یعنی ہر ایک اپنی تعداد دوسرے سے زیادہ بتاتا تھا۔ (آلوسی، گزشتہ حوالہ، ص ۲۸۸) اس قسم کے تفاخر کے بے شمار واقعات، ظہور اسلام سے قبل تاریخ عرب میں نقل ہوئے ہیں۔

5 سید محمد حسین طباطبائی، تفسیر المیزان، ج ۲۰، ص ۳۵۳؛ آلوسی، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۷۹۔

6 سورہ نکل، آیت ۱۰۲-۱۰۳۔

نسب کی اہمیت

جاہل عربوں کے درمیان کمال کا ایک اہم معیار، نسب ہوا کرتا تھا جو ان کی نظر میں بہت اہمیت رکھتا تھا یہاں تک کہ بہت ساری خوبیاں ”نسب“ کی بنا پر ہوا کرتی تھیں۔¹

قبائل عرب میں نسلی تفاخر بہت زیادہ پایا جاتا تھا جس کا واضح نمونہ وہ قومی رقابتیں ہیں جو عدنانیوں (شمالی عرب) اور قحطانیوں (جنوبی عرب) کے درمیان پائی جاتی تھیں۔² اسی بنا پر وہ لوگ اپنے نسب کی شناخت اور حفاظت کو اہمیت دیتے تھے۔

نعمان بن منذر کسریٰ کے جواب میں کہتا ہے: عرب کے علاوہ کوئی بھی امت، اپنے نسب سے واقف نہیں ہے اور اگر ان کے اجداد کے بارے میں پوچھا جائے تو اظہارِ لاعلمی کرتے ہیں لیکن ہر عرب اپنے آباء و اجداد کو پہچانتا ہے اور غیروں کو اپنے قبیلہ کا جزء نہیں مانتا اور خود دوسرے قبیلہ میں شامل نہیں ہوتا اور اپنے باپ کے علاوہ دوسروں سے منسوب نہیں ہوتا۔³

لہذا تعجب کی بات نہیں ہے کہ علم ”نسب شناسی“ اس وقت ایک محدود علم تھا جس کی بڑی اہمیت تھی اور نسب دانوں کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔

آلوسی جو کہ عرب شناسی کے مسئلہ میں صاحبِ نظر ہے کہتا ہے: عرب کے جاہل اپنے نسب کی شناخت اور حفاظت کو بہت اہمیت دیتے ہیں کیونکہ یہ شناخت الفت و محبت کا ایک وسیلہ تھی وہ اور ان کے یہاں اس کی زیادہ ضرورت پڑتی تھی کیونکہ ان کے قبائل متفرق ہوتے تھے اور جنگ کی آگ مستقل ان کے درمیان شعلہ ور تھی اور لوٹ و مار ان کے درمیان رائج تھا۔ اور چونکہ وہ کسی قدرت کے ماتحت نہیں رہنا چاہتے تھے جو ان کی حمایت کرے لہذا وہ مجبور ہو کر اپنے نسب کی حفاظت کیا کرتے تھے تاکہ اپنے دشمن پر کامیاب ہو سکیں کیونکہ رشتہ داروں کی آپسی محبت، حمایت اور تعصب ایک دوسرے کے الفت اور تعاون کا باعث بنتی ہے اور رسوائی اور تفرقہ سے رکاوٹ کا باعث قرار پاتی ہے۔⁴

1 مثلاً اس زمانہ کی رسم یہ تھی کہ اگر کسی کا باپ عرب اور ماں عجمی ہوتی تھی تو اس کو طعنہ اور تحقیر کرنے کے لئے ”عجمین“ کہتے تھے (جو نسب کی پستی اور ناخالصی پر دلالت کرتا ہے) اور اگر کوئی اس کے برعکس ہوتا تھا تو اس کو ”مذکرع“۔۔۔ کہتے تھے۔ عجمین ارث سے محروم رہتا تھا (ابن عبد ربہ اندلسی، العقد الفرید، (بیروت: دار الکتاب العربی، ۱۴۰۳ھ، ج ۶، ص ۱۲۹؛ عجمین مرد صرف اپنی جیسی عورتوں سے شادی کرنے کا حق رکھتا تھا (محمد بن حبیب المحبر، (بیروت: دار الآفاق الحدیثہ)، ص ۳۱۰؛ شہرستانی، الملل والنحل، (قم: منشورات الرضی، ۲۵۴ھ) دور اسلام میں پیغمبر اسلام سے عجمین کے خون بہا کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب میں فرمایا: اسلام کے ماننے والوں کے خون کی قیمت برابر ہے۔ (ابن شہر آشوب، مناقب، قم: المطبعة العلمیہ، ج ۱، ص ۱۱۳۔

2 جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، (بیروت: دار العلم للملائین، ۱۹۶۸م)، ج ۱، ص ۴۹۳ کے بعد؛ شوقی ضیف، تاریخ الادب العربی، العصر الجاہلی، ص ۵۵۔

3 آلوسی، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۴۹۔ زمانہ اسلام میں عمر بن خطاب نے اسی فکر سے متاثر ہو کر عراق کے نبطیوں سے جنھوں نے اپنا تعارف اپنے رہنے کی جگہ سے کیا تھا، ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا: اپنے نسب کو سیکھو اور عراق کے نبطیوں کی طرح نہ بنو اس لئے کہ جب ان سے ان کے خاندان اور نسب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو جواب میں کہتے ہیں فلاں جگہ اور فلاں محل کا رہنے والا ہوں۔ (ابن خلدون، مقدمہ، تحقیق: خلیل شحادہ و سہیل زکار، نویں فصل، ص ۱۶۲؛ ابن عبد ربہ اندلسی، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۳۱۲)۔

4 بلوغ الارب، ج ۳، ص ۱۸۲؛ اسی طرح رجوع کریں: المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج ۱، ص ۴۶۷۔۴۶۶۔

دین اسلام ہر طرح کی قومی برتری کا مخالف ہے اگرچہ قرآن کریم قریش اور عرب کے درمیان نازل ہوا تھا لیکن اس کے مخاطبین صرف قریش، عرب یا اس کے مانند دوسرے افراد نہیں ہیں بلکہ اس کے مخاطبین عوام الناس ہیں اور اس میں مسلمانوں اور مومنین کے فرائض بیان کئے گئے ہیں۔ قرآن کریم قومی فرق کو فطری جانتا ہے اور اس فرق کا فلسفہ بتاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں اور قومی اور نسلی فخر و مباہات کی مذمت کرتا ہے اور بزرگی کا معیار ”تقویٰ“ کو بتاتا ہے۔

اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر تم میں شاخیں اور قبیلے قرار دیئے ہیں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو بیشک تم میں خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے اور اللہ ہر شئی کا جاننے والا اور ہر بات سے باخبر ہے۔¹

پیغمبر اسلام نے نسلی اور خاندانی فخر و مباہات کی شدت سے مخالفت کی ہے۔ جس کے چند نمونے یہ ہیں :

۱۔ فتح مکہ کے موقع پر جب قریش کا اصلی قلعہ منہدم ہو گیا تو آپ نے فرمایا: اے لوگو! خداوند عالم نے نور اسلام کے ذریعہ، زمانہ جاہلیت میں رائج فخر و مباہات کو ختم کر دیا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم نسل آدم سے ہو اور آدم خاک سے پیدا ہوئے ہیں۔ خدا کا بہترین بندہ وہ ہے جو متقی ہو کسی کے باپ کا عربی ہونا فضیلت نہیں رکھتا، یہ صرف زبانی بات ہے اور جس کا عمل اسے کسی مرتبہ پر نہ پہنچا سکے اس کا نسب و خاندان بھی اسے کسی مرتبہ پر نہیں پہنچا سکتا۔²

۲۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک مفصل خطبہ کے دوران جو کہ اہم اور بنیادی مسائل پر مشتمل تھا آپ نے فرمایا: کوئی عربی، عجمی پر فضیلت نہیں رکھتا، صرف تقویٰ کے ذریعہ آدمی بزرگ اور محترم قرار پاتا ہے۔³

۳۔ ایک دن آپ نے قریش کے سلسلے میں گفتگو کے دوران، جناب سلمان کی باتوں کی تائید فرمائی اور قریش کے غلط طرز فکر اور انکی نژاد پرستی کے مقابلہ میں روحانی کمالات پر تکیہ کرتے ہوئے فرمایا: اے گروہ قریش! ہر شخص کا دین ہی اس کا حسب و نسب ہے اور ہر کسی کا اخلاق و کردار ہی اس کی مردانگی ہے اور ہر ایک کی اساس اور بنیاد اس کی عقل و فہم اور دانائی ہے۔⁴

قبائلی جنگیں

اگر عرب کے درمیان کوئی قتل و رونا ہوتا تھا تو اس کی ذمہ داری قاتل کے قریبی ترین افراد پر عائد ہوتی تھی اور چونکہ قاتل کا قبیلہ اس کی حمایت پر آمادہ اور کمر بستہ نظر آتا تھا، لہذا انتقام کے لئے خون ریز جنگیں ہوتی تھیں۔ اور یہ جنگیں جو عام طور پر چھوٹی باتوں پر ہوتی تھیں کئی سالوں تک جاری رہتی تھیں جیسا کہ ”جنگ بسوس“ جو کہ دو قبیلوں بنی بکر اور بنی تغلب کے درمیان (یہ دونوں قبیلے ربیعہ سے تھے)

1 سورہ حجرات ۴۹، آیت ۱۳۔ حضرت امام صادق سے ایک روایت کے مطابق اور بعض تفسیروں کی بنیاد پر، مذکورہ آیت میں کلمہ ”قبائل“ سے مراد عرب کے چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں جن میں سے ہر ایک کو ”قبیلہ“ کہا جاتا ہے اور ”شعوب“ سے مراد غیر عربی گروہ ہے۔ (طبرسی، مجمع البیان، تفسیر سورہ حجرات، ذیل آیہ ۱۳)

2 کلیئۃ الروضۃ من الکافی (تہران: دارالکتب الاسلامیہ، ط ۲)، ص ۲۴۶؛ مجلسی، بحار الانوار (تہران: دارالکتب الاسلامی)، ج ۲۱، ص ۱۳۷ اور ۱۳۸، اور الفاظ میں تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ، سیرہ ابن ہشام، ج ۴، ص ۵۴ پر نقل ہوا ہے۔

3 حسن بن علی بن شعبہ، تحف العقول (قم: مؤسسۃ النشر الاسلامی، ط ۳، ۱۳۶۳)، ص ۳۴۔

4 کلیئۃ ہزشتہ حوالہ، ص ۱۸۱۔

چھڑی چالیس سال تک جنگ جاری رہی اور اس جنگ کی وجہ یہ تھی کہ پہلے قبیلہ کا اونٹ جو کہ بسوس نامی خاتون کا تھانی تغلب کی چراگاہ میں چرنے کے لئے چلا گیا تو اسے ان لوگوں نے مار ڈالا۔¹

اسی طرح سے ”داحس اور غبراء نامی“ دو خون ریز جنگ قیس بن زہیر (قبیلہ بنی قیس کا سردار) اور حذیفہ ابن بدر (قبیلہ بنی فزارہ کا سردار) کے درمیان ایک گھوڑ دوڑ کے سلسلہ میں رونما ہوئی اور مدتوں جاری رہی۔ داحس اور غبراء نامی دو گھوڑے تھے ایک قیس کا اور دوسرا حذیفہ کا تھا۔ قیس نے دعوا کیا کہ اس کا گھوڑا مسابقہ میں جیتا ہے اور حذیفہ نے دعوا کیا کہ اس کا گھوڑا مسابقہ میں بازی لے گیا، اسی مختصر سی بات پر دونوں کے درمیان جنگ کی آگ بھڑک اٹھی اور بہت زیادہ قتل اور خونریزی رونما ہوئی۔² اور اس طرح کے واقعات ”ایام العرب“ کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور اس کے بارے میں کتابیں لکھی گئیں۔ البتہ کبھی چند اونٹ خون بہا کے طور پر دے کر مقتول کی دیت ادا کر دی جاتی تھی۔ اور ہر قبیلہ کے بزرگ اس قسم کے مسائل کے لئے راہ حل تلاش کرتے اور اس کو قوم کے سامنے پیش کرتے تھے لیکن وہ اس کو قوم پر تھوپتے نہیں تھے۔ اور زیادہ تر قبائل ان تجاویز کو اس وقت قبول کرتے تھے جب طولانی جنگوں سے تھک اور ناامید ہو جاتے تھے تو ان تجاویز کو قبول کر لیتے تھے۔

اگر قاتل کا گروہ، خطاوار کو قصاص کے لئے مقتول کے سپرد کر دیتا تو یہ جنگ رونما نہ ہوتی لیکن ان کی نظروں میں ایسا کرنا ان کی عزت و وقار کے خلاف تھا اسی بنا پر وہ اپنے لئے بہتر سمجھتے تھے کہ خطاکار کو خود سزا دیں۔ کیونکہ بادیہ نشینوں کی نگاہ میں عزت اور آبرو کی حفاظت سب سے زیادہ اہم تھی اور وہ اپنے تمام اعمال میں اس بات کا اظہار کیا کرتے تھے۔

ان کے درمیان جو قوانین اور دستورات رائج تھے وہ کم و بیش حجاز کے شہروں یعنی طائف، مکہ اور مدینہ میں بھی نافذ تھے۔ کیونکہ ان شہروں کے باشندے بھی اپنے سماج میں بادیہ نشینوں کی طرح مستقل اور آزاد رہتے تھے اور کسی کی پیروی نہیں کرتے تھے بادیہ نشینوں میں تعصب اور آبرو پرستی، بے حد اور مبالغہ آمیز تھی۔ لیکن مکہ میں کعبے کے احترام اور تجارتی مرکز ہونے کی بنا پر ایک حد تک متوسط تھی۔³

قرآن کریم اس قسم کے تعصب اور انتقام کی مذمت کرتا ہے اور نصرت اور حمایت کا معیار، حق و عدالت کو قرار دیتا ہے اور تاکید فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیئے کہ وہ عدالت کو شدت کے ساتھ قائم کریں اگرچہ یہ عدالت والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

”اے ایمان والو! عدل و انصاف کے ساتھ قیام کرو اور اللہ کے لئے گواہی دو چاہے اپنی ذات یا اپنے والدین اور اقرباء کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جس کے لئے گواہی دینا ہے وہ غنی ہو یا فقیر اللہ دونوں کی حمایت کا تم سے زیادہ سزاوار ہے لہذا خبردار! خواہشات کا اتباع نہ کرنا تاکہ انصاف نہ کر سکو اور اگر توڑ مروڑ سے کام لیا یا بالکل کنارہ کشی کر لی تو یاد رکھو کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔“⁴

1 محمد احمد جاد المولیٰ بک، علی محمد البجاوی و محمد ابوالفضل ابراہیم، ایام العرب فی الجالبیہ، (بیروت: دار احیاء التراث العربی)، ص ۱۶۸-۱۴۲؛ رجوع کریں: ابن اثیر، الکامل فی التاریخ (بیروت: دار صادر، ۱۳۹۹ھ، ق)، ج ۱، ص ۵۳۹-۵۲۳۔

2 عبد الملک بن ہشام، سیرۃ النبی، تحقیق: مصطفیٰ السقاء (اور دوسرے لوگ)، (قاہرہ: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ۱۳۵۵ھ، ق)، ج ۱، ص ۳۰۷؛ یا قوت حموی، معجم البلدان، قاہرہ: مطبعة السعادة، ط ۱، ۱۳۲۳ھ، ق)، ج ۱، ص ۲۶۸ لفظ (صاد)۔ ابن اثیر اور جاد المولیٰ بک دونوں قیس کا گھوڑا جانتے تھے۔ (الکامل فی التاریخ، ج ۱، ص ۵۸۲-۵۶۶؛ ایام العرب، ص ۲۷۷-۲۴۶)۔

3 بروکلمان، گزشتہ حوالہ، ص ۸۔

4 سورہ نساء، آیت ۱۲۵۔

غارت گری اور آدم کشی

بدو عرب اپنے قبیلہ کے علاوہ دوسروں سے دوستی اور محبت نہیں کرتے تھے ان کا دائرہ فکر اور فہم صرف اپنے قبیلہ تک محدود ہوتا تھا یہ لوگ اس قدر متعصب اور قبیلہ پرست ہوتے تھے کہ دنیا کی ساری چیزیں صرف اپنے لئے چاہتے تھے اور سب سے زیادہ اپنے اور اپنے رشتہ داروں کا فائدہ چاہتے تھے جیسا کہ ان میں سے کسی نے زمانہ اسلام میں اپنی جاہلیت کی تہذیب سے متاثر ہو کر اس طرح سے دعا کی، اے خدا! مجھ پر اور محمدؐ پر رحم فرما اور ہمارے علاوہ کسی پر رحم نہ کر۔¹

ان میں صحرائی زندگی کی بنا پر جو محرومیت پائی جاتی تھی اس کی بنا پر وہ غارت گری کیا کرتے تھے کیونکہ ان کی سر زمین نعمتوں سے محروم تھی اور وہ اس کی اور محرومیت کو لوٹ مار کے ذریعہ پورا کرتے تھے۔ رہزنی اور غارت گری کو نہ صرف یہ کہ برا فعل نہیں سمجھتے تھے بلکہ (جیسے آج کے دور میں ایک شہر یا صوبہ پر قبضہ کر لینے کو فخر سمجھتے ہیں) اپنے لئے باعث فخر اور شجاعت سمجھتے تھے۔²

البتہ قبیلوں کے درمیان جو رقابت پائی جاتی تھی وہ بھی جنگ اور غارت کا سبب بنتی تھی اور زیادہ تر اختلافات اور جھگڑے، چراگا ہوں پر قبضہ کر لینے کی بنا پر ہوتے تھے۔ اور کبھی قبیلہ کی سرداری کے انتخاب پر بھی رشتہ داروں کے درمیان جنگ و خونریزی ہوتی تھی۔ مثلاً اگر بڑا بھائی سرداری کے منصب پر فائز ہو اور مر جائے تو اس کے دوسرے بھائی اپنی عمر کے مطابق قبیلہ کی سرداری کے خواہاں رہتے تھے اور مرنے والی کی اولاد اپنے باپ کے مقام کی آرزو مند ہوتی تھی۔ اسی بنا پر اکثر قبیلوں اور رشتہ داروں کے درمیان جو کہ نسب اور محل سکونت کے لحاظ سے بہت قریب تھے، سخت اختلافات اور جھگڑے ہوتے تھے۔ شعراء بھی اپنے اشعار کے ذریعہ فتنہ کی آگ بھڑکایا کرتے تھے۔ وہ اشعار میں اپنے قبیلہ کے افتخارات کو بیان کرتے تھے اور دوسرے قبیلہ کے عیوب کو برملا کرتے تھے اور لوگوں کے ذہنوں میں گزشتہ باتوں کو تازہ کر کے ان کے دلوں میں کینہ اور لڑائی کا جذبہ پیدا کرتے تھے۔ اکثر و بیشتر ان کے درمیان لڑائیاں صرف معمولی اور چھوٹی بات پر ہوتی تھیں۔ جس وقت فتنہ کی آگ بھڑکتی تھی تو دونوں قبیلے ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہو جاتے تھے اور ایک دوسرے کو نابود کرنے کی فکر میں لگ جاتے تھے۔³

وحشی گری اور تمدن سے دوری ان کی غارت گری کا ایک دوسرا سبب تھا۔ ابن خلدون کی نگاہ میں اس قوم کے لوگ وحشی تھے اور ان کے درمیان وحشی گری اس قدر پائی جاتی تھی کہ جیسے ان کے سرشت اور عادت میں رچ بس گئی ہو، مثال کے طور پر، کھانے کی دیگ بنانے کے لئے انھیں سنگ کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ اس کی خاطر عمارتوں کو مسمار کر دیتے تھے تاکہ کھانے کی دیگ ان پتھروں سے بنائیں یا محلوں اور بڑی عمارتوں کو اس بنا پر ویران کر دیتے تھے تاکہ اس کی لکڑی سے خیمہ بنائیں یا اس سے عمارتیں اور ستون خیمہ تیار کریں۔

1 اللہم ارحمنی و محمدؐ اولاً ثم معنا احداً (صحیح بخاری، شرح و تحقیق: الشیخ قاسم الرفاعی، (بیروت: دار القلم)، ج ۸، کتاب الادب، باب ۵۴۹، ح ۸۹۳، ص ۳۲۷، اور تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ: سنن ابی داؤد (بیروت: دار الفکر)، ج ۴، کتاب الادب، باب ”من لیست لہ غیبۃ“، ص ۲۷۱)۔

2 گوشا و لوبون، گزشتہ حوالہ، ص ۶۳۔

3 حسن ابراہیم حسن، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۸۔

غارِ گری کی عادت ان میں اس قدر پائی جاتی تھی کہ جو بھی چیز وہ دوسروں کے ہاتھوں میں دیکھتے تھے اسے لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان کی روزیاں نیزوں کے بل پر فراہم ہوتی تھیں دوسروں کا مال چوری کرنے سے کبھی باز نہیں آتے تھے بلکہ ان کی نظر اگر کسی کے مال و ثروت یا وسائلِ زندگی پر پڑتی تھی تو اسے وہ لوٹ لیا کرتے تھے۔¹

ان کی آمدنی کا ایک ذریعہ لوٹ اور غارت ہوا کرتا تھا جس وقت وہ کسی قبیلہ پر حملہ آور ہوتے تھے تو ان کے اونٹوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنالیا کرتے تھے۔

دوسرا قبیلہ بھی کمین گاہ میں بیٹھا اسی تاک میں لگا رہتا تھا اور اسے بھی جب موقع ملتا تھا یہی حرکت کر بیٹھتا تھا۔ اور جب دوسروں سے دشمنی نہیں ہوتی تھی تو آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ جیسا کہ قطامی (بنی امیہ کے پہلے دور کا) شاعر اپنے اشعار میں اس بات کا تذکرہ کرتا ہے :

ہمارا کام پڑوسیوں اور دشمنوں پر ہجوم اور غارت گری تھا اور اگر ہمیں کبھی کوئی نہ ملتا تو اپنے بھائی کا مال لوٹ لیا کرتے تھے۔²

اس زمانے میں جو جنگیں اوس اور خزرج نامی دو قبیلوں کے درمیان قصاص اور خونخواہی کی بنا پر شروع ہوئی تھیں وہ یثرب (مدینہ) میں اس قدر شدید اور زیادہ بڑھ گئی تھیں کہ کسی میں جرات نہیں تھی کہ وہ اپنے علاقے یا جائے امن سے دور جائے ان لڑائیوں نے عرب کی زندگی کو مفلوج اور ان کی حالت کو پست کر دیا تھا۔ قرآن مجید ان کی اس رقت بار حالت کو یاد دلا کر، اسلام کے سایہ میں جو ان کے درمیان بھائی چارگی قائم ہوئی اس کے بارے میں اس طرح سے ذکر کرتا ہے۔

... ”اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم لوگ آپس میں دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے اور تم جہنم کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں نجات دی اور اللہ اسی طرح اپنی آیتیں بیان کرتا ہے کہ شاید تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔“³

حرام مہینے

صرف حرام مہینوں (ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب) میں جو کہ جناب ابراہیمؑ اور جناب اسماعیلؑ کی دیرینہ سنت کی یاد اور ان کی بچی ہوئی تعلیمات میں سے تھی⁴ ان مہینوں کے احترام میں عربوں کے درمیان، آپس میں جنگ بندی (مقدس صلح) کا قانون پایا جاتا تھا۔ اور ان کو

1 مقدمہ ترجمہ محمد پروین گنابادی، (تہران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، ط ۲، ۱۳۶۲) ج ۱، ص ۲۸۶-۲۸۵۔

2 واحیاناً علی بکر اخینا اذ مال نجد الا اخانا۔

احمد امین گزشتہ حوالہ، ص ۹؛ فیلیپ حتی گزشتہ حوالہ، ص ۳۵؛ حماسۃ ابی تمام حبیب اوس الطائی (مکلتہ: مطبع لیبی، ۱۸۹۵ء)، ص ۳۲۔

3 سورہ آل عمران، آیت ۱۰۳

4 سید محمد حسین طباطبائی، تفسیر المیزان (بیروت: موسسہ الاعلیٰ للطبوعات، ط ۲، ۱۳۹۱ھ)، ج ۹، ص ۲۷۲۔

موقع ملتا تھا کہ وہ کچھ دن سکون سے رہیں اور تجارت اور کعبہ کی زیارت کر سکیں¹ اور ان مہینوں میں کوئی جنگ ہو جاتی تھی تو اس کو ”حرب الفجار“ (ناروا اور گناہ آلود جنگ) کہتے تھے۔²

عرب کے سماج میں عورت

جاہل عربوں میں جہالت اور خرافات کا ایک واضح نمونہ، عورت کے بارے میں ان کے مخصوص نظریات تھے۔ اس دور کے معاشرے میں عورت انسانیت کے معیار، سماجی حقوق اور آزادی سے بالکل محروم تھی۔ اور اس سماج میں گمراہی اور سماج کے وحشی پن کی بنا پر لڑکی اور عورت کا وجود باعث ذلت و رسوائی سمجھا جاتا تھا۔³ وہ لڑکیوں کو میراث کے قابل نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ارث کے حقدار صرف وہ لوگ ہیں جو تلوار چلاتے ہیں اور اپنے قبیلہ کا دفاع کرتے ہیں۔⁴ ایک روایت کی بنا پر عرب میں عورت کی مثال اس مال جیسی تھی جو شوہر کے مرنے کے بعد (لڑکانہ ہونے کی صورت میں) شوہر کے دوسرے اموال اور ثروت کی طرح سوتیلی اولاد کے پاس منتقل ہو جاتی تھی۔⁵

واقعات گواہ ہیں کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کا بڑا لڑکا اگر اس عورت کو رکھنے کا خواہش مند ہوتا تھا (یعنی اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا) تو اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیتا تھا اور اس طریقہ سے میراث کے طور پر عورت اسے مل جایا کرتی تھی اس کے بعد اگر وہ چاہتا تھا تو اسے بغیر کسی مہر کے، صرف میراث ملنے کی بنا پر اس سے شادی کر لیتا تھا اور اگر اس سے شادی کا خواہش مند نہ ہوتا تو دوسروں سے اس کی شادی کر دیتا تھا اور اس عورت کا مہر خود لے لیتا تھا۔ اور اس کے لئے یہ بھی ممکن تھا کہ اسے ہمیشہ کے لئے دوسرے مردوں سے شادی کرنے سے منع کر دے، یہاں تک کہ وہ مر جائے اور اس کے مال کا مالک بن جائے۔⁶

1 وہ لوگ مہینوں کے ناموں کو بدل کر کے حرام مہینوں کو پیچھے کر دیتے تھے اور اپنے کو اس کے حد و حدود سے الگ کر کے حرام مہینے میں بھی جنگ و خونریزی کرتے تھے اسی مناسبت سے خداوند عالم نے فرمایا ہے: (محترم مہینوں میں تقدیم و تاخیر، کفر میں ایک قسم کی زیادتی ہے۔ جس کے ذریعہ کفار کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک سال اسے حلال بنا لیتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام کر دیتے ہیں تاکہ اتنی تعداد برابر ہو جائے جتنی خدا نے حرام کی ہے۔ اور حرام خدا حلال بھی ہو جائے...) (سورہ توبہ، آیت ۳۷)۔

۲ ابن واضح، تاریخ یعقوبی، (نجف: المكتبة الحیدریہ، ۱۳۸۴ھ ق)، ج ۲، ص ۱۲؛ شہرستانی، الملل و النحل، (قم: منشورات الرضی، ط ۲)، ج ۲، ص ۲۵۵۔

۳ سید محمد حسین طباطبائی، تفسیر المیزان (قم: مطبوعات اسماعیلیان، ط ۳، ۱۳۹۳ھ ق)، ج ۲، ص ۲۶۷۔

۴ ابوالعباس المبرد، الكامل فی اللغة و الادب، مع حواشی: نعیم زرزور (اور) تغارید بیضون (بیروت: دار الکتب العلمیہ، ط ۱، ۱۴۰۷ھ ق)، ج ۱، ص ۳۹۳؛ محمد بن حبیب، المحبر (بیروت: دارالافاق الحدیدہ)، ص ۳۲۴۔

۵ کلیئ، الفروع من الکافی، (تہران: دارالکتب الاسلامیہ، ط ۲، ۱۳۶۲ھ ق)، ج ۶، ص ۴۰۶۔

۶ طباطبائی، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۲۵۸-۲۵۴؛ سیوطی، الدر المنثور فی التفسیر بالماثور، (قم: مکتبۃ آیۃ اللہ مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ھ ق)، ج ۲، تفسیر آیہ ۲۲ سورۃ نساء، ص ۱۳۲-۱۳۱؛ شہرستانی، الملل و النحل (قم: منشورات الرضی، ط ۲)، ج ۲، ص ۲۵۴؛ حسن، حسن، حقوق زن در اسلام و یورپ (ط ۷، ۱۳۵۷ھ ق)، ص ۳۴۔ عرب اس شخص کو ”ضین“ کہتے تھے جو باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیتا تھا۔ (محمد بن حبیب، المحبر، ص ۳۲۵) ابن قتیبہ دینوری نے اس قسمی عورتوں کی تعداد کو ذکر کیا ہے، جنہوں نے شوہر کے مرنے کے بعد اپنے لڑکوں سے شادی کر لی تھی (المعارف، تحقیق: ثروت عکاشہ، قم: منشورات الرضی، ص ۱۱۲)۔

چونکہ باپ کی بیوی سے شادی کرنا اس وقت قانوناً منع نہیں تھا۔ لہذا قرآن کریم نے ان کو اس کام سے منع کیا۔¹ دور اسلام میں مفسرین کے کہنے کے مطابق ایک شخص جس کا نام ”ابوقبس بن اسلت“ تھا جب وہ مر گیا تو اس کے لڑکے نے چاہا کہ اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ شادی کرے تو خدا کی جانب سے یہ آیت نازل ہوئی (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ...)،²

تمہارے لئے حلال نہیں ہے کہ تم عورت کو ارث میں لو۔

اس سماج میں متعدد شادیاں بغیر کسی رکاوٹ کے رائج تھیں۔³

عورت کی زبوں حالی (ٹریچڈی)

یہ بات مشہور ہے کہ عربوں میں سب سے بری رسم یہ تھی کہ وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ کیونکہ لڑکیاں ایسے سماج میں جو تہذیب اور تمدن سے دور، ظلم و بربریت میں غرق ہو، مردوں کی طرح لڑکر اپنے قبیلہ سے دفاع نہیں کر سکتی تھیں کیونکہ لڑنے کی صورت میں یہ ممکن تھا لڑکیاں دشمن کے ہاتھ لگ جائیں اور ان سے ایسی اولادیں پیدا ہوں جو باعث ننگ اور عار بنیں لہذا وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے⁴ اور کچھ لوگ مالی مشکلات کی خاطر، فقر و افلاس کے خوف سے ایسا کرتے تھے۔⁵ مجموعی طور پر لڑکیاں اس سماج میں منحوس سمجھی جاتی تھیں قرآن کریم نے ان کی اس غلط فکر کو اس طرح سے نقل کیا ہے:

”اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ خون کے گھونٹ پینے لگتا ہے، قوم سے منہ چھپاتا ہے کہ بہت بری خبر سنائی گئی ہے اب اس کو ذلت سمیت زندہ رکھے یا خاک میں ملا دے، یقیناً یہ لوگ بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں۔“⁶

1 ولاتنکحوا ما نکح آبائکم من النساء“ (سورۃ نساء، آیت ۲۲)

2 طباطبائی، گزشتہ حوالہ، ج ۴، ص ۲۵۸؛ طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن (بیروت: دار المعرفہ، ط ۲، ۱۳۹۲ھ، ق) ج ۴، ص ۲۰۷؛ سورۃ نساء کی آیت نمبر ۱۹ کی تفسیر کے ذیل میں۔

3 طباطبائی، گزشتہ حوالہ، ج ۴، ص ۲۶۷۔

4 شیخ عباس قمی، سفینۃ البحار (تہران: کتابخانۃ سنایی، ج ۱)، ص ۱۹۷ (کلمۃ جہل)؛ ابن ابی الحدید، شرح نہج البلاغہ، تحقیق: محمد ابو الفضل ابراہیم (قاہرہ: دار احیاء العربیہ، ۱۹۶۱ء)، ج ۱۳، ص ۱۷۴؛ کلینی، الاصول من الکافی، (تہران: دار الکتب الاسلامیہ)، ج ۲، باب ”البر بالوالدین“، ح ۱۸، ص ۱۶۳؛ قرطبی، تفسیر جامع الاحکام (بیروت: دار الفکر)، ج ۱۹، ص ۲۳۲۔

5 سورۃ النعام، آیت ۶؛ آیت ۱۵۱؛ سورۃ اسراء، آیت ۱۷؛ قرطبی، گزشتہ حوالہ، ص ۲۳۲۔

6 سورۃ نحل، آیت ۱۶؛ آیت ۵۹-۵۸۔

عورت کو محروم اور دبانے کی باتیں اس زمانے کے عربی ادب اور آثار میں بہت زیادہ ملتی ہیں جیسا کہ ان کے درمیان یہ بات عام تھی کہ جس کے پاس لڑکی ہوتی تھی اس سے وہ لوگ کہتے تھے کہ ”خدا تم کو اس کی ذلت سے محفوظ رکھے اور اس کے اخراجات کو پورا کرے اور قبر کو داماد کا گھر بنادے۔“¹

ایک عرب شاعر نے اس بارے میں کہا ہے:

جس باپ کے پاس لڑکی ہو اور وہ اس کو زندہ رکھنا چاہے تو اس کے لئے تین داماد ہیں: ۱۔ ایک وہ گھر جس میں وہ رہتی ہے۔ ۲۔ دوسرے اس کا شوہر جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ۳۔ اور تیسرے وہ قبر جو اس کو اپنے اندر چھپالیتی ہے۔ لیکن ان میں سب سے بہتر قبر ہے۔²

کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام ابو حمزہ تھا وہ صرف اس وجہ سے اپنی بیوی سے ناراض ہو گیا اور پڑوسی کے یہاں جا کر رہنے لگا کہ اس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ لہذا اس کی بیوی اپنی بچی کو لوری دیتے وقت یہ اشعار پڑھتی تھی۔

ابو حمزہ کو کیا ہو گیا ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں آتا ہے اور پڑوسی کے گھر میں رہ رہا ہے وہ صرف اس بنا پر ناراض ہے کہ ہم نے لڑکا نہیں جنا! خدا کی قسم یہ کام میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے جو بھی وہ ہم کو دیتا ہے ہم اسے لے لیتے ہیں۔ ہم بمنزلہ زمین ہیں کہ کھیت میں جو بویا جائے گا وہی اگے گا۔³

حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس کی ماں کی باتیں اس سماج کے نظام کے خلاف ایک احتجاج ہیں اور ان کے درمیان عورت کی پائمالی کا ایک طرح سے اظہار ہے۔

سب سے پہلا قبیلہ جس نے اس غلط رسم کی بنیاد ڈالی، وہ قبیلہ ”بنی تمیم“ تھا کہا جاتا ہے کہ اس قبیلہ نے نعمان بن منذر کو ٹیکس دینے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے ان کے درمیان جنگ ہوئی جس میں بہت ساری لڑکیاں اور عورتیں اسیر کر لی گئیں جس وقت بنی تمیم کے نمائندے اسیروں کو چھڑانے کے لئے نعمان کے دربار میں حاضر ہوئے تو اس نے یہ اختیار خود ان عورتوں کو دیدیا کہ چاہیں تو حیرہ میں رہیں اور چاہیں تو بنی تمیم کے پاس چلی جائیں۔ قیس بن عاصم جو کہ قبیلہ کا سردار تھا اس کی لڑکی بھی اسیروں کے درمیان تھی اس نے ایک درباری سے شادی کر لی تھی لہذا اس نے دربار میں رکنے کا فیصلہ کر لیا، قیس اس بات سے سخت ناراض ہوا اور اس نے اسی وقت عہد کر لیا کہ اس کے بعد

1 آمنکم اللہ عاربا و کفاکم مؤنتہا، و صابرتم القبر!

2 لکل اب بنت یرجی بقاءہ املایہ اصرا اذ اذکرو الصبر فبیت یغطیہا و لعل یصونہا و قبر یوار یہا و خیر ہم القبر! (عائشہ عبد الرحمن بنت الشاطی، موسوعۃ آل النبی (بیروت: دار الکتب العربیہ، ۱۳۸۷ھ، ق، ص ۳۳۵)۔

3 ما لابی حمزۃ لایأتینا یظل فی البیت الذی یلینا غضبان الانلد البیننا تاللہ ما ذالک فی ایدینا

وانما نأخذ ما أعطينا و نحن کالارض لزارعینا ننب ما قد زرعوہ فینا

(جاحظ، البیان والتبيين، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۹۶۸ء، ج ۱، ص ۱۲۸-۱۲۷؛ عایشہ بنت الشاطی، گزشتہ حوالہ، ص ۳۳۴-۳۳۳؛ آلوسی، بلوغ الارب فی معرفۃ احوال العرب، ج ۳، ص ۵۱)۔

وہ اپنی لڑکیوں کو قتل کر ڈالے گا¹ اور اس نے یہ کام انجام دیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ رسم دوسرے قبیلوں میں بھی رائج ہو گئی، کہا جاتا ہے کہ اس جرم اور جنایت میں قیس، اسد، ہذیل اور بکر بن وائل نامی قبیلے شامل تھے۔

البتہ یہ رسم عام نہیں تھی کچھ قبیلے اور بڑی شخصیتیں اس کام کی مخالف تھیں، ان میں سے² جناب عبدالمطلب پیغمبر اسلام کے جد تھے جو اس کام کے شدید مخالف تھے³ اور کچھ لوگ جیسے زید بن عمرو بن نفیل اور صعصعہ بن ناجیہ، لڑکیوں کو ان کے باپ سے فقر کے خوف سے زندہ درگور کرتے وقت لے لیتے تھے اور ان کو اپنے پاس رکھتے تھے۔⁴ اور کبھی لڑکیوں کے عوض میں ان کے باپ کو اونٹ دیدیا کرتے تھے۔⁵ لیکن واقعات گواہ ہیں کہ یہ رسم عام طور پر رائج تھی، کیونکہ:

۱۔ صعصعہ بن ناجیہ نے زمانہ اسلام میں پیغمبرؐ سے کہا تھا کہ میں نے دور جاہلیت میں ۲۸۰ لڑکیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔⁶

۲۔ قیس بن عاصم نے عہد کرنے کے بعد (جیسا کہ پہلے گزر چکا) اپنی ۱۲ یا ۱۳ لڑکیوں کو قتل کیا۔⁷

۳۔ پیغمبر اسلام نے پہلے بیان عقبہ میں (بعثت کے بارہویں سال) جو کہ یشربوں کے ایک گروہ کے ساتھ کیا تھا، معاہدہ کی ایک شرط یہ قرار دی کہ لڑکیوں کو زندہ درگور نہ کریں۔⁸

۴۔ فتح مکہ کے بعد پیغمبر اکرمؐ نے خدا کے حکم سے اس شہر کی مسلم عورتوں سے بیعت لیتے وقت یہ شرط رکھی تھی کہ اپنی لڑکیوں کو قتل کرنے سے پرہیز کریں۔⁹

1 ابو العباس المبرد، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۹۲؛ ابن ابی الحدید، گزشتہ حوالہ، ج ۱۳، ص ۱۷۹۔

2 ابن ابی الحدید، گزشتہ حوالہ، ج ۱۳، ص ۱۷۴۔

3 آلوسی، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۲۴؛ تاریخ یعقوبی، (بیروت: دار صادر)، ج ۲، ص ۱۰۔

4 آلوسی، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۴۵؛ ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، تحقیق: مصطفیٰ السقاء (اور دوسرے لوگ) (تہران: آفیسٹ، مکتبۃ الصدر)، ج ۱، ص ۲۴۰۔

5 محمد ابوالفضل ابراہیم (اور ان کے معاونین)، قصص العرب (بیروت: دار احیاء التراث العربی، ط ۴)، ج ۲، ص ۳۱؛ ابو العباس المبرد، گزشتہ حوالہ، ص ۲۹۴؛ فرزدق کے جد، صعصعہ، عصر اسلام کے شاعر تھے اور وہ اپنے جد کے اس فعل پر افتخار کرتے تھے اور کہتے تھے: و منالذی منع الواہدات فاحیا الوئید فلم یواد۔ (قرطبی، تفسیر جامع الاحکام، ج ۱۹، ص ۲۳۲)۔

6 ابو العباس المبرد، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۹۴۔

7 ابن اثیر، اسد الغابہ (تہران: المکتبۃ الاسلامیہ، ۱۳۳۶)، ج ۴، ص ۲۲۰ (شرح حال قیس بن عاصم) منقول ہے کہ قیس عصر اسلام میں مسلمان ہوئے اور پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا: زمانہ جاہلیت میں، میں نے اپنی آٹھ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا اب اس فعل کا جبران کیسے کروں؟ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کے بدلے ایک غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا: میرے پاس بہت اونٹ ہیں۔ تو آپؐ نے فرمایا: ان میں سے ہر ایک کے بدلے اونٹ کی قربانی بھی کر سکتے ہو۔ (قرطبی، تفسیر جامع الاحکام، ج ۱۹، ص ۲۳۳)۔

8 ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۷۵۔

9 یا ایہا النبی اذا جائک المؤمنات یتابعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئاً ولا یسرقن ولا ینزینن ولا یقتلن اولادہن ولا یتأتین بہتاتن یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ (سورۃ ممتحنہ، ۶۰، آیت ۱۲)۔

۵۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اس رسم کی شدید مذمت فرمائی ہے۔ لہذا ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلہ اس سماج کی سب سے بڑی مشکل تھی جس کے بارے میں قرآن کریم نے خبردار کیا ہے۔

۱۔ اور خبردار! اپنی اولاد کو فاقہ کے خوف سے قتل نہ کرو کہ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں بیشک ان کا قتل کر دینا بہت بڑا گناہ ہے۔¹

۲۔ اور اسی طرح ان شریکوں نے بہت سے مشرکین کے لئے اولاد کے قتل کو بھی آراستہ کر دیا ہے تاکہ ان کو تباہ و برباد کر دیں اور ان پر دین کو مشتبہ کر دیں۔²

۳۔ یقیناً وہ لوگ خسارہ میں ہیں جنہوں نے حماقت میں بغیر جانے بوجھے اپنی اولاد کو قتل کر دیا۔³

۴۔ اپنی اولاد کو غربت کی بنا پر قتل نہ کرنا کہ ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں اور انہیں بھی۔⁴

۵۔ اور جب زندہ درگور لڑکیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ انہیں کس گناہ میں مارا گیا ہے۔⁵

۱ سورۃ اسراء، ۱۷، ”وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا“ آیت ۳۱۔
 ۲ سورۃ انعام، ۶، (وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَائِهِمْ لِيُزْوَئُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ) آیت ۱۳۷۔
 ۳ سورۃ انعام، ۶، (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ) آیت ۱۴۰۔
 ۴ سورۃ انعام، ۶، (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ) آیت ۱۵۱۔
 ۵ سورۃ تکویر، ۸۱، (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) آیت ۹-۸۔

دوسری فصل

عربوں کے صفات اور نفسیات

متضاد صفات

بدو عرب میں وحشیانہ عادت اور لوٹ مار کے باوجود اچھی عادتیں، جیسے غفو و کرم، مہمان نوازی، شجاعت اور دلیری بھی پائی جاتی تھی۔ خاص طور سے وہ اپنے وفائے عہد و پیمان کے شدید پابند تھے یہاں تک کہ اپنے عہد و پیمان کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دیتے تھے۔ اور یہ ان کی سب سے نمایاں صفت شمار ہوتی تھی۔ ان کے اندر متضاد صفات کو دیکھ کر لوگ حیرت و استعجاب میں پڑ جاتے تھے۔ اور وہ ایسے دور دراز علاقہ میں زندگی بسر کرتے تھے جو دنیا میں کم نظیر تھا۔ اگر ان کے حالات زندگی ایسے نہ ہوتے تو اس بات کا سمجھنا بہت مشکل تھا۔ وہی لڑا کو عرب جو لوٹ مار کے پیاسے تھے جس وقت ان کے اندر انتقام کی آگ بھڑکتی تھی تو وہ بدترین جرائم کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ اپنے گھر میں بہت بڑے مہمان نواز، مہربان اور مونس تھے۔ اگر ایک کمزور اور بے چارہ، ان سے پناہ مانگتا تھا یا ایک ستم دیدہ (اگرچہ دشمن ہی کیوں نہ ہو) ان کی طرف دست نیاز دراز کرتا تھا یا اس کو اپنی پناہ گاہ سمجھتا تھا تو اس کے ساتھ اس طرح پیش آتے تھے کہ گویا وہ شخص، ان کے خاندان یا قبیلہ کا ایک فرد ہے۔ اور کبھی تو اس کا دفاع کرنے میں اپنی جان کی بازی لگا دیتے تھے۔¹

میدان جنگ میں شجاعت و دلیری غفو و درگزر، قبیلہ کے سامنے تسلیم اور ایسے ظالموں سے انتقام لینے میں، جنہوں نے اس کے یا اس کے رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کر دیا تھا بے رحمی کے ساتھ پیش آنا عرب کی شرافت اور فضیلت سمجھی جاتی تھی۔²

عربوں کی اچھی صفتوں کی بنیاد

جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ عربوں کے درمیان اگرچہ پانی اور چراگاہوں کے بارے میں رقابت اکثر کشمکش کا باعث بنتی تھی اور قبائل کو ایک دوسرے کے ساتھ الجھا اور کشت و کشتار پر مجبور کر دیتی تھی۔ لیکن دوسری طرف سے ان کے اندر کمزوری اور عاجزی کے احساس نے ہی ان کے مزاج کی سختی اور لجاجت کے مقابلہ میں اس فکر کو ہوا دی تھی کہ سبھی ایک مقدس رسم کے محتاج ہیں۔ اور ایسی سرزمین میں جہاں

1 ڈاکٹر گوشا ولوبون، تمدن اسلام و عرب، ترجمہ: سید ہاشم حسینی، ص ۶۵-۶۳؛ ویل ڈورانٹ، اس بارے میں لکھتا ہے: ”عرب کے بدو، مہربان بھی تھے اور خونخوار بھی، سخی بھی تھے اور کنجوس بھی، خیانت کار بھی تھے اور امین بھی، محتاط بھی تھے اور بہادر بھی، اگرچہ فقیر تھے لیکن دنیا میں کرم و بزرگی سے پیش آتے تھے“ تاریخ تمدن، ترجمہ: ابوطالب صامی (تہران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ط ۲)، ج ۴، ص ۲۰۱۔

۲ احمد امین، فجر الاسلام، (قاہرہ: مکتبۃ النهضة المصریہ، ط ۹، ۱۹۶۴م)، ص ۷۶۔

مہمان سرائیں اور مسافر خانے نہ ہوتے ہوں، مہمانوں کی ضیافت سے بچنا ان کے اخلاق اور عزت کے خلاف تھا۔ عہد جاہلیت کے شعراء ہمارے زمانے کے صحافیوں کا رتبہ رکھتے تھے۔ ان کی بہادری اور دلیری کے ساتھ ان کی مہمان نوازی، قوم عرب کی نمایاں فضیلت شمار کی جاتی تھی۔ اور اس کے بارے میں وہ اشعار کہا کرتے تھے اور پڑھتے تھے۔¹

لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی بہت ساری اچھی خوبیاں جیسے شجاعت، مہمان نوازی، کرم اور پناہ گزینوں کی حمایت (جیسا کہ بعد میں اسلامی تعلیم اور کلچر میں یہ چیزیں ذکر ہوئی ہیں) روحانی اور انسانی اقدار سے نشأت نہیں پائی ہیں۔ بلکہ معاشرتی اسباب اور جاہلی کلچر جیسے قبیلوں کے درمیان فخر و مباہات کی بنا پر تھیں۔ کیونکہ ایسے ماحول میں جہاں پر نظم و امنیت نہ ہو، شجاعت اور دلیری ان کی زندگی کا لازمہ تھی۔ نام و نمود سے دلچسپی، منصب کی آرزو و تمنا، شعراء کی مذمت کا خوف، ذلت و رسوائی اور بد مزاجی وغیرہ نے عربوں کو جود و سخاوت، وفائے عہد، پناہ گزینوں کی حمایت اور اس طرح کی دوسری اچھائیوں پر اکسایا تھا۔

مہمان نوازی اور دلیری کی عادتیں ایسے ماحول میں کہ جہاں لوگ مال و اولاد اور جنگجوؤں کی کثرت تعداد پر فخر کیا کرتے تھے۔ ان کی سر بلندی اور عزت کا وسیلہ بن گئی تھی اور یہ بات اس کے لئے واضح ہے جو تاریخ اسلام سے آگاہ ہے۔²

جہالت اور خرافات

حجاز کے عرب جو عموماً صحرا میں زندگی بسر کرتے تھے۔ تہذیب اور کلچر سے دور فکری جمود میں اس طرح سے گرفتار ہو گئے تھے کہ بہت سی چیزوں کے درمیان موجود نسبت کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ وہ چیزوں کی منطقی تحلیل اور تجزیہ نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی علت و معلول کے درمیان موجود رابطے کو پوری طرح سے سمجھ سکتے تھے۔ مثلاً اگر ایک شخص مریض ہو گیا اور تکلیف جھیل رہا ہے تو اسکے اطراف کے لوگ اس کے لئے دوا تجویز کرتے تھے اور وہ اس درد و درمان کے درمیان ایک طرح کا ربط سمجھتا تھا لیکن یہ فہم، دقیق اور تحلیلی نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ اس کے قبیلہ کے لوگ اس دوا کو فلاں درد میں استعمال کرتے ہیں۔ بطور نمونہ وہ آسانی سے یہ بات مان لیتا تھا کہ قبیلہ کے سردار کا خون ہادی نامی مسری بیماری (جو عموماً کتے کے کاٹنے سے پیدا ہوتی ہے) کا علاج کرتا ہے اسی طرح وہ یہ تصور کرتا تھا کہ بیماری کی وجہ، روح کی کثافت ہو کر تھی ہے جو بیمار کے اندر داخل ہو جاتی ہے اسی بنا پر یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ وہ روح، بیمار کے بدن سے نکل جائے، یا اگر کسی کے بارے میں پاگل ہو جانے کا خطرہ ہوتا تھا تو اس کی گردن میں مردار کی ہڈی یا غلاظت مل دیا کرتے تھے تاکہ وہ جنون سے محفوظ رہ سکے۔ دیو کا عقیدہ بھی ان کے یہاں ملتا ہے وہ معتقد تھے کہ بھیانک شکلیں رات کے وقت خالی مکانوں میں دکھائی پڑتی ہیں یا بیابانوں میں لوگوں کے راستے میں حائل ہو جاتی ہیں اور ان کو آزار و اذیت پہنچاتی ہیں۔

جس وقت وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلانے کے لئے گھاٹ پر لے جاتے تھے تو اگر وہاں پر وہ پانی نہیں پیتے تھے تو یہ خیال کرتے تھے کہ ان کے سینگ کے درمیان ایک دیو بیٹھا ہے جو انھیں پانی نہیں پینے دیتا ہے لہذا وہ دیو کو بھگانے کے لئے ان مویشیوں کے سر اور منہ پر ڈنڈے مارا کرتے تھے۔³ اس قسم کی مضحکہ خیز حرکتیں ان کے درمیان بہت زیادہ رائج تھیں۔

1 فلیپ حتی، تاریخ عرب، ترجمہ: ابوالقاسم پابندہ، (تہران: آگاہ، ۲۶، ۱۳۶۶) ص ۳۵-۳۳.

2 رجوع کریں: جعفر مرتضیٰ العالی، الصصح من سیرۃ النبی الاعظم، (قم: ۱۴۰۲ھ، ق) ج ۱، ص ۵۴-۵۰.

3 محمود شاکری آلوسی، بلوغ العرب فی معرفۃ احوال العرب، تصحیح: محمد بھجہ الاثری (قاہرہ: دار الکتب الحدیثہ ط ۳) ج ۲، ص ۳۰۳.

وہ اس طرح کی حرکتوں کے بارے میں (جب کہ یہ حرکتیں ان کے قبیلہ کے اندر پائی جاتی ہوں) زّرہ برابر بھی شک و تردید نہیں کرتے تھے کیونکہ انکار اور تردید کی وجہ، دقت نظر، بیماری کی تحقیق کی صلاحیت، اسباب و عوارض اور ان کا علاج وغیرہ ہے جبکہ اس زمانہ میں عرب، جہالت میں زندگی بسر کر رہے تھے اور اس حد تک فہم و فراست ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔¹

البتہ کبھی جاہلیت کے اشعار یا اس زمانے کے محاورے یا ان کی داستانوں میں روشن فکری کے اشارے اور علت و معلول کے درمیان میں ارتباطات کی باتیں ملتی ہیں۔ لیکن وہ بھی عمیق تفکر، تشریح اور تجزیہ کے قابل نہیں ہیں۔ اور چیزوں کے بارے میں تجزیہ کی صلاحیت کے نہ ہونے کا اصل راز ان کے درمیان موجود مختلف طرح کے موہومات اور خرافات تھے جنہیں وہ یقین کرتے تھے۔

اور اس طرح کے بارے سے عرب اور اسلام کی تاریخی کتابیں پر ہیں۔²

علم و فن سے عربوں کی آگاہی

بعض دانشوروں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ عربوں کے یہاں مختلف طرح کے علوم جیسے طب، ستارہ شناسی، قیافہ شناسی³ وغیرہ پائے جاتے تھے لیکن یہ دعوا مبالغہ آمیز ہے۔

عربوں کی آگاہی ان علوم و فنون سے ایک علم و فن کی حد تک منظم و مرتب شکل میں نہیں تھی بلکہ ایک سطحی اور بکھری ہوئی معلومات کی شکل میں تھی جو ان کو حدس و گمان اور قبیلہ کے بڑے بوڑھے مرد اور عورتوں سے سن سنا کر حاصل ہوئی تھیں۔ لہذا اس طرح کی معلومات کو ”علم“ نہیں کہا جاسکتا ہے۔ مثلاً ستارہ شناسی کے سلسلے میں عربوں کی آگاہی صرف بعض ستاروں کے وقت طلوع اور غروب تک محدود تھی وہ بھی صرف اس بنا پر تھی کہ اس وسیع و عریض صحرائیں راستوں کی تلاش یا شب و روز کے اوقات کو معلوم کر سکیں۔ طب کے بارے میں ان کی آگاہی، ابن خلدون کے کہنے کے مطابق اس طرح سے تھی:

طب کے بارے میں معلومات عام طور سے بعض لوگوں میں مختصر اور محدود تجربات کی بنیاد پر تھی اور علم طب وراثتی طور پر قبیلہ کے بڑے بوڑھوں کے ذریعہ نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے ان کی اولاد تک پہنچ جاتا تھا۔ اور کبھی کبھار بعض مریض اس علاج کے ذریعہ ٹھیک بھی ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن وہ معالجہ نہ طبی قانون کے مطابق ہوا کرتا تھا اور نہ ہی انسان کے مزاج اور فطرت کے مطابق۔⁴ حارث بن کلدہ کی طبابت بھی اسی طرح کی تھی۔

1 جاہل عربوں کی خرافات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے رجوع کریں: بلوغ الارب فی معرفۃ احوال العرب، ج ۲، ص ۳۶۷-۳۰۳: ابن ابی الحدید، شرح نہج البلاغہ، (قاہرہ: دار احیاء الکتب العربیہ)، ج ۱۹، ص ۴۲۹-۳۸۲۔
2 آلوسی، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۱۸۲-۲۶۱، ۲۲۳ اور ۳۲۷۔

3 مقدمہ، ترجمہ: محمد پروین گنابادی، (تہران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۲، ط ۴)، ج ۲، ص ۱۰۳۴۔

4 گزشتہ حوالہ۔

امی لوگ

اہل حجاز قرآن کریم کی تعبیر کے مطابق ”امی“ یعنی نو مولود بچہ کے مانند ہمیشہ جاہل اور ان پڑھ ہوا کرتے تھے۔ اور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ بلاذری اس بارے میں لکھتا ہے:

ظہور اسلام کے وقت صرف ۱۷ افراد قریش میں اور یثرب (مدینہ) میں دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج کے درمیان ۱۱ افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔¹

جبکہ قریش مکہ میں ایک خاص مقام اور درجہ رکھتے تھے اور تجارت کے پیشہ میں لکھنے پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس وجہ سے یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ وہ قوم جو اس حد تک جہالت اور نادانی میں ڈوبی ہو اس کے پاس اس قسم کے علوم ہوں جس کا بعض دانشوروں نے دعویٰ کیا ہے؟!

شعر

عہد جاہلیت کے عربوں میں صرف ایک اہم خوبی پائی جاتی تھی کہ وہ شعر اور خطابت میں مہارت رکھتے تھے ان کے یہاں، شاعر ایک مورخ، ماہر نساب، ہجاء گر، عالم اخلاق، صحافی، پیشین گوئی کرنے والا اور جنگ کا وسیلہ سمجھا جاتا تھا۔² اس زمانے میں عرب کے بڑے شعراء کی موسمی بازاروں میں جیسے عکاظ، ذی المجاز اور مجنہ³ میں تجارتی اور ادبی آثار کی موسمی اور عمومی نمائشیں لگتی تھیں جس میں شعراء اپنے عمدہ اشعار اور قصیدوں کو پیش کیا کرتے تھے اور اس میں سے جس کے اشعار منتخب ہوتے تھے وہ اور اس کے قبیلہ والے اسے اپنے لئے باعث فخر و عزت سمجھتے تھے اور اس کے اشعار کو اہمیت اور اعزاز کے طور پر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکادیا جاتا تھا ”معلقات سبعہ“ سات بہترین، فصیح و بلیغ اور عمدہ قصیدے سات عظیم شاعر کے تھے جس کی مثال اور نظیر اس زمانہ میں نہیں ملتی تھی۔ لہذا انھیں دیوار کعبہ پر لٹکادیا گیا تھا۔⁴ اور اسی وجہ سے انھیں معلقات سبعہ (سات عدد لٹکے ہوئے قصیدے) بھی کہا جاتا تھا۔

عرب کے اشعار اپنے تمام تر لفظی حسن کے باوجود تہذیب و ثقافت کے نہ ہونے کی بنا پر بلندی فکر سے خالی ہوا کرتے تھے۔ اس زمانہ کے اشعار کے عنوانین، زیادہ تر عشق، شراب، عورت، جنگ اور قومی مسائل ہوا کرتے تھے۔ اور اس میں لفظی جذباتیت اور ادبی نزاکتیں پائی جاتی تھیں۔

1 فتوح البلدان، (تم: منشورات مکتبۃ الارمیہ، ۱۴۰۳ھ، ق) ص ۴۵۹-۴۵۷۔

2 ویل ڈورانٹ، تاریخ تمدن، ج ۴، عصر ایمان (بخش اول)، ترجمہ ابوطالب صارمی (تہران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ط ۲) ص ۲۰۲۔

3 اس بازار کے بارے میں رجوع کریں: بلوغ الارب، ج ۲، ص ۲۷۰-۲۶۴۔

4 رجوع کریں: معلقات سبع، ترجمہ: عبدالمحمد آیتی، تہران: سازمان انتشارات اشرفی، ط ۲، ۱۳۵۷ھ۔

عرب اور ان کے پڑوسیوں کی تہذیب

علم و ہنر کے لحاظ سے عرب کے حالات کا تجزیہ کرنے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عرب کے جاہل اس زمانہ کے دو متمدن پڑوسی ملک یعنی ایران اور روم کے ساتھ تجارتی روابط اور مبادلہ کی بنا پر وہاں کے تمدن سے بہرہ مند تھے؟ اور کیا یہ روابط اور تعلقات ان کی زندگی میں انقلاب کا باعث بنے تھے؟

اس سوال کا جواب دینے کے لئے ہمیں یہ یاد دہانی کرانی چاہیے کہ حجاز کے لوگ اس علاقے کی قدرتی اور جغرافیائی صورت حال کے لحاظ سے نہ صرف سیاسی اعتبار سے اس زمانے کی حکومتوں کے اثر و رسوخ سے دور تھے بلکہ تہذیب و ثقافت کے لحاظ سے بھی ان کے دائرہ نفوذ سے خارج رہے ہیں عربوں کے لئے پڑوسی ملکوں کی تہذیب اور کلچر سے متاثر ہونے کے صرف تین راستے تھے :

۱۔ تجارت ۲۔ ایران و روم کے زیر نفوذ حکومتیں (حیرہ اور غسان) ۳۔ اہل کتاب (یہودی اور عیسائی) لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اثرات کس حد تک تھے۔ اس سلسلہ میں بعض مورخین کے تاثرات مبالغہ آرائی سے خالی نہیں ہیں، جیسا کہ بعض نے کہا ہے :

قبائل عرب کے تعلقات ایران اور روم کے ساتھ ہونے کی بنا پر ایک حد تک وہ ان دونوں ملکوں کے کلچر اور تہذیب سے واقف ہو گئے تھے۔ عرب کے لوگ جب بھی تجارت کے لئے ایران اور روم جایا کرتے تھے تو ان دونوں ملکوں میں تہذیب اور کلچر کے نمونہ دیکھتے تھے۔ اور متوجہ ہوتے تھے کہ ایرانیوں اور رومیوں کی زندگی، عربوں کی زندگی سے کتنا فرق کرتی ہے۔ جیسا کہ ان کے آثار کو واضح طور پر زمانہ جاہلیت کے اشعار میں دیکھا جاسکتا ہے اس کے علاوہ مسافر اور تاجر حضرات بہت سارے الفاظ اور قصوں کو ایران اور روم کی سر زمین سے عربوں کے لئے تحفہ کے طور پر لیجاتے تھے اور اس کے ضمن میں ایرانیوں اور رومیوں کے بعض عقائد اور افکار بھی ان تک پہنچ جاتے تھے۔¹

لیکن یہ خیال رہے کہ ان دونوں ملکوں میں حجاز کے تاجروں کی آمد و رفت بہت زیادہ ہونے کے باوجود ان کے تمدن اور فکری ارتقاء میں مؤثر نہیں بن ہو سکی کیونکہ ان تمدنوں کی روشنی بہت ہی تنگ راہ گزر سے پہنچتی تھی اور کبھی تو دوسروں سے منقول باتوں میں تحریف پائی جاتی تھی۔ جیسا کہ بعض واقعات جو ایرانیوں اور رومیوں کے سلسلے میں نقل کئے گئے ہیں ان میں تحریف پائی گئی ہے درحقیقت اس زمانہ کے عرب، علم و دانش کو اپنے پڑوسیوں سے حاصل نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ اس سلسلے میں ان کے لئے رکاوٹیں درپیش تھیں کہ جن میں سے کچھ یہ ہیں :

۱۔ قدرتی رکاوٹ : جیسے پہاڑ، سمندر، صحراء وغیرہ جس کی بنا پر پڑوسیوں سے عربوں کے رابطے دشوار اور مشکل ہو گئے تھے۔
۲۔ عربوں کی اجتماعی زندگی اور عقلی و فکری سطح : اس زمانے کے ایرانیوں اور رومیوں سے بہت فاصلہ رکھتی تھی جبکہ دوسری قوموں کے تمدن کو اپنا ثقافتی نزدیکی کی صورت میں ممکن تھا۔

۳۔ عربوں کے درمیان جہالت : یہ چیز سبب بنی کہ جو لوگ رومیوں اور ایرانیوں سے رابطہ رکھتے تھے ان کے درمیان بعض حکمت آمیز باتیں یا داستانیں اور محاورات یا تاریخی واقعات اس انداز سے نقل ہوں کہ ناقل آسانی سے اس کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر سکے اور بدو عرب یا دوسرے لوگ اس کو سمجھ سکیں اس وجہ سے ان کے درمیان رابطہ سطحی حد تک تھا اور وہ دقیق اور عمیق آگاہی سے بے خبر تھے۔

1 حسن ابراہیمی، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمہ : ابوالقاسم پایندہ (تہران : سازمان انتشارات جاویدان، ط ۵، ۱۳۶۲) ج ۱، ص ۳۴۔

لہذا یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ پڑوسی ملکوں سے عربوں کے تعلقات صرف ان کی مادی اور ادبی زندگی میں مؤثر واقع ہوئے ہیں۔¹

یہودیوں کی موجودگی کے اثرات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہودی حضرت موسیٰ کے زمانے سے اور اس کے بعد رومیوں کے مظالم، خاص طور سے یروشلم کی تباہی و بربادی کے بعد حجاز کی طرف ہجرت کر گئے۔² حجاز میں یہودیوں کی آمد سے اس علاقہ کی زندگی کے حالات میں کافی تبدیلی آئی۔ اور توریت اور تلمود کی داستانیں بھی عربوں میں منتقل ہو گئیں۔³

ایسی دستاویزات سامنے آئی ہیں جن سے پتہ چلا ہے کہ عربوں کے مقابلہ میں یہودیوں کی فکری اور مذہبی سطح بلند تھی۔ ظہور اسلام کے بعد بھی وہ بعض مسلمانوں سے اپنے مذہبی سوالات پوچھتے تھے۔⁴ لیکن چونکہ دین یہود (عیسائیوں کے دین کی طرح) بری طرح سے تحریف کا شکار ہو گیا تھا، لہذا عرب، جو افکار یہودیوں سے لیتے تھے وہ بیہودہ اور منحرف ہوا کرتے تھے یہودیوں کی تعلیم نہ صرف یہ کہ ان کے لئے راہ گشاہ تھی بلکہ ان کی گراہی میں اضافہ کا باعث تھی۔

ایران اور روم کے مقابلہ میں عربوں کی کمزوری اور پستی

جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ حجاز کے لوگ ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر ایک قبیلہ کی شکل میں زندگی بسر کرتے تھے اور زیادہ تر بادیہ نشین ہوا کرتے تھے، ان کے درمیان ایک مرکزی حکومت نہیں تھی جو ان کو منظم کر سکے۔ وہ ہمیشہ لڑائی جھگڑا اور قبائلی جنگوں میں الجھے رہا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ ذلیل اور کمزور تھے اور اس زمانہ میں دوسری قوموں کے نزدیک ہرگز عزت نہیں رکھتے تھے اور جیسا کہ یہ قوم، قبیلہ اور خاندان کے دائرہ میں محصور تھی اور خیموں کی محدود فضا، اور اونٹوں کے چرانے سے تعصب، محرومیت اور بے نظمی کا شکار تھے۔ لہذا وہ ہرگز اپنے ملک اور جزیرۃ العرب کے حدود سے باہر نکل کر نہیں سوچتے تھے۔ اور نہ صرف ان کے ذہنوں سے پڑوسی ملکوں پر فتح و کامرانی کا تصور ختم ہو گیا تھا بلکہ اس زمانہ کی قدرتمند طاقتوں، یعنی روم اور ایران کے سامنے بری طرح سے کمزوری اور حقارت کا احساس کرنے لگے تھے جیسا کہ ایک شخص جس کا نام قتادہ تھا جو کہ خود ایک عرب تھا اس زمانے کی عرب قوم کو حقیر و ذلیل، پست و گمراہ اور گرسنہ ترین قوم تصور کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ”وہ لوگ دو شیر وں یعنی بڑی طاقتوں ایران اور روم کے درمیان پھنسے ہوئے تھے اور ان سے ڈرتے تھے۔“⁵

اس بات کی شہادت اس طرح سے دی گئی ہے کہ پیغمبر اسلامؐ نے مکہ میں اپنی دعوت کے زمانے میں ایک دن عرب کے کچھ بزرگوں سے گفتگو کی اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دی اور قرآن مجید کی چند آیات جو فطری اور اخلاقی تعلیمات پر مشتمل تھیں ان کے سامنے پڑھیں تو وہ سب کے سب متاثر ہو گئے، ہر ایک نے اپنے طور سے تعریف کی لیکن ان کے بزرگ مثنیٰ بن حارثہ نے کہا:

1 رجوع کریں: فجر الاسلام، ص ۲۹۔

2 یہودی عام طور سے مدینہ میں خیبر، فدک، اور یتھام میں رہتے تھے اور کچھ طائف میں بھی تھے لیکن کوئی ایسی نشانی نہیں ملتی جس سے پتہ چلے کہ مکہ میں بھی یہودی رہا کرتے تھے۔

3 جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ترجمہ: علی جوہر کلام (تہران: امیر کبیر ۱۳۳۳)، ج ۱، ص ۱۶، تلخیص کے ساتھ)

4 صحیح بخاری، دار المطابع الشعب، ج ۹، ص ۱۳۶، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة۔

۵ طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، (بیروت: دار المعرفہ، ط ۲، ۱۳۹۲ھ)، ج ۴، ص ۲۵ (تفسیر آیہ... و کنتم علی شفاعرة من النار...) زابیہ قدورة، الشعبوية، و اثره الاساسی، الاجتماعی فی الحیاة الاسلامیة فی عصر العباسی الاول. (بیروت: دار الکتاب اللبانی، ط ۱، ۱۹۷۲ء)، ص ۳۴؛ احمد امین، ضحی الاسلام، (قاہرہ: مکتبۃ النهضہ، ط ۷)، ج ۱، ص ۱۸۔

ہم دو پانی کے درمیان گھرے ہوئے ہیں ایک طرف سے عرب کا پانی اور ساحل اور دوسری جانب سے ایران اور کسریٰ کی نہروں کا پانی، کسریٰ ہم سے عہد و پیمان باندھ چکا ہے کہ کوئی حادثہ نہیں رونما ہونے دیں گے اور کبھی خطا وار کو پناہ نہیں دیں گے۔ شاید تمہارے آئین کو قبول کرنا، شہنشاہوں کی خوشی کا باعث قرار نہ پائے اگر اس سرزمین پر ہم سے کوئی خطا سرزد ہو تو قابل چشم پوشی ہے لیکن ایسی خطائیں ایران کے علاقہ میں (کسریٰ کی طرف سے) قابل بخشش نہیں ہیں۔¹

موہوم افتخار

مورخین، عربوں کے احساس حقارت کے متعلق لکھتے ہیں کہ ایک سال قبیلہ بنی تمیم، خشک سالی میں گرفتار ہو گیا اور کسریٰ نے ان کو اجازت نہیں دی کہ عراق کے سرسبز و شاداب اور زرخیز علاقہ سے فائدہ اٹھائیں۔ یہاں تک کہ ان کے بزرگوں میں سے ایک شخص جس کا نام حاجب ابن زرارہ تھا اس قبیلہ کی نمائندگی میں کسریٰ کے دربار میں گیا اور اس سے مدد مانگی کسریٰ نے کہا: ”تم عرب لوگ خیانت کار ہو، اگر اس بارے میں تم کو اجازت دیدوں تو تم بلا اور فتنہ برپا کر دو گے۔ لوگوں کو میرے خلاف درغلاؤ گے اور مجھے رنجیدہ اور ملول کر دو گے۔“

حاجب نے کہا: میں ضمانت لیتا ہوں کہ اس قسم کی بات پیش نہیں آئے گی۔ کسریٰ نے پوچھا: کیا ضمانت رکھتے ہو؟“ اس نے کہا: اپنی کمان تمہارے پاس گروی رکھ دیتا ہوں۔ کسریٰ نے قبول کر لیا اور حاجب نے اپنی کمان (جو کہ شجاعت و دلیری کا نمونہ اور بہادری کی علامت سمجھی جاتی تھی) کسریٰ کے پاس گروی رکھ دی اور اس طرح سے کسریٰ کی موافقت حاصل کر لی۔

حاجب کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے عطار نے باپ کی کمان کسریٰ سے واپس لے لی۔²

اس واقعہ کے بعد ایک زمانہ تک قبیلہ بنی تمیم اس طرح کے اغوا شدہ افراد کو کسریٰ کی جانب سے قبول کرنے کو اپنے لئے بہت بڑا فخر سمجھتے تھے۔³ دوسری جانب سے چونکہ قبیلہ ”بنی شیبان“ عجمیوں اور یشکریوں کی مدد سے جنگ ”ذی قار“ میں خسرو پر ویز پر فتح پا گیا تھا۔⁴ لہذا اس کامیابی کو بے انتہا اپنی عزت و سر بلندی کا باعث سمجھتا تھا اور اس کے باوجود کہ وہ جیت گئے تھے۔

پھر بھی اس پر ان کو یقین نہیں آتا تھا اور ہر وقت اس کے بارے میں فکر مند اور خوف زدہ رہتے تھے۔ اور ان کے اندر اتنی جرات نہیں تھی کہ اس کامیابی اور فتح کو عربوں کی عجم پر کامیابی کہہ سکیں۔ بلکہ اس کو ایک اتفاقی حادثہ (نہ کہ عربوں کا افتخار) اور جنگ میں درگیر تین قبیلوں کا

1 محمد ابو الفضل ابراہیم (اور ان کے معاونین)، قصص العرب (بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۳۸۲ھ، ق) ج ۲، ص ۳۵۸؛ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ (بیروت: مکتبۃ المعارف، ج ۲، ص ۱۴۴)۔

2 آلوسی، بلوغ الارباب، ج ۱، ص ۳۱۳-۳۱۱؛ محمد بن عبد ربہ، العقد الفرید (بیروت: دار الکتب العربی، ۱۴۰۳ھ، ق) ج ۲، ص ۲۰؛ ابن قتیبہ، المعارف، تحقیق: ثروۃ عکاشہ (قم: منشورات الرضی)، ص ۶۰۸۔

3 احمد امین، ضحی الاسلام، ج ۱، ص ۱۹۔

4 اس جنگ کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ خسرو پر ویز حرہ کے حاکم نعمان بن منذر کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا لیکن نعمان نے اس کی مخالفت کی لہذا کسریٰ کی جانب سے اسے دربار میں بلا کر قید میں ڈال دیا گیا اور قید خانہ میں ہی وہ مر گیا اس وقت خسرو پر ویز نے ہانی بن مسعود شیبانی سے کہا کہ نعمان کے مال و دولت کو جو اس کے پاس ہے اسے دیدے۔ اس نے دینے سے انکار کیا جس کے نتیجے میں کسریٰ نے اپنے سپاہیوں کو بنی شیبان (جو کہ بکر بن وائل کا ایک خاندان تھا) سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا اور اس جنگ میں ایران کی فوج ہار گئی (ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، بیروت: دار اصدار، ۱۳۹۹ھ، ق) ج ۱، ص ۴۸۹-۴۸۵، رجوع کریں مقدسی، البدء والتاریخ (پیریس: ۱۹۰۳م) ج ۳، ص ۲۶۔

افتخار سمجھتے تھے۔ اس کامیابی کی بنا پر ان کی خود ستائی اس حد تک بڑھ گئی کہ ابو تمام¹ شاعر نے قبیلہ بنی تمیم کے مقابلہ میں (جو کہ ایک دن حاجب کی کمان کسری کے پاس رکھنے کو افتخار سمجھتے تھے) ابودلف عجمی² کی مدح میں اس طرح کے اشعار کہے:

اگر ایک دن تمیم اپنی کمان پر افتخار کرتے تھے اور اس کو اپنی عزت و شرف اور سر بلندی کا باعث سمجھتے تھے تو تمہاری تلوروں نے جنگ ذی قار میں ایسے لوگوں کے تحت حکومت کو جو کہ کمان حاجب کو گروی رکھے ہوئے تھے، درہم و برہم کر دیا۔³

دور جاہلیت

ہم نے جزیرۃ العرب اور وہاں کے لوگوں کی بحث میں ظہور اسلام سے قبل کے دور کو، عصر جاہلیت، اور وہاں کے باشندوں کو، ”جاہل عرب“ کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہاں پر یہ بیان کرتا چلوں کہ ایسے شواہد موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ”عصر جاہلیت“ کی اصطلاح ظہور اسلام کے بعد (قرآن کے الہام کے ذریعہ) اسلام سے قبل زمانہ کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان استعمال ہوتی تھی۔ اور ایک خاص مفہوم رکھتی تھی۔⁴ کچھ معاصر مورخین نے اس دور کا تخمینہ ۱۵۰ سال سے ۲۰۰ سال قبل از بعثت پیغمبر اسلام لگایا ہے۔⁵

اگرچہ لفظ جاہلیت ”جہل“ سے نکلا ہے لیکن جہل یہاں پر علم کے مقابلہ میں نہیں ہے بلکہ عقل اور منطق کے مقابل میں ہے۔⁶ یہ صحیح ہے کہ اس زمانے میں جزیرۃ العرب کے لوگ (اس تشریح کی بنا پر جو دی گئی ہے) پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اور علم و دانش سے بے بہرہ تھے اور اس زمانے کو ”عصر جاہلیت“ کہا جاتا تھا۔ نہ صرف یہ کہ جہالت کی بنا پر بلکہ غلط فکر اور عقل و منطق سے دور، بے بنیاد و رسم و رواج، برے صفات، جیسے کینہ توزی، خود پسندی، فخر فروشی، اندھے تعصب کی بنا پر اسلام نے سختی کے ساتھ ان سے مقابلہ کیا۔⁷

1 ابو تمام حبیب بن اوس طائی۔

2 ابودلف قاسم بن عیسیٰ عجمی۔

۳ اذا افتخرت يوماً تمیم بقوسہا و زادت علی ما وطدت من مناقب

فانتہم بذی قار، امالت سیوفکم عروش الذین استرینوا قوس حاجب

احمد امین، ضحیٰ الاسلام، ج ۱، ص ۱۹؛ مسعودی، التنبیہ او الاشراف، تصحیح: عبداللہ اسماعیل الصاوی (قم: مؤسسۃ نشر منابع الثقافیۃ الاسلامیہ)، ص ۲۰۹؛ جلال الدین ہمامی، شعوبیہ (اصفہان: کتابفروشی صائب، ۲۳۶۳)، ص ۱۱-۱۲

4 جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام (بیروت: دار العلم للملایین، ط ۱، ص ۴۲-۴۱۔

5 عمر فروغ، تاریخ صدر الاسلام والدولۃ الامویہ (بیروت: دار العلم للملایین، ط ۳، ۱۹۷۶ء)، ص ۴۰۔

6 عمر فروغ کہتا ہے: جاہلیت اس جہل پر دلالت کرتی ہے جو علم کے مقابلہ میں ہے نہ کہ جو علم کے مقابلہ میں ہے۔ (تاریخ صدر الاسلام، ص ۴۰)

7 رجوع کریں: طباطبائی، تفسیر المیزان، ج ۴، ص ۱۵۵-۱۵۱، احمد امین، فجر الاسلام، ص ۷۸-۷۴؛ آلوسی، بلوغ الارب، ج ۱، ص ۱۸-۱۵؛ شوقی ضیف، تاریخ الادب العربی، ج ۱، ”العصر الجاہلی“ (قاہرہ دار المعارف، ط ۷)، ص ۳۹۔ اس مطلب کی تائید کے لئے ہماری کچھ احادیث ہیں جس میں جہل کو عقل کے مقابلہ میں قرار دیا گیا اور اصول کافی جیسی کتاب میں ”فصل العقل والجہل“، (ج ۱، ص ۱۱ کے بعد) میں اس طرح کی احادیث بیان ہوئی ہیں۔

شاید کہا جاسکتا ہے کہ یہاں پر جہل کا مفہوم ”نافہمی“ کے مانند ہے۔ جس کا لازمہ جہالت نہیں ہے بلکہ کج فکری، کم عقلی اور ہلکے دماغ کے افراد کو بھی جاہل کہہ سکتے ہیں۔¹

قرآن کریم میں متعدد مقامات پر جاہلیت کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے، جن میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے:

۱۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں کی بے جا غلط توقعات اور امیدیں یہ تھی کہ پیغمبر اسلام ان کی مرضی کے مطابق مشورہ دیں، اسے ”حکم جاہلیت“ کہا گیا ہے۔²

۲۔ خداوند عالم نے بت پرست عربوں کے اندھے تعصب کو ”جاہلیت کا تعصب“ قرار دیا ہے۔³

۳۔ پیغمبر اسلام کی بیویوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اپنی گزشتہ جاہلیت کی رسم و رواج کے مطابق خود نمائی کے ساتھ گھر سے باہر نہ نکلیں۔⁴

۴۔ خداوند عالم نے منافقین اور ضعیف الایمان لوگوں کے ایک گروہ کو جنگ احد میں لشکر اسلام کے شکست کھا جانے کے بعد جن کے حوصلہ پست ہو گئے تھے اور تشویش و بد بینی کا شکار ہو گئے تھے۔ ان کی مذمت کی ہے کہ خدا کے بارے میں ”جاہلیت“ جیسا گمان رکھتے ہو۔⁵

خداوند عالم نے بیان کیا ہے کہ جس وقت جناب موسیٰ نے اپنی قوم کو گائے کے کاٹنے کا حکم دیا تو ان کی قوم والوں نے کہا: ”کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ جناب موسیٰ نے فرمایا: خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔“⁶

امیر المومنین حضرت علیؓ بت پرست عربوں کی ذلت و پستی اور تاریک زندگی کا نقشہ کھینچتے ہوئے ان کی جہالت کی بنا پر ان کی دماغی پستی کا ذکر فرماتے ہیں۔⁷

1 جواد علی کہتے ہیں: ”میری نظر میں جاہلیت، بیوقوفی، کم عقلی، غرور، کند ذہنی، غصہ اور حکم و دستور الہی کے مقابلہ میں سر تسلیم خم نہ کرنے سے پیدا ہوتی ہے اور یہ وہ صفات ہیں جن کی اسلام نے مذمت کی ہے اس بنا پر یہ ویسے ہی ہے جیسے آج کوئی سفیر اور احقر گالی بکے اور اخلاق و تہذیب کا خیال نہ کرے تو ہم اس سے کہیں گے: اے نادان یہاں سے دور ہو جا! اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان جاہل ہے“ (المفصل فی تاریخ العرب فی الاسلام، ج ۱، ص ۴۰)

۲ ”افحکم الجاہلیۃ بیغون...“ سورۃ مائدہ، ۵، آیت ۵۰۔

۳ سورۃ فتح، ۴۸، (إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ) آیت ۲۶۔

۴ سورۃ احزاب، ۳۳، (وَقَدْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَنْرِجُنَّ تَبْرِجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) آیت ۳۳۔

۵ سورۃ آل عمران، ۳، (...وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ...) آیت ۱۵۴۔

۶ سورۃ بقرہ، ۲، (قَالُوا اتَّخَذْنَا بُرُؤًا قَالًا عَظُوًّا بِاللَّهِ إِنَّ أَكُونًا مِنَ الْجَاهِلِينَ) آیت ۶۷۔

۷ واستخفیتم الجاہلیۃ الجہلاء۔ (صباحی صالح، نہج البلاغہ، خطبہ ۹۵)

تیسری فصل

جزیرہ نمائے عرب اور اسکے اطراف کے ادیان و مذاہب

ظہور اسلام کے وقت عرب کے اکثر پیشوا بت پرست تھے لیکن ملک عرب کے گوشہ و کنار میں مذہبی رہبروں کی پیروی کرنے والے اور مختلف ادیان جیسے عیسائیت، یہودیت، حنفیت، مانوی اور صابئی وغیرہ بھی موجود تھے۔ اس بنا پر عرب کے لوگ صرف ایک دین کی پیروی نہیں کرتے تھے اس کے علاوہ ہر ایک دین اور آئین، ابہام اور تیرگی سے خالی نہ تھا۔ اسی بنا پر ایک طرح کی سرگردانی اور حیرانگی، ادیان کے سلسلے میں پائی جاتی تھی۔ ہم یہاں پر ہر ایک دین اور مذہب کے بارے میں مختصر توضیح دے رہے ہیں:

موحدین

موحدین یا دین حنیف¹ کے معتقد ایسے لوگ تھے جو مشرکین کے برخلاف بت پرستی سے بے زار، خداوند متعال اور قیامت کے عقاب و ثواب کا عقیدہ رکھتے تھے۔ ان میں سے کچھ عیسائیت کے ماننے والے تھے۔ لیکن بعض مورخین، ان کو بھی دین حنیف پر سمجھتے ہیں ورتہ بن نوفل، عبد اللہ بن حبش، عثمان بن حویرث، زید بن عمر بن نفیل²، نابغہ جعدی (قیس بن عبد اللہ) امیہ بن ابی الصلت، قس بن ساعدہ، ابو قیس صرمہ بن ابی انس، زہیر ابن ابی سلمیٰ، ابو عامر اوسی (عبد عمر بن صیفی) عداس (عتبہ بن ربیعہ کا غلام) رباب شنی اور بکیرہ راہب جیسے افراد کو بھی دین حنیف کے معتقدین میں سمجھا جاتا ہے۔³ ان میں سے بعض حکماء یا مشہور شعراء تھے۔

البتہ وحدانیت کی طرف رجحان کا سبب ان کی پاک فطرت اور روشن فکر اور اس زمانے کے رائج ادیان کی بے روکی اور اس سماج میں پائے جانے والے مذہبی خلا میں تلاش کرنا چاہیے۔

1 حنیف (جس کی جمع حنفاء ہے) اس شخص کو کہتے ہیں جو دین ابراہیم کا پیرو ہو (طبری، مجمع البیان، شرکۃ المعارف، ج ۱، ص ۲۱۶)۔

2 محمد بن حبیب، (المحبر، بیروت: دارالافتاء الحدیدہ) ص ۱۷۱۔

3 مسعودی، مروج الذهب، ترجمہ: ابوالقاسم پایندہ (تہران: ادارہ ترجمہ و نشر کتاب، ط ۲، ۱۳۵۶ھ) ج ۱، ص ۶۸-۶۹: ابن ہشام، سیرۃ النبی، تحقیق: مصطفیٰ السقاء و معاونین، (قاہرہ: مطبعۃ مصطفیٰ البابی الحلبي، ۱۳۵۵ھ ق) ج ۱، ص ۲۳۷: ابن کثیر، السیرۃ النبویہ، تحقیق: مصطفیٰ عبد الواحد (قاہرہ: مطبعۃ عیسیٰ البابی الحلبي، ۱۳۸۴ھ ق) ج ۱، ص ۱۶۵-۱۶۶: محمد بن اسحاق، السیر والمغازی، تحقیق: ڈاکٹر سہیل زکار (بیروت: دار الفکر، ط ۲، ۱۴۱۰ھ ق) ص ۱۱۶-۱۱۷: محمد بن حبیب بغدادی، المنقذ فی اخبار قریش، تحقیق: خورشید احمد فاروق (بیروت: عالم الکتب، ط ۱، ۱۴۰۵ھ ق) ص ۱۹-۱۳۔

یہ لوگ اپنی پاک فطرت کے ذریعہ خلاق عالم، مدر جہاں کے معتقد تھے اور عقل و خرد سے دور ایک پست آئین جیسے بت پرستی کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہودی مذہب بھی صدیاں گزر جانے کے بعد اپنی حقیقت اور معنویت کو کھو بیٹھا تھا۔ اور روشن فکر افراد کے اندر پائی جانے والی بے چینی کو اطمینان اور سکون میں نہیں بدل سکتے تھے اسی بنا پر بعض الوہیت کے متلاشی افراد کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ آئین حق کی تلاش میں وہ اپنے اوپر سفر کی صعوبتوں اور پریشانیوں کو روا جانتے ہوئے مسیحی اور یہودی علماء اور دوسرے آگاہ لوگوں سے بحث اور گفتگو کیا کرتے تھے۔¹ اور پیغمبر اسلام کی بعثت کی نشانیوں کے سلسلے میں آسمانی کتابوں میں جو اشارے ملتے ہیں ان کے بارے میں تحقیق کرتے تھے اور چونکہ معمولاً کسی نتیجہ تک نہیں پہنچتے تھے لہذا اصل وحدانیت کو قبول کرتے تھے۔ بہر حال وہ اپنی مذہبی عبادتوں اور رسومات کو کس طرح انجام دیتے، یہ ہمارے لئے واضح نہیں ہے۔

اس نکتہ کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ دین حنیف کے پیروکار، بعض لوگوں کے خیال کے برخلاف ہدایت اور عرب سماج کی تبدیلی میں توحید کے مسئلہ میں کوئی رول نہیں رکھتے تھے۔ بلکہ جیسا کہ مورخین نے صراحت کی ہے کہ وہ لوگ تنہائی اور انفرادی شکل میں زندگی بسر کرتے تھے اور غور و فکر میں لگے رہتے تھے اور کبھی بھی ایک گروہ یا ایک منظم فرقہ کی شکل میں نہیں تھے اور ان کے پاس کوئی ایسا دین و آئین نہیں تھا جس میں ثابت اور معین احکام بیان کئے گئے ہوں۔ ان لوگوں نے آپس میں ملے کر رکھا تھا کہ لوگوں کے اجتماعی مراکز سے دور رہیں اور بتوں کی پرستش سے بچیں اس قسم کے لوگ اپنی جگہ پر مطمئن تھے اور خیال کرتے تھے کہ ان کی قوم والوں کے عقائد باطل ہیں اور اپنے کو تبلیغ و دعوت کی زحمت میں مبتلا کرنے کے بجائے صرف اپنے نظریات کا اظہار کرتے تھے۔ اور اپنی قوم والوں سے ان کے تعلقات ٹھیک ٹھاک تھے ان کے درمیان کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں رہتا تھا۔²

عیسائیت

دین عیسائیت کے ماننے والے بھی عرب کے بعض علاقوں میں پائے جاتے تھے۔ یہ دین، جنوب کی سمت حبشہ سے اور شمال کی سمت سوریہ سے اور نیز جزیرہ نمائے سینا سے عرب میں آیا تھا۔ لیکن اس سر زمین کو کوئی خاص ترقی نہیں ملی۔³ جزیرۃ العرب کے شمال میں عیسائیت، (قبیلہ تغلب) کے درمیان (قبیلہ ربیعہ کی ایک شاخ) اور (غسان) اور قبیلہ ”قضاہ“ کے بعض لوگوں کے درمیان رائج تھی۔⁴⁻⁵

1 ابن کثیر، گزشتہ حوالہ، ص ۱۵۶؛ محمد ابوالفضل ابراہیم (اور معاونین)، ”قصص العرب“ (قاہرہ: دار احیاء الکتب العربیہ، ط ۵)، (قم: آفیسٹ منشورات الرضی، ۱۳۶۴)، ج ۱، ص ۷۲۔

2 جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب، قبل الاسلام (بیروت: دار العلم للملایین، ط ۱، ۱۹۶۸)، ج ۶، ص ۴۹؛ حسینی طباطبائی، خیانت در گزارش تاریخ (تہران: انتشارات چاپخش، ۱۳۶۶ ش)، ج ۱، ص ۱۲۰؛ ابن ہشام، سیرۃ النبی، ج ۱، ص ۲۳۔

3 حسن ابراہیمی حسن، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمہ: ابوالقاسم پابندہ (تہران: سازمان انتشارات جاویدان، ط ۵، ۲۳۶۲)، ج ۱، ص ۶۲۔

4 گزشتہ حوالہ، ص ۶۴؛ شہاب الدین الابشی، المستطرف فی کل فن مستطرف (بیروت: دار احیاء التراث العربی)، ج ۲، ص ۸۸؛ ابن قتیبہ، المعارف، تحقیق: ثروت عکاشہ (دار الکتب، ۱۹۶۰ء)، ص ۶۲۱؛ الامیر ابوسعید الحمیری، الحور العین، تحقیق: کمال مصطفیٰ (تہران: ۱۹۷۲ء)، ص ۱۳۶۔

5 عثمان بن حویرث اور ورقہ بن نوفل (بنی اسد سے) قریش کا ایک خاندان) کو ہم نے دین حنیف کے معتقدین میں سے ذکر کیا ہے و نیز امرء القیس کے لڑکوں (قبیلہ بنی تمیم سے تھے) کو مسیحی بیان کیا ہے (تاریخ یعقوبی، ج ۱، ص ۲۲۵)

قس بن ساعدہ، حنظلہ طائی اور امیہ بن صلت کو بھی عیسائیوں کے بزرگوں میں شمار کیا ہے ان میں سے کچھ لوگوں نے اجتماعی جگہوں پر جانا چھوڑ دیا تھا اور جنگلوں میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔¹

یمن میں عیسائیت

یمن میں عیسائیت چوتھی صدی عیسوی میں داخل ہوئی ”فلپ جٹی“ جو کہ خود ایک عیسائی ہے، لکھتا ہے: ”عیسائیوں کا پہلا گروہ عربستان کے جنوب میں گیا یہ خبر صحیح ہے یہ وہی گروہ تھا جس کو ”کنٹانیٹس“ نے ۳۵۶ء عیسوی میں تو فیلو س اندوس اربوس کی سرپرستی میں بھیجا اور یہ کام اس زمانہ کے سیاسی عوامل اور عربستان کے جنوبی علاقہ میں ایران اور روم کے نفوذ کی خاطر انجام دیا گیا تھا عدن میں ایک اور ملک حمیر بان میں دوسرے کلیسوں کی بنیاد رکھی، نجران کے لوگ ۳۵۰ء میں ایک نئے دین کے گرویدہ ہو گئے تھے۔²

ظہور اسلام کے وقت، طی، مذحج، بہراء، سلح، تنوخ، غسان اور لحم قبائل یمن میں عیسائی تھے۔³

عیسائیوں کا سب سے اہم مرکز یمن میں ”نجران شہر“ تھا نجران ایک آباد اور پر رونق شہر تھا وہاں کے لوگوں کا مشغلہ زراعت، ریشمی کپڑوں کی بناؤٹی، کھال کی تجارت اور اسلحہ سازی تھا۔ یہ شہر تاجروں کے راستوں میں پڑتا تھا جو حیرہ تک پھیلا ہوا تھا۔⁴

عیسائیت اس طرح سے یمن میں رائج ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ یمن میں ذونواس برسر اقتدار آیا اور اس نے عیسائیوں پر سختیاں کی تاکہ وہ اپنے آئین سے دست بردار ہو جائیں۔ جس وقت عیسائیوں نے مقابلہ کیا تو ان کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں جلا دیا گیا۔⁵

آخر کار ذونواس، حکومت حبشہ کی مداخلت سے ۵۲۵ء میں شکست کھا گیا اور عیسائی دوبارہ برسر اقتدار آ گئے۔⁶

حیرہ میں عیسائیت

ایک دوسرا علاقہ جہاں پر عیسائیوں نے نفوذ کیا وہ ”شہر حیرہ“ تھا جو عربستان کے شرق میں واقع تھا۔ یہ مذہب رومی اسیروں کے ذریعہ اس علاقہ میں آیا تھا۔ حکومت ایران ہرمزاول کے زمانے سے ایسی جگہوں پر مسلط ہو گئی جہاں کے رہنے والے رومی اسیر تھے ان میں سے کچھ اسیر حیرہ میں رہتے تھے۔

۱ احمد امین، فجر الاسلام، (قاہرہ: مکتبۃ النهضة المصریہ، ط ۹، ۱۹۶۴ء)، ص ۲۷۔

2 تاریخ عرب، ترجمہ: ابوالقاسم پابندہ (تہران: انتشارات آگاہ، ۱۳۶۶ء)، ص ۷۸؛ کچھ مورخین نے یمن میں عیسائیوں کے نفوذ کا آغاز ایک فیمنون نامی شامی زاہد کے اس علاقہ میں آکر اس کے کام کرنے کے وقت بتاتے ہیں (ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۵-۳۲؛ یاقوت حموی، معجم البلدان، (بیروت: دار احیاء التراث العربی)، ج ۵، ص ۲۶۶؛ لفظ نجران، لیکن یہ افسانوی شکل رکھتا ہے اور جو کچھ حتیٰ سے نقل ہوا ہے اس کے مطابق نہیں ہے۔

3 تاریخ یعقوبی، (نجف: مکتبۃ الحیدریہ، ۱۳۸۴ھ، ق) ج ۱، ص ۲۲۴

4 احمد امین، گزشتہ حوالہ، ص ۲۶

5 مفسرین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ سورہ ”بروج“ کی ۴ سے ۹ تک آیتیں مسیحیوں کے قتل عام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یا یہ واقعہ ان آیتوں کا ایک مصداق ہے (تفسیر المیزان، ج ۲، ص ۲۵۱-۲۵۲؛ جیسا کہ خداوند عالم سورہ بروج کی ۹-۴ آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے۔

6 احمد امین، گزشتہ حوالہ، ص ۲۷۔

بعض کے عقیدہ کے مطابق سرزمین حیرہ میں عیسائیت کے نفوذ کا سرچشمہ یہی اسیر تھے۔

بہر حال عیسائی مبلغین حیرہ میں رہتے تھے اور اپنے مذہب کی نشر و اشاعت میں مشغول رہتے تھے۔ عربوں کے بازاروں میں وعظ و نصیحت اور تبلیغ کرتے تھے۔ اور قیامت، جنت و جہنم کے مسئلہ سے آگاہ کرتے تھے ان کی محنتوں اور کوششوں کے نتیجے میں ایک گروہ اس آئین کا گرویدہ ہو گیا اور حد ہے کہ ہند (نعمان پنجم کی بیوی) نے بھی مذہب عیسائیت کو قبول کر لیا اور اس نے ایک معبد بنایا جو ”معبد ہند“ کے نام سے مشہور ہوا اور طبری کے زمانے تک باقی رہا۔

حفظہ طائی، قس بن ساعدہ اور امیہ بن صلت (جن کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں) حیرہ کے لوگوں میں سے تھے۔¹

نعمان بن منذر (بادشاہ حیرہ) نے بھی عدی بن زید کی تشویق پر آئین مسیحیت قبول کر لیا۔²

قرآن مجید میں ایسی متعدد آیات موجود ہیں جن میں عیسائیوں کے افکار و عقائد کو بیان کر کے ان میں سے جو غلط اور ضعیف عقائد اور اعمال ہیں (خاص طور پر حضرت عیسیٰؑ کی الوہیت کے بارے میں) جو ان کے خیالات ہیں، ان کو بیان کیا گیا ہے³ اور یہ چیزیں بہت اہم گواہ ہیں کہ یہ دین جزیرۃ العرب میں نزول قرآن کے وقت موجود تھا۔ اس کے علاوہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ، پیغمبر اسلامؐ کا مقابلہ (جو کہ تاریخ اسلام میں مشہور ہے) بھی اس بات کا ثبوت ہے۔⁴

البتہ جیسا کہ اشارہ ہو چکا ہے کہ مذہب عیسائیت بھی زمانہ کے گزرنے کے ساتھ اس کی اصالت اور معنویت کا نور ماند پڑ گیا ہے اور وہ تحریفات کا شکار ہو گیا ہے۔ لہذا اس زمانہ کے لوگوں کے فکری اور عقیدتی خلاء کو پر نہیں کیا جاسکتا اور ان کے مضطرب و پریشان قلب و ضمیر کو سکون نہیں بخشا جاسکتا۔

1 احمد امین گزشتہ حوالہ، ص ۱۸، ۲۵، ۲۶، ۲۸۔

2 محمد ابو الفضل ابراہیم (اور اس کے ساتھی) قصص العرب، ج ۱، ص ۷۳؛ احمد امین گزشتہ حوالہ، ص ۷۷۔

3 سورہ مائدہ، آیت ۱۸، ۷۳؛ سورہ نساء، آیت ۱۷۱؛ سورہ توبہ، آیت ۳۰؛ لیکن قرآن نے عیسائیوں کو یہودیوں کے مقابلہ میں جو کہ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے ان کا قریبی دوست بتایا ہے۔ (مائدہ، آیت ۸۲)

4 سید محمد حسین طباطبائی، تفسیر المیزان، (مطبوعاتی اسماعیلیان، ط ۳، ۱۳۹۳ھ، ج ۳، ص ۲۲۸ و ۲۳۳)

دین یہود

دین یہود کا ظہور اسلام سے چند صدی قبل عربستان میں نفوذ ہوا تھا اور بعض یہودی نشین علاقے ظہور میں آچکے تھے جن میں سے سب سے معروف ”یثرب“ تھا جسے بعد میں ”مدینہ“ کہا گیا ”تیماء“¹ ”فدک“² اور ”خیبر“³ بھی یہودی نشین علاقے تھے۔ یثرب کے یہودی تین گروہ میں بٹے ہوئے تھے: ۱۔ طائفہ بنی نظیر ۲۔ طائفہ بنی قینقاع ۳۔ طائفہ بنی قریظہ۔⁴

مدینہ میں مذکورہ تین قبیلوں کے علاوہ دو قبیلے اوس اور خزرج بھی رہتے تھے جو تیسری صدی عیسوی کے نزدیک، یمن سے آئے تھے۔ یہ دونوں قبیلے یثرب میں یہودیوں کے مقیم اور مستقر ہو جانے کے بعد وہاں مستقر ہوئے تھے۔ یہ دو قبیلے بت پرست تھے اور یہودیوں کے پہلو میں رہنے کی بنا پر ان میں سے کچھ لوگ، دین یہود کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ طائف میں بھی کچھ یہودی رہتے تھے جو یمن اور یثرب سے نکالے گئے تھے۔⁵

یہودی عربستان کے جس علاقہ میں رہتے تھے وہاں اپنی مہارت کی بنا پر زراعت میں مشہور تھے یہ لوگ مدینہ میں بھی زراعت کے علاوہ دوسرے ہنر کی وجہ سے جیسے آہنگری، رنگریزی، اور اسلحوں کے بنانے کی بنا پر مشہور ہو گئے تھے۔⁶

دین یہود کے ماننے والے قبیلہ حمیر، بنی کنانہ، بنی حارث بن کعب، کندہ⁷ غسان و جذام میں بھی پائے جاتے تھے۔⁸

1 یا قوت حموی کے بقول، تیماء ایک چھوٹا سا شہر تھا جو شام اور وادی القری کے بیچ پڑتا تھا (معجم البلدان، ج ۲، ص ۶۷) اور وادی القری مدینہ اور شام کے بیچ مدینہ کا ایک علاقہ تھا۔ وہی حوالہ، ج ۵، ص ۳۴۵۔ لہذا تیماء شام اور مدینہ کے بیچ پڑتا تھا؛ مقدس چوتھی صدی کا اسلامی دانشور، کہتا ہے کہ ”تیماء“ ایک ایسا قدیمی شہر ہے جو ایک وسیع زمین میں کھجوروں کے درختوں سے پُر بے شمار باغات پانی کی فراوانی اپنے ہوئے چشموں کی بنا پر دلکش اور حسین منظر جو کہ ایک لوہے کی جالی سے تالاب میں گرتا ہے اور پھر باغوں میں جاتا ہے، بیٹھے پانی کے کنویں بھی موجود تھے، جنگل میں واقع تھا لیکن اب اس کا اکثر حصہ ویران ہو گیا ہے“ (احسن التقاسیم فی معرفۃ الاقالیم، ترجمہ: علی نقی منتروی (گروہ مولفین و مترجمین ایران)

2 فدک ایک گاؤں ہے جس کا فاصلہ مدینہ سے دو یا تین روز پیدل مسافت کے ذریعہ طے ہوتا ہے (معجم البلدان، ج ۴، ص ۲۳۸)

3 خیبر ایک ایسا علاقہ ہے جو تقریباً ۹۶ میل (۱۹۲ کلومیٹر) مدینہ کے شمال کی جانب (شام کی طرف) پڑتا ہے کہ جہاں سات قلعے کا شکاری کی زمینیں اور بہت سے کھجور کے باغات تھے (معجم البلدان، ج ۲، ص ۴۰۹) اس کا فاصلہ مدینہ سے اس سے بھی کم اور زیادہ بیان کیا گیا ہے (ابوالفداء، تفویم، ترجمہ: عبدالمحمد آیتی) انتشارات بنیاد فرہنگی ایران، ص ۱۲۳۔

4 حسن ابراہیم حسن، گزشتہ حوالہ، ص ۶۴۔

5 بلاذری، فتوح البلدان، (بیروت: دار الکتب العلمیہ، ۱۳۹۸ھ، ق) ص ۶۷۔

6 احمد امین، فجر الاسلام، ص ۲۴۔

7 ابن قتیبہ، المعارف، تحقیق: ثروت عکاشہ (قم: منشورات الرضی)، ط ۱، ص ۱۴۱۵ھ، ق) ص ۶۲۱؛ الامیر ابو سعید بن نشوار الحمیری، الحور العین، تحقیق: کمال مصطفیٰ (تہران: ۱۹۷۲ء)، ص ۱۳۶، کتاب المستطرف، ج ۲، ص ۸۸، پر قبیلہ حمیر کا نام (نیر) لکھا ہوا ہے جو غلط چھپا ہے۔

8 تاریخ یعقوبی، ج ۱، ص ۲۵۷۔

یمن میں یہودی

یہودی جس علاقہ میں رہتے تھے اپنے عقائد و افکار اور توریت کی تعلیمات کو ترویج دیتے تھے۔

یمن بھی ایک زمانہ تک یہودیوں کے زیر نفوذ رہا ہے اور ذونواس (بادشاہ یمن) نے جو کہ یہودی ہو گیا تھا۔

عیسائیوں کو کچل کر، دین یہود کے قانونی دین ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ بعض مورخین کے عقیدے کے مطابق ذونواس کا یہ اقدام مذہبی جذبہ کے تحت نہیں تھا بلکہ قومی اور وطن پرستی کے جذبہ کی خاطر تھا۔ اس اعتبار سے کہ نجران کے عیسائی ملک حبشہ سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے اور حکومت حبشہ، نجران میں عیسائیوں کی حمایت کو مدعا بنا کر، یمن کے امور میں مداخلت کرتی تھی اور اس طرح وہ اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہو گئے۔ ذونواس اور اس کے طرفداروں نے چاہا کہ وہاں پر عیسائیوں کو کچل کر، حبشہ کو اس علاقہ اور مرکز سے محروم کر دیں۔ اسی بنا پر اس نے عیسائیوں کا قتل عام شروع کر دیا۔

نجران کے عیسائیوں کے قتل عام کے بعد ان میں کا ایک آدمی بچ گیا تھا جو بھاگ کر حبشہ پہنچا اور وہاں کے بادشاہ سے مدد مانگی۔ جس کی بنا پر دونوں ملکوں میں جنگ چھڑ گئی اور ذونواس ۵۲۵ء میں شکست کھا گیا اور نجران کا علاقہ دوبارہ پیغمبر اسلام کے زمانہ تک عیسائیوں کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔¹

صابئین

بعض مورخین اس گروہ کے آغاز کو ”سلطنت تہمورث“ کے زمانہ میں بتاتے ہیں اور اس کا بانی ”بوذاسف“ کو جانتے ہیں۔ ابوریحان بیرونی (۳۴۰ھ - ۳۶۰ھ) اس گروہ کے آغاز کی تاریخ بیان کرنے کے بعد کہتا ہے: ”ہم ان کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں جانتے تھے کہ وہ خداوند عالم کی وحدانیت کے قائل ہیں اور اس کو ہر طرح کے صفات بد سے منزہ اور بے عیب جانتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں: خدا محدود نہیں ہے، دکھائی نہیں دیتا، ظلم نہیں کرتا، تدبیر عالم کو فلک اور آسمانی کہکشاؤں کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ حیات افلاک اور اس کے نطق، شنوائی اور بینائی کے معتقد ہیں، انوار کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ لوگ ستاروں پر عقیدہ رکھنے کی بنا پر، ان کی حرکتوں سے زمین کے مقدرات کو مربوط جانتے تھے اور ان کے مجسموں کو اپنے معبد میں نصب کرتے تھے۔ جیسا کہ انھوں نے سورج کے مجسمہ کو بعلبک میں، چاند کے مجسمہ کو حران میں اور زہرہ کے مجسمہ کو ایک قریہ میں نصب کر رکھا تھا۔“²

1 احمد امین گزشتہ حوالہ، ص ۲۳، ۲۴ اور ۲۷: رجوع کریں: ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۱، ص ۳۷: یا قوت حموی، معجم البلدان، ج ۵، ص ۲۶۶

2 الآثار الباقیہ، ترجمہ: اکبر دانا سرشت، (تہران: ط ۱۳۶۳)، ص ۲۹۵-۲۹۴.

صابئین کا مرکز ”حران“¹ شہر تھا۔ یہ دین ایک زمانہ میں روم، یونان، بابل اور دنیا کے دوسرے علاقوں تک پھیل گیا تھا۔²
قرآن مجید نے ان میں سے تین مقامات کا ذکر کیا ہے۔³ یہ فرقہ ہمارے زمانے میں ختم ہوتا جا رہا ہے ان میں سے کچھ لوگ صرف خوزستان⁴ اور عراق⁵ میں باقی رہ گئے ہیں۔⁶

مانی دین

دین زردشتی، مزدکی اور مانوی کا منبع اور مرکز ایران رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ادیان ظہور اسلام سے قبل بھی حجاز میں موجود تھے یا نہیں؟ اس بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے بعض معاصر مورخین کا کہنا ہے کہ یہ ادیان ظہور اسلام سے قبل حجاز میں موجود تھے لیکن تاریخی دستاویزات اس علاقہ میں صرف دین مانوی کے وجود کی تصدیق کرتی ہیں۔

یعقوبی لکھتا ہے: عربوں کا ایک گروہ دین یہودیت کا گرویدہ ہو گیا تھا اور ایک گروہ دین عیسائیت کو ماننے لگا تھا اور ایک گروہ جو زندیق ہو گیا تھا اس نے دین شنوی (دو گانہ پرستی) کو اپنا لیا تھا۔⁷

1 حران، دجلہ اور فرات کے درمیان ایک بڑا شہر تھا لیکن آج ویران ہو گیا ہے اور ایک کھنڈر دیہات میں تبدیل ہو گیا ہے۔ صدر اسلام میں یہ شہر آباد تھا اور جید علماء یہاں سے پیدا ہوئے ہیں (معجم البلدان، ج ۲، ص ۲۳۶-۲۳۵؛ تقویم البلدان، ص ۳۰۷-۳۰۶؛ محمد معین: فرہنگ فارسی، (تہران: امیر کبیر)، ج ۵، ص ۴۵۷)۔

2 طباطبائی، تفسیر المیزان، ج ۱۰، ص ۲۷۹۔

3 سورہ بقرہ، آیت ۲، سورہ مائدہ، ۵، ۶۹؛ سورہ حج، ۲۲، آیت ۱۷۔

4 دریائے کارون کے ساحلی علاقے، اہواز، خرم شہر، آبادان، شادگان اور دشت میشان ہیں)

5 بغداد میں دجلہ اور فرات کے ساحلی علاقے حله، ناصریہ، عمارہ، کوت، دیالی، کرکوک، موصل، رمادی، سلیمانہ، اور کر بلا ہیں۔

6 کلید صائبی کے ریشہ اور اصل کے سلسلہ میں اور کیا یہ عربی کلمہ ہے یا عبری؟ اور اس کے معنی کیا ہیں اور نیز صائبیوں کے عقائد اور یہ کسی نبی کے ماننے والے ہیں، رجوع کریں آلو سی، بلوغ الارب، ج ۲، ص ۲۲۸-۲۲۳؛ یحییٰ نوری، اسلام و عقائد وآراء بشری، (تہران: موسسہ مطبوعاتی فراہانی، ط ۲، ۱۳۴۶)، ص ۴۳۲-۴۳۱؛ شہرستانی، الملل والنحل، تحقیق: محمد سید گیلانی (بیروت: دار المعرفہ)، ج ۱، ص ۳۳۰، ج ۲، ص ۵۔

7 تاریخ یعقوبی، ج ۱، ص ۲۲۶۔

اگرچہ کلمہ ”زندیق“ ملحد اور منکر خدا کے معنی میں استعمال ہوتا تھا لیکن صاحبانِ نظر کے عقیدے کے مطابق، دراصل ایک ایسا فرقہ تھا جو دینِ مانوی کی پیروی کرتا تھا اور پھر یہ کلمہ تمام مانویوں کے لئے بولا جانے لگا۔ اس رو سے کافر اور دھری اس میں شامل ہو گئے اسی وجہ سے قدیم حوالوں میں ”زندقہ“ سے مراد دینِ مانی ہے¹

اور دینِ مانوی عیسائیت اور یہودیت سے مل کر بنا ہے۔²

مورخین کے ایک گروہ نے وضاحت کی ہے کہ زندقہ کا قریش کے درمیان وجود تھا اور اس کو، انھوں نے اہل حیرہ سے اپنایا تھا۔³ اور اس دین کو حیرہ سے لینا اس بات کا ثبوت ہے کہ مراد ”دو گانہ پرستی“ ہے کیونکہ حیرہ، ایران کا پڑوسی اور اس کے زیر اثر تھا اور ادیانِ ایرانی جنکی بنیاد دو گانہ پرستی پر قائم تھی، وہاں تک پہنچ گئے تھے۔

ستاروں کی عبادت

زمانہ جاہلیت میں جزیرۃ العرب میں رہنے والوں کا ایک گروہ، بہت سارے دوسرے علاقہ کے لوگوں کی طرح اجرامِ آسمانی جیسے سورج، چاند اور بعض ستاروں کی عبادت کرتا تھا۔ اور انہیں بہت ہی طاقتور اور قوی شے سمجھتا تھا۔ جن کے ذریعہ دنیا اور دنیا والوں کے انجام کا پتہ چلتا تھا مثلاً

1 احمد امین، فجر الاسلام، ص ۱۰۸؛ داؤد الہامی، ایران و اسلام (قم: مرکز نشر جدید) ص ۳۹۲۔ بیرونی اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے بعد کہ مزدکیان زند کی پیروی کرنے کی وجہ سے زنداقہ کہے جاتے ہیں۔ لکھتا ہے: ”مانویان کو بھی مجازی طور سے زنداقہ کہتے ہیں۔ اور فرقہ باطنیہ کو بھی اسلام میں ایسے کہتے ہیں: کیونکہ یہ دو گروہ خداوند عالم کو بعض صفات سے متصف کرنے میں اور نیز ظواہر کی تاویل کرنے میں مزدکیہ کے مشابہ ہیں“ (الآثار الباقیہ، ترجمہ: اکبر دانا سرشت، ص ۳۱۲) عبد الحسین زرین کوب اس سلسلہ میں لکھتے ہیں: ”لفظ زندیق کہ جس کی اصل زندیک پہلوی ہے، جو آج کل تقریباً مسلم سمجھا جاتا ہے، اسلامی عہد میں اس سے قطع نظر کہ یہ مانوی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ تمام ایسے افراد جو ایک طرح سے شک والحاد اور بے اعتقادی میں مستم تھے ان کو بھی زندیق کہا جاتا ہے؛ (نہ شرقی نہ غربی، انسانی، ص ۱۱۰)۔

2 شہرستانی، گزشتہ حوالہ، ص ۲۴۴، ایک مستشرق کہتا ہے: اگر دینِ مانی کو ایسا زردشتی دین سمجھیں جس میں مسیحیت کی آمیزش ہوئی ہے تو یہ کلام حقیقت سے بہت قریب ہے بہ نسبت اس کے اسے ایسا عیسائی دین سمجھیں جس میں زردشت کی آمیزش ہوئی ہے۔ (احمد امین، فجر الاسلام، ص ۱۰۴) مانی اور اس کے دین کے بارے میں رجوع کریں: عبد الحسین زرین کوب، نہ شرقی نہ غربی، انسانی، ص ۷۶-۷۷۔

3 ابن قتیبہ، المعارف (قم: منشورات الرضی، ط ۱۳۱۵ھ، ق) ص ۶۲۱؛ الابشی، المستطرف فی کل فن مستطرف، ج ۲، ص ۸۸؛ ابن رستہ، الملاق النفسیہ، ترجمہ: حسین قرہ چالو، (تہران: امیر کبیر، ط ۱۳۶۵) ص ۲۶۴؛ احمد امین، فجر الاسلام، ص ۱۰۸؛ محمد بن حبیب بغدادی کے بقول، قریش سے صحیح بن حرب (ابوسفیان) عقبہ بن ابی معیط، ابی بن خلف، ابو عزمہ (عمر بن عبد اللہ جمحی) نصر بن حارث، نبیہ و منبہ (مجاج بن عامر سہمی کے لڑکے) عاص بن وائل سہمی، اور ولید بن مغیرہ مخزومی، اس گروہ میں تھے۔ (المسنق فی اخبار قریش) ص ۲۸۹-۲۸۸؛ الحمیر ص ۱۶۱، لیکن اسلام کے مقابلہ میں ان کا کوئی بھی کلام یا موقف اس مطلب کی تصدیق نہیں کرتا ہے، بلکہ شواہد و قرائن سے ان کی بت پرستی کا پتہ چلتا ہے۔ عبد الحسین زرین کوب، زندیق و زنداقہ کی بحث میں لکھتے ہیں: ”... لفظ زندقہ جیسا کہ ثعلب سے نقل کیا گیا ہے دہریہ کے لئے استعمال ہوتا تھا۔ دہریہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو حوادث اور امور عالم کو ایک صانع مختار کی طرف نسبت دینے کے منکر ہوئے ہیں قریش کے زنداقہ کے نام ابوسفیان، عقبہ بن معیط، نصر بن حارث، عاص بن وائل اور ولید بن مغیرہ بھی انھیں میں سے ہیں جو در حقیقت اس طرح کا عقیدہ رکھتے تھے۔ قریش کے بزرگوں اور اہم شخصیتوں کی خبروں اور ان کے اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ زندقہ ان کو کہا گیا ہے جو صانع عالم، حشر و حیات، عقبی کے عقیدہ کا انکار کرتے تھے۔ (نہ شرقی نہ غربی، انسانی، ص ۱۰۷)۔

قبیلہ خزاعہ اور حمیر، ستارہ ”شعری“^۱ کو جو کہ ایک ثابت اور درخشان ستارہ ہے اس کی پرستش کرتے تھے اور اسی طرح ابو کبشہ جو پیغمبر اسلام کے مادری اجداد میں سے تھے، وہ اس ستارہ کی پرستش کرنے والوں میں سے تھے۔^۱

قبیلہ طی کے کچھ لوگ ”ستارہ ثریا“ کی پرستش کیا کرتے تھے۔^۲ افلاک اور ستاروں کی پرستش کا مسئلہ اتنا رائج ہو گیا تھا کہ عرب کے افسانوں ادبیات اور خرافات میں اس کا ذکر ملتا ہے۔^۳

صائبین جو کہ سورج اور چاند کی پرستش کیا کرتے تھے ان کے علاوہ دوسرے تمام بت پرست بھی ان دو آسمانی موجود کو مقدس سمجھتے تھے۔^۴

قرآن مجید نے آسمانی اجرام کی پرستش کرنے سے منع فرمایا ہے اور اس کی پرستش کی مذمت کی ہے اور تاکید فرمائی ہے کہ یہ محدود موجودات، خود پروردگار عالم کی مخلوق اور اس کے فرمان اور ارادہ کے تابع ہیں اور بارگاہ پروردگار میں سجدہ ربز اور خاضع ہیں۔ اس وجہ سے وہ خداوند عالم کی جانب سے بشر کے لئے دلیل اور راہنما قرار دیئے گئے ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں اس کی قدرت اور علم کی نشانیاں ہیں۔ ”اور اسی نے تمہارے لئے رات اور دن اور آفتاب و ماہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں بیشک اس میں بھی صاحبان عقل کے لئے قدرت کی بہت ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں۔“^۵

اور اسی خدا کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور آفتاب و ماہتاب ہیں لہذا آفتاب و ماہتاب کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اگر واقعاً اس کے عبادت کرنے والے ہو۔^۶ اور وہی ستارہ شعری کا مالک ہے۔^۷

یہ آیات اس بات کی گواہ ہیں کہ بعثت پیغمبر اسلام کے زمانہ میں ان اجرام کی پرستش اور عبادت رائج تھی۔

جنات اور فرشتوں کی عبادت

اس بات سے قطع نظر کہ ہم نے سابق میں مختلف ادیان کے ماننے والوں کا تذکرہ کیا ہے، عرب میں ایسے گروہ بھی موجود تھے جو جن اور فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ عبد اللہ بن زبیری (جو کہ مکہ کا ایک سردار تھا) کہتا ہے ہم لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ یہودی، عزیز کی اور عیسائی عیسیٰ کی پرستش کرتے تھے، محمدؐ سے پوچھیں کیا ہم سب ان معبودوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے؟^۸

1 طباطبائی، تفسیر المیزان، ج ۱۹، ص ۴۹.

2 آلوسی، بلوغ الارب، ج ۲، ص ۲۴۰.

3 رجوع کریں: وہی حوالہ، ص ۲۱۵، ۲۲۰، ۲۳۰، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱

بنو بلخ جو قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ تھی وہ جن کی عبادت کرتے تھے¹، کہتے ہیں جن لوگوں نے سب سے پہلے جن کی پرستش کی وہ یمن کے لوگ تھے اس کے بعد قبیلہ بنی حنیفہ تھا اور پھر آہستہ آہستہ عربوں میں یہ بات رائج ہو گئی۔² بعض مفسرین کے کہنے کے مطابق ایک گروہ کا عقیدہ تھا کہ خداوند عالم نے جنات کے ساتھ شادی کی ہے اور فرشتے اس کی اولاد ہیں۔³

خداوند عالم نے قرآن مجید میں جن اور فرشتوں کی عبادت اور ان کے بارے میں غلط اعتقاد کی مذمت فرمائی ہے۔ اور ان لوگوں نے جنات کو خدا کا شریک بنادیا ہے حالانکہ خدا نے انہیں پیدا کیا ہے۔⁴ اور جس دن خدا سب کو جمع کرے گا اور پھر ملائکہ سے کہے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے۔ تو وہ عرض کریں گے کہ تو پاک و بے نیاز اور ہمارا ولی ہے یہ ہمارے کچھ نہیں ہیں اور یہ جنات کی عبادت کرتے تھے اور ان کی اکثریت انہیں پر ایمان رکھتی تھی۔⁵

یہ بالکل واضح ہے کہ یہ سوال، استفہامی پہلو رکھتا ہے اور اس سے مجہول کا پتہ نہیں چل سکتا ہے کیونکہ خداوند عالم تمام چیزوں سے واقف ہے بلکہ اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ حقائق فرشتوں کی زبان سے بیان ہوں تاکہ ان کی عبادت کرنے والوں کا سر جھکا رہے اور فرشتوں کے جواب سے بھی بات واضح ہوتی ہے کہ وہ اس بات سے راضی نہیں تھے کہ انسانوں کا ایک گروہ ان کی پرستش کرے۔ لیکن جنات اس بات سے راضی تھے۔

بہر حال ان دو ناقابل دید موجودات کی پرستش، شنوی آئین سے مشابہت رکھتی تھی کیونکہ وہ لوگ جنات کو باعث شر و اذیت اور فرشتوں کو سرچشمہ نور اور رحمت و برکت سمجھتے تھے بعض عرب رات کے وقت جب کسی درہ میں داخل ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ اس سرزمین کے احمقوں کے شر سے ان کے بزرگ اور رئیس سے پناہ مانگتا ہوں۔⁶ اور عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بات کہنے سے ان کا بڑا جن، احمقوں کے شر سے ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس بات کی تصدیق قرآن میں کلام خدا کے ذریعہ ہوئی ہے۔ ”اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے بعض لوگوں کی پناہ ڈھونڈ رہے تھے تو انھوں نے گرفتاری میں اور اضافہ کر لیا۔“⁷

شہر مکہ کی ابتداء

شہر مکہ کی تاریخ حضرت ابراہیم کے زمانے سے ملتی ہے کہ جب آپ حکم خدا سے اپنی زوجہ محترمہ ہاجرہ اور اپنے شیر خوار فرزند جناب اسماعیلؑ کو شام لیکر آئے اور انھیں ایک خشک اور بے آب و گیاہ سرزمین میں لاکر ٹھہرا دیا۔⁸ اور حکم و ارادۃ الہی سے آب زمزم ان دونوں کے لئے جاری

1 ہشام بن محمد کلبی، کتاب الاصابہ، ترجمہ: سید محمد رضا جلالی نائینی، تہران: ۱۳۴۸، ص ۴۲۔

2 طباطبائی، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۴۲۔

3 طبری، مجمع البیان، شرکت المعارف الاسلامیہ، ۱۳۷۹ھ، ج ۸، ص ۴۶۔

4 سورۃ النعام، آیت ۱۰۰۔

5 سورۃ سبا، آیت ۱۴-۱۵۔

۶ اعوذ بعزیز بذی الودادی من شر سفہاء قومہ (آلوسی، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۲۳۲)۔

۷ و ”انہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم ربقا“، سورۃ جن، ۷۲، آیت ۶

8 سورۃ ابراہیم، آیت ۳۷۔

ہوا¹ اس کے بعد جنوب کے قبائل میں سے قبیلہ جرہم (جو کہ قحطی اور خشک سالی کی بنا پر شمال کی جانب حرکت میں تھا) اس جگہ جا کر بس گیا۔² جناب اسماعیل جوان ہوئے اور جرہم قبیلہ کی لڑکی سے شادی کی۔³ جناب ابراہیم خدا کی جانب سے مامور ہوئے کہ اپنے فرزند اسماعیل کی مدد سے کعبہ کی بنیاد ڈالیں⁴ چنانچہ کعبہ کی تعمیر کے ساتھ شہر مکہ کا قیام عمل میں آیا اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ نسل اسماعیل وہاں بڑھنے لگی۔

دین ابراہیم کی باقی ماندہ تعلیمات

جناب عدنان، عرب عدنانی (عرب مکہ) کے جد اعلیٰ اور حضرت محمدؐ کے بیسویں جد، جناب اسماعیلؑ کی نسل سے تھے۔ اور حجاز، نجد، تہامہ میں رہنے والے عدنانی جناب اسماعیلؑ کی اولاد،⁵ میں سے تھے جو برسوں سے شریعت ابراہیمی کی پیروی کرتے تھے۔ یعقوبی کے کہنے کے مطابق :

قریش اور جناب عدنان کی ساری اولادیں دین ابراہیمی کے بعض احکام کی پابند تھیں وہ لوگ کعبہ کی زیارت کیا کرتے تھے، حج کے اعمال بجالاتے تھے، مہمان نواز تھے، حرام مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ برے کاموں سے پرہیز اور ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق اور ظلم کو برا سمجھتے تھے اور بدکاروں کو سزا دیتے تھے۔⁶

سنت ابراہیمی اور ان کی بچی ہوئی تعلیمات جیسے خدا پر اعتقاد، محارم کے ساتھ شادی کی حرمت، حج و عمرہ اور قربانی کے اعمال، غسل جنابت⁷ ختنہ، میت کی تکفین و تدفین⁸ وغیرہ ظہور اسلام کے زمانہ تک اسی طرح ان کے درمیان رائج تھیں اور جسم کی نظافت اور زائد بالوں کے کاٹنے وغیرہ کے بارے میں موجودہ دس سنتوں کے وہ پابند تھے۔⁹ اسی طرح وہ چار مہینوں کا تقدس و احترام جو سنت ابراہیمی¹⁰ میں پایا جاتا تھا اس کا بھی وہ عقیدہ رکھتے تھے اور اگر ان کے درمیان کسی وجہ سے کوئی جنگ یا خون خرابہ، ان مہینوں میں واقع ہو جاتا تھا تو اسے ”جنگ فجار“

1 ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، (قاہرہ: مطبعۃ مصطفیٰ البابی الحلبي، ۱۳۵۵ھ۔ ق)، ج ۱، ص ۵۵ و ۱۱۶؛ ازرقی، تاریخ مکہ، تحقیق: رشدی الصالح المحس (قم: منشورات الرضی، ۱۳۶۹)، ج ۱، ص ۵۵؛ تاریخ یعقوبی (نجف: المکتبۃ الحیدریہ، ۱۳۳۸ھ۔ ق)، ج ۱، ص ۱۸؛ ابن رستہ، الاعلاق النغسیہ، ترجمہ: حسین قرہ چالو (تہران: امیر کبیر، ۱۳۶۵)، ص ۵۱۔

2 ازرقی، مگزشتہ حوالہ، ص ۵۷؛ مسعودی، مروج الذهب (بیروت: دارالاندلس، ۱۹۶۵)، ج ۲، ص ۲۰۔

3 تاریخ یعقوبی، ج ۱، ص ۱۹؛ ازرقی، مگزشتہ حوالہ، ص ۵۷۔

4 سورۃ بقرہ، ۲، آیت ۱۷۲۔

5 ایک تفسیر کی بنیاد پر سورۃ حج کی ۷۹ ویں آیت ”ملئناکم ابراہیم“ میں اسی مطلب کی طرف اشارہ ہوا ہے (طبری، مجمع البیان، ج ۷، ص ۹۷)۔

6 تاریخ یعقوبی، ج ۱، ص ۲۲۴۔

7 مجلسی، بحار الانوار، (تہران: دارالکتب الاسلامیہ)، ج ۱۵، ص ۱۷۰؛ ہشام کلبی، الاصاب، ص ۶۔

8 شیخ حرعالمی، وسائل الشیعہ (بیروت: دار احیاء التراث العربی، ط ۴)، ج ۱، کتاب الطہارۃ، ابواب الجنابہ حدیث ۱۴، ص ۳۶۵؛ طبری، احتجاج (نجف: المطبعۃ المرتضویہ، ۱۳۵۰ھ۔ ق)، ص ۱۸۹۔

9 شہرستانی، الملل والنحل (قم: منشورات الرضی)، ج ۲، ص ۲۵۷۔

10 طباطبائی، المیزان (بیروت: موسسۃ العلمی للطبوعات)، ج ۹، ص ۲۷۲۔

(ناروا اور گناہ آلود جنگ) کہا کرتے تھے۔¹ اسی وجہ سے آئین توحید اس علاقہ کے عربوں کے درمیان بہت زمانہ سے پایا جاتا تھا اور بت پرستی بعد میں وہاں پر آئی ہے جو ان کے دین توحیدی سے منحرف ہونے کا باعث بنی۔

عربوں کے درمیان بت پرستی کا آغاز

مختلف دستاویزات اور شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ عربوں کے درمیان بت پرستی کے نفوذ کا اصلی سرچشمہ اور ان کے درمیان بت پرستی کے آغاز کے دو سبب تھے۔

الف: عمرو بن لُحی (قبیلہ خزاعہ کا سردار) نام کا ایک شخص، جو کہ اپنے زمانہ میں مکہ میں بہت زیادہ با اثر و قدرت مند اور کعبہ کا متولی تھا۔² شام گیا اور وہاں پر عمالقہ³ کے ایک گروہ سے اس کی ملاقات ہوئی جو بت پرست تھے۔ جب اس نے ان لوگوں سے بت پرست ہونے کی وجہ دریافت کی تو ان لوگوں نے کہا: یہ ہمارے لئے بارش نازل کرتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں۔ اس نے ان لوگوں سے ایک بت مانگا تو ان لوگوں نے اسے ”ہبل“ بت دیا اور وہ اسے لیکر مکہ آیا اور کعبہ میں نصب کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ اس کی عبادت کریں۔⁴

اس کے علاوہ دو بت ”اساف“⁵ اور ”نانہ“ کو بھی اس نے کعبہ کے پہلو میں رکھ دیا اور لوگوں کو ان کی پرستش کے لئے ابھارا اور ورغلا یا⁶ اور اس طرح سے عرب میں بت پرستی کی بنیاد پڑی۔

1 شہرستانی، گزشتہ حوالہ، ص ۲۵۵؛ تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۲۔

2 ازرقی، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۸۸؛ ۱۰۰؛ ۱۰۱؛ محمود آلوسی، بلوغ الارب فی معرفۃ احوال العرب (قاہرہ: دار الکتب الحدیثہ، ط ۳)، ج ۲، ص ۲۰۰؛ علی بن برہان الدین الحلبي، السیرۃ الحلبيہ (بیروت: دار المعرفہ)، ج ۱، ص ۱۶۔

3 عمالقہ، جناب نوح کے لڑکوں کا ایک گروہ تھا ان کے جد عملاق یا عملیق کی مناسبت سے ان کا نام عمالقہ پڑا۔ (ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۱، ص ۸ اور ۷۹؛ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ج ۲، ص ۱۸۸؛ علی ابن برہان الدین الحلبي، السیرۃ الحلبيہ، ج ۱، ص ۱۷۔

4 آلوسی، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۲۰۱؛ شہرستانی، گزشتہ حوالہ، ص ۱۷؛ تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۲۲۲؛ شہاب الدین الابشی، المستطرف (بیروت: دار احیاء التراث العربی)، ج ۲، ص ۸۸؛ مسعودی، مروج الذهب (بیروت: دار الاندلس، ط ۱)، ج ۲، ص ۲۹؛ ہشام کلبي، الاصابہ، ترجمہ: سید محمد رضا جلالی نایینی، ۱۳۴۸ھ، ص ۷؛ محمد بن حبیب، السمنق فی اخبار قریش، تحقیق: خورشید احمد فارق (بیروت: عالم الکتب، ط ۱، ۱۴۰۵ھ، ق)، ص ۳۲۸۔ بعض منابع میں آیا ہے کہ وہ ”ہبل“ کو عراق سے لایا تھا۔ (ازرقی، اخبار مکہ، ج ۱، ص ۱۱۷؛ ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۱، ص ۷۹؛ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ج ۲، ص ۱۸۸۔ لیکن ایک روایت کے مطابق، ہبل بت کا پتھر ”مازین“ (عرفات و مشعر کے درمیان ایک گزرگاہ ہے) سے لیا گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلامؐ اس جگہ سے گزرتے تھے تو اظہار نفرت کرتے تھے (محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعہ، بیروت: دار احیاء التراث الاسلامی، ج ۱۰، کتاب الحج، باب استحباب التکبیر بین المازین) ص ۳۶، حدیث ۱)

5 اساف کو ہمزہ کے زیر اور زیر دونوں طرح سے لکھا گیا ہے۔ (ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۸۴۔

6 ازرقی، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۸۸؛ شہرستانی، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۲۴۳ اور ۳۴۔

پیغمبر اسلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: عمرو بن لہ پہلا وہ شخص تھا جس نے دین اسماعیل میں تحریف کی اور بت پرستی کی بنیاد ڈالی۔ اور میں نے اسکو آتش جہنم میں دیکھا ہے۔¹

ب: جب جناب اسماعیل کی نسل مکہ میں کافی بڑھ گئی تو وہ لوگ مجبور ہو کر ذریعہ معاش کی تلاش میں دوسرے شہروں اور علاقوں کی طرف کوچ کر گئے۔ اور چونکہ انھیں مکہ اور حرم سے بہت لگاؤ اور محبت تھی لہذا کوچ کرتے وقت ان میں سے ہر ایک نشانی اور یادگار کے طور پر حرم کا ایک پتھر اپنے ساتھ لے گیا اور جہاں پر جا کر وہ بسے اس کو ایک گوشہ میں رکھ کر (کعبہ کے گرد طواف کے مانند) اس کے گرد طواف کرتے تھے۔ اور آہستہ آہستہ وہ اپنے اصلی جذبہ اور لگاؤ اور ہدف کو بھولتے گئے اور سارے پتھر ایک بت کی شکل میں تبدیل ہو گئے اور پھر نوبت یہ آگئی کہ جس پتھر کو وہ پسند کرتے تھے اسی کی پرستش کرنے لگتے تھے اور اس طرح وہ اپنے سابقہ آئین کو بھول گئے۔²

البتہ اس علاقہ میں بت پرستی کے نفوذ کے لئے یہ دونوں اسباب نقطہ آغاز قرار پائے ہیں ورنہ دوسرے عوامل جیسے جہل، حس گرائی (جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا خدا ملموس اور محسوس (مادی) ہو۔³ قبیلہ جاتی اختلافات اور کشمکش، (ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اپنی لئے ایک الگ بت قرار دے) قبائل کے رئیسوں اور بزرگوں کی جاہ طلبی (وہ چاہتے تھے کہ عوام اسی طرح جہالت اور گمراہی میں پڑی رہے تاکہ وہ اچھی طرح سے حکمرانی کر سکیں) اور آخر کار گزشتہ لوگوں کی اندھی تقلید اس کی ترویج میں معاون ثابت ہوئی اور آہستہ آہستہ بت پرستی کی مختلف صورتیں اور عبادت کے مختلف طریقے، نذر و نیاز اور ان سے استمداد کے بے شمار طریقے انجام پانے لگے⁴ اور بتوں کی تعداد میں اس طرح سے اضافہ ہونے لگا کہ ہر گھر میں ایک بت پایا جانے لگا۔⁵ جس سے وہ سفر کے موقع پر برکت حاصل کرتے تھے اور اسے مس کرتے تھے فتح مکہ کے موقع پر ۳۶۰ بت اس شہر میں موجود تھے۔⁶

1 ابن ہشام غزشتہ حوالہ، ص ۷۹؛ علی بن برہان الدین غزشتہ حوالہ، ص ۱۷؛ ابن عبد البر، الاستیعاب، (در حاشیہ الاصابہ)، ج ۱، ص ۱۲۰، شرح حال اکثم بن جون خزاعی؛ ابن اشیر، اسد الغابۃ (تہران: المکتبۃ الاسلامیہ)، ج ۳، ص ۳۹۰؛ شیخ محمد تقی التستری، الاوائل، ط ۱، ص ۲۱۷؛ ابی الفداء اسماعیل بن کثیر، السیرۃ النبویہ (قاہرہ: مطبعۃ عیسیٰ البابائی الحلبی، ۱۳۸۴ھ، ق)، ج ۱، ص ۶۵؛ ازرقی غزشتہ حوالہ، ص ۱۱۶۔

2 آلوسی غزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۲۲۰؛ المستطرف، ج ۲، ص ۸۸؛ ابی الفداء اسماعیل بن کثیر، السیرۃ النبویہ، ج ۱، ص ۶۲؛ البدایہ والنہایہ (بیروت: مکتبۃ المعارف)، ج ۲، ص ۱۸۸؛ ابن ہشام غزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۷۹؛ طباطبائی، المیزان، ج ۱۰، ص ۲۸۶۔

3 طباطبائی، المیزان، ج ۱۰، ص ۲۸۶۔

4 سورۃ النعام، آیت ۱۳۸، ۱۳۹؛ سورۃ مائدہ، آیت ۳، ۹۰، ۱۰۳؛ ہشام کلبی، الاصابہ، ص ۲۸۔

5 کلبی غزشتہ حوالہ، ص ۳۲۔

6 شیخ طوسی، الامالی، (قم: دارالثقافہ، ط ۱، ۱۴۱۴ھ، ق)، ص ۳۳۶؛ آلوسی، بلوغ الارباب، ج ۲، ص ۲۱۱؛ ازرقی غزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۲۱؛ السیرۃ الحلبیہ، ج ۳، ص ۳۰؛ رجوع کریں: المیزان، ج ۲۶۔ امام رضا کی ایک روایت کی مطابق۔

کیا بت پرست، خدا کے قائل تھے؟

بت پرست ”اللہ“ کے منکر نہیں تھے اور جیسا کہ قرآن نے نقل کیا ہے کہ یہ لوگ بھی خدا کو، زمین و آسمان اور اس جہان کا خالق سمجھتے ہیں۔¹ لیکن یہ دو بڑی خطاؤں کے مرتکب ہو گئے تھے جو ان کی گمراہی کی اصلی جڑ تھی۔

۱۔ اللہ اور اس کی صفات کے بارے میں غلط شناخت؛ وہ لوگ خدا کے بارے میں مبہم اور گنگ ذہنیت رکھتے تھے۔ اور اس بات کی شہادت اس سے ملتی ہے کہ وہ خدا کے لئے بیوی اور بچوں کے قائل تھے۔ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں تصور کرتے تھے یعنی خدا کے لئے انسان اور دوسرے جانداروں کی طرح جسم اور مادہ اور زاد و ولد کے قائل تھے۔ خداوند عالم نے ان کے غلط خیال کی متعدد آیات میں مذمت فرمائی ہے: ”اور ان لوگوں نے ان ملائکہ کو جو رحمان کے بندے ہیں لڑکی قرار دیدیا ہے کیا یہ ان کی خلقت کے گواہ ہیں تو عنقریب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور پھر اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔“²

”بیشک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ ملائکہ کے نام لڑکیوں جیسے رکھتے ہیں۔“³

”اور مشرکوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ نے کسی کو اپنا فرزند بنالیا ہے حالانکہ وہ اس امر سے پاک و پاکیزہ ہے بلکہ وہ سب اس کے محترم بندے ہیں۔“⁴

اس کے لئے بغیر جانے بوجھے بیٹے اور بیٹیاں بھی تیار کر دی ہیں۔ جب کہ وہ بے نیاز اور ان کے بیان کردہ اوصاف سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے۔

وہ زمین و آسمان کا ایجاد کرنے والا ہے۔ اس کے اولاد کس طرح ہو سکتی ہے اس کی تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے اور وہ ہر شے کا خالق ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔“⁵

”اور ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے نہ بیٹا۔“⁶

1 اگر ان سے پوچھئے: کہ کس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا ہے؟ تو یقیناً وہ کہیں گے خدا نے (سورہ لقمان، آیت ۲۵، سورہ زمر، آیت ۳۸، زخرف، آیت ۹، اور اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ خود ان کا خالق کون ہے تو کہیں گے کہ اللہ (زخرف، آیت ۸۷، پیغمبر ذرا ان سے پوچھئے کہ تمہیں زمین و آسمان سے کون رزق دیتا ہے اور کون تمہاری سماعت و بصارت کا مالک ہے اور کون مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ نکالتا ہے اور کون سارے امور کی تدبیر کرتا ہے تو یہ سب یہی کہیں گے کہ اللہ! (یونس آیت ۳۱)

2 سورہ زخرف، آیت ۱۹.

3 سورہ نجم، آیت ۲۷.

4 سورہ انبیاء، آیت ۲۶.

5 سورہ النعام، آیت ۱۰۱-۱۰۰.

6 سورہ جن، آیت ۳.

اس کے علاوہ خداوند عالم نے متعدد آیات میں مشرکوں کی مذمت فرمائی ہے کہ چونکہ وہ لڑکیوں کو برا سمجھتے تھے لہذا اسے خدا کی جانب منسوب کرتے تھے اور لڑکوں کو اچھا سمجھتے تھے لہذا اسے اپنی طرف منسوب کرتے تھے۔

کیا خدا کے لئے لڑکیاں اور تمہارے لئے لڑکے ہیں!۔¹

”پھر اے پیغمبر! ان کفار سے پوچھئے کہ کیا تمہارے پروردگار کے لئے لڑکیاں ہیں اور تمہارے لئے لڑکے ہیں؟ یا ہم نے ملائکہ کو لڑکیوں کی شکل میں پیدا کیا ہے اور یہ اس کے گواہ ہیں؟“۔²

”کیا تم لوگوں نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے اور منات جو ان کا تیسرا ہے اسے بھی دیکھا ہے تو کیا تمہارے لئے لڑکے ہیں اور اس کے لئے لڑکیاں ہیں یہ انتہائی ناانصافی کی تقسم ہے یہ سب وہ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے طے کر لئے ہیں۔“³

”سچ بتاؤ کیا خدا نے اپنی تمام مخلوقات میں سے اپنے لئے لڑکیوں کو منتخب کیا ہے اور تمہارے لئے لڑکوں کو پسند کیا ہے؟“۔⁴

”اور انھوں نے خدا اور جنات کے درمیان بھی رشتہ قرار دیدیا حالانکہ جنات کو معلوم ہے کہ انھیں بھی خدا کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا خدا ان سب کے بیانات سے بلند و برتر اور پاک و پاکیزہ ہے۔“⁵

ایک تفسیر کی بنا پر خداوند عالم کی جن سے نسبت اور رشتہ داری اس بنا پر تھی کہ وہ خیال کرتے تھے کہ خدا نے جنات کے ساتھ شادی کر رکھی ہے اور فرشتے (اس شادی کا نتیجہ اور ثمرہ ہیں) اس کی اولاد ہیں۔⁶

۲۔ یہ بتوں کو چھوٹا خدا اور اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بتاتے ہیں اور ان کی عبادت کو خدا کی بارگاہ میں قرب اور رضایت کا باعث سمجھتے تھے۔ جبکہ عبادت صرف اللہ سے مخصوص ہے۔

دوسری طرف سے اگرچہ بتوں کو دنیا کا ”خالق“ نہیں سمجھتے تھے لیکن ان کے لئے ایک قسم کی ربوبیت اور عالم ہونے کے مرتبہ کے قائل تھے اور ان کو دنیا کے امور کی تدبیر میں اور انسان کے تقدیر میں موثر جانتے تھے اور اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے دور ہونے کے لئے ان سے

1 سورہ طور، آیت ۳۹۔

2 سورہ صافات، آیت ۱۵۰-۱۴۹۔

3 سورہ نجم، آیت ۲۳-۱۹؛ لات، عزیٰ اور منات تین بتوں کے نام تھے جن کو گویا وہ فرشتوں کا روپ سمجھتے تھے چونکہ تینوں نام مونث ہیں (رجوع کریں: تفسیر نمونہ، ج ۲۲، ص ۵۱۸)

4 سورہ زخرف، آیت ۱۶۔

5 سورہ صافات، آیت ۱۵۹-۱۵۸۔

6 سیوطی، الدر المنثور، ج ۷، ص ۱۳۳؛ ابن کثیر، تفسیر، ج ۴، ص ۲۳؛ طبرسی، مجمع البیان، ج ۸، ص ۴۶۰۔

مدد مانگتے تھے۔ جبکہ اسلام کی نظر میں جس طرح دنیا کا خالق ”اللہ“ ہے اور امور دنیا کی تدبیر (توحید افعالی) بھی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے¹ اور بت، بے جان اور ناقابل فہم و ارادہ موجودات ہیں۔

قرآن مجید ان کے بے بنیاد خیالات کو نقل کر کے، اس طرح ان کی مذمت کرتا ہے:

”اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہیں جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ اور یہ لوگ کہتے ہیں: یہ خدا کے یہاں ہماری سفارش کرنے والے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ خدا کو اس بات کی اطلاع دے رہے ہو جس کا علم اسے آسمان و زمین میں کہیں نہیں ہے وہ پاک و پاکیزہ ہے اور ان کے شرک سے بلند و برتر ہے۔“²

”آگاہ ہو جاؤ کہ خالص بندگی صرف اللہ کے لئے ہے اور جن لوگوں نے اس کے علاوہ سرپرست بنائے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم ان کی پرستش صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ اللہ ان کے درمیان تمام اختلافی مسائل میں فیصلہ کر دے گا کہ اللہ کسی بھی جھوٹے اور ناشکری کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔“³

”خدائے یکتا کے بجائے انھوں نے دوسرے خداؤں کو اختیار کر لیا تاکہ ان کی عزت کا سبب بنے۔“⁴

”اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنائے ہیں کہ شاید ان کی مدد کی جائے۔“⁵

اسی بنا پر بت پرست، عبادت اور امور عالم کی تدبیر میں بتوں کو خدا کا شریک قرار دیتے ہیں اور قرآن مجید ان کو ”مشرک“ قرار دیتا ہے۔

پریشان کن مذہبی صورت حال

بہر حال ظہور اسلام کے وقت، بت پرستی وسیع پیمانے پر اپنی تمام صورتوں اور پہلوؤں کے ساتھ حقیقت کے چرے کو مسخ کر چکی تھی۔ اور دینی لحاظ سے مشرکین کی بہت بری حالت ہو چکی تھی ایک طرف سے بت پرست بت پرستی اور اس کے رسومات کے سختی سے پابند تھے اور دین ابراہیم کی بچی ہوئی تعلیمات جیسے حج، عمرہ اور قربانی کو ناقص، تحریف شدہ، خرافات اور شرک آمیز باتوں سے آمیختہ شکل میں انجام دیتے تھے مثلاً کعبہ کی تعظیم کے ساتھ دوسری بھی عبادت گاہیں بنا رکھی تھیں کہ جہاں کعبہ کی طرح طواف کرتے تھے اور ان کے لئے ہدیہ بھیجتے تھے

۱ ”و قل الحمد لله الذی لم یخذلوا ولم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیراً۔“ (سورہ اسراء، آیت ۱۱۱)، ”قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذلل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدير۔“ (آل عمران، آیت ۲۶)

۲ سورہ یونس، (۱۰) آیت ۱۸ ”و یَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَ لَا يَضُرُّهُمْ وَ یَقُولُونَ بُلْءٌ عَلَيْنَا مِنْ اللَّهِ قُلْ أَتَنْتَبَهُونَ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَ لَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ“

۳ سورہ زمر، (۳۹) ”(الْأَلَلِیْلَةُ الدِّیْنِ الْخَالِصُ) وَ الَّذِیْنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ یَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِی مَا بُم فِیهِ یَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی مَنْ کَاذِبٌ كَفَّارٌ“ آیت ۳۔

۴ سورہ مریم، (۱۹) ”وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَیَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا“ آیت ۸۱۔

۵ سورہ یس، (۳۶) ”وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ یُبْصِرُونَ“ آیت ۷۴۔

اور وہاں پر قربانی کرتے تھے۔^۱ کعبہ کے پاس ان کی نمازیں صرف شور و غل اور تالی بجا کر ہوتی تھیں۔^۲ قبیلہ قریش والے احرام حج اور ”لبیک“ کہتے وقت خدا کے نام کے ساتھ بتوں کا نام لیتے تھے۔^۳

اور اس طرح سے حج ابراہیمی کو جو کہ توحید کا عالی ترین نمونہ ہے شرک سے آلودہ کرتے تھے۔ دو قبیلے اوس اور خزرج، حج کے اعمال انجام دینے کے بعد، منیٰ میں جا کر سر منڈوانے کے بجائے اپنے شہر (یثرب) کی جانب ”بت منات“ (جو کہ مکہ کے راستے میں دریا کے کنارے پر واقع ہے) کے پاس سر منڈاتے تھے۔^۴ مشرکین (خواہ مرد ہوں یا عورت) کعبہ کا برہنہ طواف کرتے تھے۔^۵ ظاہر ہے کہ کعبہ کے پاس لوگوں کے سامنے اس طرح کے اعمال کا کتنا برا منظر رہتا رہا ہوگا۔

قریش اپنے بتوں کو کعبہ کے پاس رکھتے تھے اور اسے مشک و عنبر سے معطر کرتے تھے اور ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے پھر اس کے چاروں طرف جمع ہو کر لبیک کہتے تھے۔^۷

گرچہ وہ ظاہری طور پر چار مہینوں کی حرمت کا خیال کرتے تھے لیکن اپنے کو اس حکم سے آزاد رکھنے کے لئے ان مہینوں کے نام اور ظاہری لحاظ سے ان کو تبدیل کر کے حرام مہینوں کو بعد میں کر دیتے تھے۔^۸

ظہور اسلام کی روشنی میں بنیادی تبدیلی

ظہور اسلام اور روز بروز اس کے فروغ کے ساتھ اہل حجاز کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں گہری اور وسیع پیمانہ پر تبدیلی رونما ہوئی۔ اور ایک مکمل انقلاب اور تبدیلی پیدا ہوئی۔ اور آہستہ آہستہ اس کے اثرات جزیرۃ العرب کے چاروں طرف پھیل گئے۔

پیغمبر اسلامؐ نے اپنی مسلسل اور پیہم جنگ کے ذریعہ اس بت پرستی کو جو ان کی تمام بد بختیوں کی جڑ تھی، اکھاڑ پھینکا اور نظام توحید کو اس کی جگہ پر پیش کیا اور قبائلی اور قومی نظام نیز غلط رسم و رواج کو ختم کر دیا اور قومی عصبيت کو مٹا کر اس کی جگہ پر حق و عدل کی تعلیم دی۔ جذبہ انتقام اور قبائلی قتل و غارت کو صلح و آشتی میں بدل دیا اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ عورت کو قید و بد بختی سے نجات دلائی اور اسے سماج میں بلند مقام عطا کیا۔ اور جاہل عوام سے آگاہ امتی بنا دیا۔

۱ ابی الفداء اسماعیل بن کثیر، السیرۃ النبویہ (قاہرہ: مطبعة عیسیٰ البابی الحلبي، ۱۳۸۴ھ-ق)، ج ۱، ص ۷؛ ابن بشام، السیرۃ النبویہ، (قاہرہ: مطبعة مصطفى البابی الحلبي، ۱۳۵۵ھ-ق)، ج ۱، ص ۸۵۔

۲ سورۃ انفال، آیت ۳۵۔

۳ لبیک اللہم لبیک، لاشریک لک لبیک الا شریک ہو لک تملک و ما ملک۔ (ابن بشام، گزشتہ حوالہ، ص ۸۰؛ ابن کثیر، گزشتہ حوالہ، ص ۶۳؛ شہرستانی، الملل و النحل، ج ۲، ص ۲۴۷؛ ابن کثیر البدایہ والنہایہ، ج ۲، ص ۸۸)

۴ بشام کلبي، الاصلان، ترجمہ: سید محمد رضا جلالی نایینی، ۱۳۴۸، ص ۱۳؛ ابن بشام، السیرۃ النبویہ، ج ۱، ص ۸۸؛ آلوسی ۷ بلوغ الارب، ج ۲، ص ۲۰۲۔

۵ بشام کلبي، گزشتہ حوالہ، ص ۱۴۔

۶ ازرقی، اخبار مکہ، ج ۱، ص ۱۷۸ اور ۱۸۲؛ آلوسی، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۴۴؛ صحیح مسلم بشرح النووی، ج ۱۸، کتاب التفسیر، ص ۱۶۲۔

۷ طباطبائی، تفسیر المیزان، ج ۱۴، ص ۴۱۴۔

۸ سورۃ توبہ، ۹، آیت ۳۷؛ ازرقی، اخبار مکہ، ج ۱، ص ۱۸۳؛ ابن بشام، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۴۵۔

قبائلی نظام کے بدلے، امت اور امامت کا نظام قائم کیا اور عرب کے بکھرے اور پراگندہ قبائل کو ”ایک امتی“ بنادیا۔ ان کو قبائلی زندگی کے تنگ دائرہ سے نکال کر عالمی نظام کی طرف راہنمائی فرمائی۔ اور اسلام کی روشنی میں قوم عرب کو ایسی عظمت و طاقت بخشی کہ دو عظیم حکومتوں کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا اور یہ بات اتنی واضح اور روشن تھی کہ غیر مسلم مصنفوں اور دانشوروں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ بطور نمونہ ان میں سے تین لوگوں کے خیالات یہاں پر پیش کر رہے ہیں :

ڈاکٹر گوستاند لوبون فرانسوی کہتا ہے: ”پیغمبر اسلام کا ایک عظیم معجزہ یہ تھا کہ انھوں نے اپنی وفات سے قبل عرب کے پراگندہ قافلے کو ایک جگہ جمع کر دیا اور اس سرگرداں اور پریشان کاروان سے، ایک ملت کی تشکیل دی اور اس طرح سب کو ایک دین کے سامنے تسلیم کے ساتھ ایک پیشوا اور رہبر کا مطیع اور فرمانبردار بنادیا۔۔۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت محمدؐ نے اپنی زحماتوں سے ایسے نتائج حاصل کئے کہ اسلام سے قبل کوئی بھی دین خواہ وہ یہودیت ہو یا عیسائیت کسی نے ایسے نتائج نہیں حاصل کئے۔ اور اسی وجہ سے آنحضرتؐ کا عربوں کی گردن پر بہت بڑا حق ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ کسی ذات کی قدر و اہمیت کا اندازہ اس کے کردار اور نیک آثار کے ذریعہ لگائیں تو قطعی اور مسلم طور سے حضرت محمدؐ سب سے عظیم مرد تاریخ قرار پائیں گے۔ ہم اس عظیم دین کو جسے آپ لیکر آئے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی، اس کے ماننے والوں کے لئے خدا کی جانب سے عظیم نعت سمجھتے ہیں۔¹

توماس کارلائل انگریز کہتا ہے: خداوند عالم نے عرب کو اسلام کے ذریعہ، تاریکی سے اجالے اور روشنی کی طرف ہدایت فرمائی اور اس کی روشنی میں عرب کی خاموش قوم کو اس مردہ سرزمین پر زندہ کر دیا، جبکہ عرب آغاز خلقت سے بے نام و نشان صحراؤں میں، تہی دست تھے جو دیہاتوں میں زندگی بسر کرتے تھے نہ ان کی آواز سنائی پڑتی ہے اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی حرکت اور جنبش نظر آتی ہے۔ خداوند عالم نے جس وقت ایک پیغمبر کو نوروحی اور رسالت کے ساتھ ان کی ہدایت کے لئے بھیجا تو ان کی گمنامی کو شہرت میں اور ان کی حیرت اور سرگردانی کو بیداری میں اور ان کی پستی و حقارت کو سر بلندی میں اور عاجزی و ناتوانی کو قدرت مندی میں تبدیل کر دیا۔ اس کا نور جہاں چمکا اس کی روشنی سے وہاں کی جگہ منور ہو گئی اور اس کی ہدایت کی روشنی دنیا کے مشرق و مغرب اور شمال و جنوب تمام سمتوں میں اس طرح پھیل گئی کہ ظہور اسلام کو ایک صدی بھی نہیں گزری تھی کہ اسلامی حکومت نے اپنا ایک قدم ہندوستان اور دوسرا قدم اسپین میں رکھ دیا۔²

ویل ڈورانٹ لکھتا ہے: اس وقت کسی نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا کہ ایک صدی بعد، یہ خانہ بدوش حکومت روم کے ماتحت رہنے والے علاقے نصف ایشیا، پورے ایران، مصر اور شمال افریقا کا زیادہ تر علاقہ فتح کر کے، اسپین کی طرف بڑھ جائیں گے۔ سچ ہے کہ یہ تاریخی سورج جو عربستان سے طلوع ہوا تھا اس کے ذریعہ عرب مڈیٹیرانہ کے نصف علاقے پر مسلط ہو گئے اور دین اسلام کو وہاں پر پھیلانا، قرون وسطی کے حیرت انگیز اجتماعی واقعات میں سے ہے۔³

1 تمدن اسلام اور غرب ترجمہ: سید ہاشم رسولی (تہران: کتابفروشی اسلامی) ص ۱۳۰-۱۲۸.

2 الابطل، عربی ترجمہ: محمد السباعی کے قلم سے (قاہرہ: ط ۳۹، ۱۳۴۹ھ، ق) ۹.

3 ویل ڈورانٹ، تاریخ تمدن، ج ۴، عصر ایمان، (بخش اول) ترجمہ: ابوطالب صامی (تہران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ط ۲، ۱۳۶۸، ص ۱۹۷.

شہر مکہ کی توسیع اور مرکزیت

پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ جزیرۃ العرب کے زیادہ تر لوگ زمانہ جاہلیت میں بادیہ نشین اور صحرا نورد ہوتے تھے۔ کیونکہ شہر نشینی حجاز کے علاقہ میں زیادہ رائج نہیں تھی اس علاقہ میں آبادیوں کے لحاظ سے جسے شہر کہا جاتا تھا درحقیقت وہ چھوٹے شہر ہوا کرتے تھے۔ جس میں زیادہ آبادی نہیں ہوا کرتی تھی۔ بعض معاصر مورخین اس علاقہ کے شہر نشینوں کی آبادی کو ۱۸۶^۱ اور بعض دوسرے مورخین پوری آبادی کا ۱۷ فیصد^۲ حصہ سمجھتے تھے۔ اس محاسبہ کا اصول واضح نہیں ہے لیکن یہ بات مسلم ہے کہ شہر نشینوں کی آبادی کا تناسب فیصد کے لحاظ سے بہت کم ہوا کرتا تھا۔ ان میں سے صرف شہر مکہ میں جو حجاز کے جنوبی علاقہ (بحر احمر سے تقریباً ۸۳... کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے) میں ایک اہم شہر تھا، ظہور اسلام سے چند صدی قبل اس میں توسیع ہوئی اور آہستہ آہستہ وہاں بہت سارے لوگ آکر بس گئے۔

مکہ کی توسیع کے دو اسباب تھے :

الف : تجارتی مرکز : چونکہ شہر مکہ ایک خشک و بے آب و گیاہ اور سنگلاخ علاقہ میں واقع ہے لہذا زراعت یا کارخانے اور فیکٹریوں کے لگانے کے امکانات اور وسائل وہاں مہیا نہیں تھے وہاں کے لوگ قدیم زمانے سے مجبور تھے کہ اپنی زندگی، تجارت کے ذریعہ چلائیں۔ لیکن ان کی تجارت صرف مکہ تک محدود تھی۔^۳

عرب کے علاوہ دوسرے تاجر اپنے مال کو مکہ میں لا کر بیچتے تھے۔ تجارتی مال شہر کے تاجروں کے ذریعہ خریدا جاتا تھا اور پھر شہر میں بیچا جاتا تھا۔^۴ یا جزیرۃ العرب کے اندر فصلی بازار میں لیجا کر وہ بیچتے تھے۔ یہاں تک کہ جناب ہاشم (پیغمبر اسلام کے دوسرے جد) نے امیر شام (جو کہ حکومت روم کا پٹھو تھا) کے ساتھ ایک پیمانہ باندھا، تاکہ مکہ کے تجارت آزادی کے ساتھ اس ملک سے آمد و رفت کر سکیں۔^۵

اس کے علاوہ انھوں نے ایسے قبائل سے پیمانہ باندھا جو شام کے راستے میں واقع تھے تاکہ مکہ کے تجارتی قافلوں سے تعرض نہ کریں^۶ اور ان سے عہد کیا کہ ان کی اشیاء تجارتی بغیر کرایہ لئے ہوئے تجارت مکہ کے توسط سے محل تجارت تک پہنچائی جائیں گی۔^۷ اور آپ کے بھائیوں (عبد الشمس، نوفل اور مطلب) نے بھی اسی طرح کے عہد و پیمانے، حاکم حبشہ، شہنشاہ ایران^۸ اور شہنشاہ یمن^۹ کے ساتھ کئے۔

1 ویل ڈورانٹ، گزشتہ حوالہ، ص ۲۰۰۔

2 فیلیپ حتی، تاریخ عرب، ترجمہ: ابوالقاسم پایندہ، ۱۳۴۴ھ، ج ۱، ص ۱۲۵۔

3 ابن واضح، تاریخ یعقوبی، (نصف: مکتبۃ الحدید، ۱۳۸۴ھ، ق) ج ۱، ص ۲۱۵۔

4 محمد بن حبیب بغدادی، المشرق فی اخبار قریش، تحقیق: خورشید فارق (بیروت: عالم الکتب، ط ۱۳۰۵ھ، ق) ص ۴۲۔

5 ابن واضح، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۱۴۔

6 گزشتہ حوالہ، ص ۲۱۳۔

7 ابن سعد، طبقات الکبریٰ، (بیروت: دار صادر) ج ۱، ص ۷۸۔

8 ابن واضح، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۱۵۔

9 محمد بن جریر طبری، تاریخ الامم والملوک (بیروت: دار قاموس الحدیث) ج ۲، ص ۱۸۰؛ ابن اثیر، الکامل فی التاريخ، (بیروت: دار صادر) ج ۲، ص ۱۶۔

راستوں کی امنیت کے بعد، جناب ہاشم نے یمن اور شام میں تجارتی خطوط کی بنیاد ڈالی^۱۔ جس کا حلقہ اتصال مکہ تھا، جو ان دو تجارتی مرکز کے نصف راستے میں واقع تھے۔^۲ اس طرح سے قریش نے دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت کا آغاز کیا۔^۳ اس وقت سے مکہ کے تجارت، فصلی بازاروں جیسے ”عکاظ“ ذوالحجاز اور مجنہ“ میں شرکت کرنے کے علاوہ جاڑے کی فصل میں یمن، حبشہ اور گرمی کی فصل میں شام اور غزہ کا سفر کرتے تھے۔

وہ لوگ ان مسافرتوں میں عطریات، بخور، ریشمی لباس، چڑا اور دوسروں چیزوں کو جو ہندوستان، چین اور دوسرے علاقوں سے یمن میں آیا کرتی تھیں خرید کر خشکی کے راستے سے تمام جزیرۃ العرب میں حضر موت کے راستہ بحر احمر^۴ کے سامنے سے ہوتے ہوئے مکہ میں لایا کرتے تھے پھر غزہ، بیت المقدس، دمشق اور بحر مدیترانہ کی بندرگاہ تک پہنچایا کرتے تھے۔ اور شام کے بازاروں سے گیہوں، تیل، زیتون، لکڑی، اور ریشم کی بنی ہوئی چیزوں کو خریدتے تھے۔ اسی طرح سے جدہ کی بندرگاہ کے ذریعہ (جو کہ مکہ سے ۸۰ کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے) بحر احمر کو عبور کر کے حبشہ میں داخل ہوتے تھے اور اس طرح علاقائی چیزوں کو دوسری جگہ لیجاتے تھے۔^۵

اس تجارتی راہ کے کھلنے سے، شہر مکہ، ایک پر منفعت تجارتی مرکز میں تبدیل ہو گیا اور وہاں کے رہنے والوں کی زندگی میں بڑی تبدیلی رونما ہوئی اور خودوند عالم نے اس تجارتی سفر کی برقراری کو قریش کے لئے راحت و آرام کا سبب قرار دیا ہے ”قریش کے انس والفت کی خاطر، جو انھیں سردی اور گرمی کے سفر سے ہے ابرہہ کو ہلاک کر دیا ہے۔ لہذا انھیں چاہئے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ جس نے انھیں بھوک میں سیر کیا ہے اور خوف سے محفوظ رکھا۔“^۶

ب: کعبہ کا وجود: شہر مکہ کی توسیع اور اس کی اقتصادی رونق کا ایک دوسرا سبب کعبہ کا وجود تھا کیونکہ عرب کے لوگ سال میں دو بار اعمال حج انجام دینے کے لئے اس شہر میں آتے تھے اور قریش جو کہ کعبہ سے متعلق مختلف امور کے ذمہ دار تھے حجاج کے قیام و بعام کا انتظام کرتے تھے۔ دوسری طرف سے اعمال حج کے ساتھ زائروں اور مکہ کے تاجروں کے درمیان تجارتی معاملات بھی انجام پاتے تھے۔^۷ اور یہ دو چیزیں شہر کی توسیع اور اقتصادی رونق میں مددگار ثابت ہوئیں۔

البتہ سر زمین حرم کا تقدس و احترام بھی جو کہ اطراف حرم میں امن و سکون کا سبب بنا ہوا تھا مکہ کی تجارتی رونق میں بہت زیادہ موثر ثابت ہوا۔ جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: ”اور یہ کفار کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ حق کی پیروی کریں گے تو اپنی زمین سے اچک لئے جائیں گے۔ تو کیا

1 طبری، گزشتہ حوالہ، ص ۱۸۰؛ ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، (قاہرہ: مطبعہ مصطفیٰ البابی الحلبي، ۱۳۵۵ھ، ق) ج ۱، ص ۱۳۳۔

2 احمد امین، فجر الاسلام، (قاہرہ: مکتبۃ النسخۃ المصریہ، ط ۹، ۱۳۶۳)، ص ۱۲-۱۳؛ ڈاکٹر شوقی ضیف۔

3 طبری، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۱۶؛ ابن اثیر، گزشتہ حوالہ، ص ۱۶۔

4 احمد امین، گزشتہ حوالہ، ص ۱۲؛ عبد المنعم ماجد، تاریخ السیاسی للبلاد العربیہ، (قاہرہ: مکتبۃ المدین، ۱۳۶۰ھ)، ص ۷۹۔

5 حسن ابراہیم حسن، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمہ: ابو القاسم پابندہ، (تہران: انتشارات جاویدان، ط ۴، ۱۳۶۰ھ)، ص ۵۶۔

6 سورہ قریش، آیت ۱-۲۔

7 عباس زریاب، سیرۃ رسول اللہ (تہران: سروش، ط ۱، ۱۳۷۰)، ص ۶۷-۶۶۔

ہم نے انھیں ایک محفوظ حرم پر قبضہ نہیں دیا ہے جس کی طرف ہر شیء کے پھل ہماری دی ہوئی روزی کی بنا پر چلے آ رہے ہیں لیکن ان کی اکثریت سمجھتی ہی نہیں ہے۔¹

جناب ابراہیمؑ نے بھی اپنی شریک حیات اور بچوں کو کعبہ کے پاس ٹھہرانے کے بعد خدا کی بارگاہ میں اس طرح سے دعا فرمائی: ”پروردگار! میں نے اپنی ذریت میں سے بعض کو تیرے محترم مکان کے قریب بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیا تاکہ نمازیں قائم کریں اب تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے اور انھیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔“²

”اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیمؑ نے دعا کی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر قرار دیدے اور اس شہر کے ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں پھلوں کا رزق عطا فرما۔“³

ارشاد ہوا کہ پھر جو کافر ہو جائیں گے انھیں دنیا میں تھوڑی نعمتیں دے کر آخرت میں عذاب جہنم میں زبردستی دھکیل دیا جائے گا جو بدترین انجام ہے۔

قریش کی تجارت اور کلید برداری

دو چیزیں تجارت اور کعبہ کا وجود شہر مکہ کی توسیع اور مرکزیت کا سبب قرار پائیں اور مکہ میں قریش کے اقتدار کے اضافہ کا باعث بھی بنیں کیونکہ اقتصادی طاقت اور کعبہ کے سارے مذہبی پروگرام ان کے اختیار میں تھے۔

۱۔ قریش نے آہستہ آہستہ تجارت کے ذریعہ بے شمار دولت جمع کر لی اور مکہ میں بڑے بڑے ثروت مند پیدا ہو گئے جن میں بعض کی دولت و ثروت کی مقدار مبالغہ آمیز بتائی گئی ہے۔ جیسا کہ ان میں سے ایک کی دولت کی مقدار ایک قافلہ میں تیس ہزار دینار سے زیادہ تھی۔⁴

قریش کی اہم شخصیتوں کے پاس سیاحتی علاقے اور طائف جیسی پاکیزہ جگہ جو آب و ہوا کے لحاظ سے سرزمین شام کا ایک حصہ سمجھی جاتی ہے۔⁵ باغات اور سیاحتی مراکز موجود تھے۔⁶ عباس ابن عبد المطلب کے پاس طائف میں انگور کا باغ تھا کہ جس کا انگور شراب بنانے کے لئے مکہ جایا کرتا تھا⁷ اور وہ مکہ کے بڑے سود خوروں میں سے تھا⁸ عبد المطلب کے مرنے کے بعد انھیں دو بیٹنی کپڑوں میں لپیٹا گیا جس کی قیمت ہزار

1 سورہ قصص، آیت ۵۷۔

2 سورہ ابراہیم، آیت ۳۔

3 سورہ بقرہ، آیت ۱۲۶۔

4 جواد علی، المفصل فی التاريخ العرب (بیروت: دار العلم للملایین، ط ۱، ۱۹۶۸ء)، ج ۱، ص ۱۱۳۔ گویا مقصود، سعید ابن العاص (ابی احیم) ہے کہ واقدی کے بقول (المغازی، ج ۱، ص ۲۷) شام سے پلٹتے وقت جنگ بدر کے موقع پر قریش کے قافلہ کی سب سے زیادہ دولت اس کے پاس تھی۔ لیکن واقدی کی عبارت اس صراحت کے ساتھ نہیں ہے۔

5 فیلیپ جتی، گزشتہ حوالہ، ص ۱۳۰۔

6 طبری، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۲۲۱؛ بلاذری، فتوح البلدان، (بیروت: دار الکتب العلمیہ، ۱۳۹۸ھ)، ج ۱، ص ۶۸۔

7 بلاذری، گزشتہ حوالہ، ص ۶۸۔

8 ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۴، ص ۲۵۱۔

مشقال سونا تھی۔¹ (جس سے ان کے ورثہ کی دولت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے) کہا جاتا ہے کہ ان کی لڑکی ”ہند“ نے ایک دن میں چالیس غلاموں کو آزاد کیا۔² ولید بن مغیرہ (قبیلہ بنی مخزوم کا سردار) جس کے پاس بے شمار دولت اور متعدد اولادیں تھیں وہ ہر جگہ مشہور تھا۔³ بعد میں غرور اور گھمنڈ کی بنا پر قرآن نے اس کی سرزنش کی⁴ عبد اللہ بن جدعان تیمی کی دولت اور اس کی عمومی مہمان نوازی افسانے کے طور پر نقل ہوئی ہے۔⁵ شعراء، انعام و اکرام کی خاطر اس کی مدح سرائی کرتے تھے۔⁶

ایک شاعر نے اس کو ”قیصر“ سے تشبیہ دی تھی۔⁷ کہتے ہیں کہ اس نے قبیلہ جاتی جنگ میں اپنے ساتھیوں اور لڑنے والوں کو ۱۰۰۰ اونٹ دے رکھے تھے۔⁸ اور سو (۱۰۰) لوگوں کو اپنے خرچ پر مسلح کیا تھا۔⁹ وہ غلاموں کو رکھتا تھا اور کنیزوں کو فروخت کرتا تھا۔¹⁰ اور سونے کے برتن میں پانی پیتا تھا۔¹¹ پیغمبر اسلامؐ نے فتح مکہ کے بعد جس وقت جنگ حنین کے لئے روانہ ہوئے تو صفوان امیہ (مکہ کا ایک مشرک) سے سو (۱۰۰) زرہ اور ضروری اسلحے امانت کے طور پر لئے۔¹²

۲۔ دوسری طرف سے قریش نے قصی (رسول خداؐ کے چوتھے جد) کے زمانہ سے کعبہ کی کنجی قبیلہ خزاعہ کے ہاتھوں سے لے رکھی تھی۔¹³ اور حج زیارت اور طواف سے مربوط مختلف ذمہ داریاں جیسے حاجیوں کے لئے پانی کی فراہمی (سقیہ) اور قیام و بعام کا انتظام (رفادہ) کعبہ کی درباری اور پردہ داری (سدانہ) اور کعبہ کی نگہبانی اور خدمت گزاری (عمارہ) قریش کے مختلف سرداروں کے درمیان بٹی ہوئی تھی اور اس طرح سے انھیں مذہبی حمایت بھی حاصل تھی۔

1 ابن واضح، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۰۔

2 شوقی ضیف، گزشتہ حوالہ، ص ۵۱؛ جاحظ، المحاسن والاضداد (بیروت: دار مکتبہ عرفان)، ص ۶۲۔ فصل محاسن السماء۔

3 ایک تفسیر کے مطابق۔ آیت ”ولانزل هذا القرآن علی رجل من القریٰتین عظیم۔“ (سورہ زخرف، آیت ۳۱) میں دو بڑی شخصیتوں سے مراد مکہ میں ولید ابن مغیرہ، اور طائف میں عروہ ابن مسعود ثقفی تھے کہ مشرکین ان کی بے شمار دولت کی بنیاد پر انھیں نبوت کے لئے نامزد کئے ہوئے تھے۔

4 طباطبائی، تفسیر المیزان، ج ۲، ص ۹۳؛ ابن کثیر، تفسیر، ج ۴، ص ۴۴۲؛ تفسیر سورہ المدثر۔

5 ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، (بیروت: مکتبہ المعارف، ط ۲، ۱۹۷۷ء)، ج ۲، ص ۲۲۹؛ آلوسی، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۸۹؛ محمد احمد جاد المولیٰ بک (ومعاونین)، ایام العرب فی الجاہلیہ، (بیروت: دار احیاء التراث العربی)، ص ۲۴۸۔

6 آلوسی، گزشتہ حوالہ، ۸۷؛ ابن کثیر، گزشتہ حوالہ، ص ۲۲۹۔

7 یوم بن جدعان، بجانب الحزوة کانه قیصر او ذوالد سکرہ (بکری، معجم ما سقیم، عالم الکتب، ط ۳، ۱۴۰۳ھ، ق)، ج ۲، ص ۴۴۴؛ لفظ حزورہ؛ شوقی ضیف، گزشتہ حوالہ، (ص ۵۱)

8 محمد احمد جاد المولیٰ بک، گزشتہ حوالہ، ص ۳۳۴۔

9 گزشتہ حوالہ، ص ۳۲۹۔

10 ابن قتیبہ، المعارف، تحقیق: ثروت عکاشہ (قم: منشورات الشریف الرضی، ط ۱، ۱۴۱۵ھ، ق)، ص ۵۷۶؛ مسعودی، مروج الذهب، (بیروت: دار الاندلس، ط ۱)، ج ۲، ص ۲۸۷؛ جواد علی، گزشتہ حوالہ، ص ۹۶۔

11 آلوسی، گزشتہ حوالہ، ص ۸۷۔

12 ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۴، ص ۸۳؛ واقدی، المغازی، تحقیق: مارسلن جانس، ج ۳، ص ۸۹۰؛ ابن سعد، طبقات الکبریٰ، (بیروت: دار صادر)، ج ۲، ص ۱۵۰؛ حلبی، السیرۃ الحللبیہ، (بیروت: دار المعرفہ)، ج ۳، ص ۶۳۔ اسی طرح رسول خداؐ اپنے چچا زاد بھائی نوفل بن حارث بن عبد المطلب سے تین ہزار نیزہ امانت کے طور پر لیا (حلبی، گزشتہ حوالہ)، یہ سب ان کے عظیم مالی اقتدار کی علامت تھا۔

13 ازرقی، اخبار مکہ، تحقیق: رشدی الصالح لمص (قم: منشورات الرضی، ط ۱، ۱۴۱۱ھ، ق)، ج ۱، ص ۱۰۷؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۳۰۔

اس کے علاوہ شہر کے اجتماعی امور کو بھی جیسے پرچم داری، دیت اور نقصان کا بدلہ دینے میں نظارت اور اختلافات کو ختم کرنے کی نمایندگی کو اپنے قبیلوں کے درمیان بانٹ کر شہر کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔¹

قریش کا اقتدار اور اثر و رسوخ

قریش جن کا شمار ایک زمانہ میں ایک چھوٹے خاندان میں ہوا کرتا تھا اور فقیر و تنگدست سمجھے جاتے تھے اور جنوب حجاز میں انکا کوئی مقام و درجہ نہیں تھا وہ اپنے اقتصادی اور دینی انتظامات کی بنا پر آہستہ آہستہ عرب کے ایک طاقتور قبیلہ کی شکل میں ظاہر اور معروف ہوئے۔

اور شرف و بزرگی اور اہمیت کے اعتبار سے اپنے کو دوسرے قبیلوں سے بلند کر دیا۔ ایک معاصر مورخ کے کہنے کے مطابق اس وقت قبیلہ قریش حجاز کے تمام قبیلوں کی بہ نسبت بہت زیادہ امتیازات و خوبیاں رکھتا تھا۔ جس طرح سے لاوی لوگ حجاز کے یہودیوں کے درمیان اور راہب عیسائیوں کے درمیان امتیاز رکھتے تھے۔²

خاص طور سے ہاتھیوں کے لشکر اور ابرہہ کی شکست کے بعد قریش جو کہ کلید دار کعبہ تھے ان کا احترام لوگوں کی نظروں میں بڑھ گیا۔³ اور انھوں نے اس واقعہ سے اپنے حق میں اور فائدے اٹھائے۔ اپنے کو ”آل اللہ“ حیران اللہ اور سکان اللہ“ کہتے تھے۔⁴ اور اس طرح انھوں نے اپنے مذہبی مراکز کو ہموار کیا اور ان کی قدرت و طاقت کے احساس نے انھیں فساد اور انحصار طلبی کی طرف مائل کر دیا۔⁵ اور اس طرح سے انھوں نے دوسرے قبائل پر اپنی طرف سے نئے قوانین کا سلسلہ تھوپ دیا۔ مثلاً قریش دوسرے قبیلوں سے بغیر کسی شرط کے لڑکی لاتے تھے۔

لیکن اپنی لڑکیوں کو اس شرط پر انھیں دیتے تھے کہ قریش کی خاص دینی بدعتیں مخصوصاً اعمال حج اور طواف کو وہ قبول کر لیں۔⁶ اور جو مسافر مکہ میں داخل ہوتے تھے ان سے ٹیکس وصول کرتے تھے۔⁷ اور اسے قریش کا حق سمجھتے تھے۔⁸

1 ابن عبد ربہ (العقد الفرید، بیروت: دار الکتب العربی، ۱۴۰۳ھ، ق) ج ۳، ص ۳۱۴؛ احمد امین، گزشتہ حوالہ، ۲۲؛ آلوسی، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۴۵؛ البتہ یہ اقدامات بعض عیسائی مورخین جیسے جرجی زیدان اور لامنس کے تصور کے برخلاف، اس دور کے حکومتی محکموں اور دفتروں جیسا نہیں تھا بلکہ ایک ابتدائی اور قبیلہ کی شکل رکھتا تھا۔

2 فیلیپ حتی، گزشتہ حوالہ، ص ۱۷۔

3 ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۵۹؛ ازرقی، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۷۶۔

4 ابن عبد ربہ، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۳۱۳؛ ازرقی، گزشتہ حوالہ، ص ۱۷۶۔

5 ازرقی، گزشتہ حوالہ، ص ۱۷۶۔

6 گزشتہ حوالہ، ص ۱۷۹؛ آلوسی، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۴۳۔

7 ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۷۰۔

8 جواد علی، گزشتہ حوالہ، ج ۴، ص ۲۱۔

اس کے علاوہ حج کا پروگرام وہ اپنے ہاتھ میں رکھ کر حاجیوں کو اپنے قوانین کا اس طرح تابع بناتے تھے کہ حاجیوں کی روانگی منی اور رمی جمرات سے ان کی اجازت پر موقوف ہوتی تھی۔¹

اسی طرح قریش اہل مکہ کے علاوہ دوسرے حاجیوں کو مجبور کرتے تھے کہ طواف کا لباس ان سے خریدیں ورنہ برہنہ طواف کریں اور اگر انھوں نے اپنے لباس میں طواف کیا تو طواف کے بعد اسے پھینک دیں۔² (تاکہ مجبور ہو کر قریش سے لباس خریدیں) اور حاجیوں کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ اپنے پاس موجود غذا کو استعمال کریں بلکہ اہل مکہ کی تیار کردہ غذا استعمال کریں۔³ (اور ان کے بازاروں سے غذائیں خریدیں) ۹ھ میں پیغمبر اسلام نے علیؑ کو مکہ بھیجا تاکہ مشرکین سے برائت کا اعلان کریں۔ قطعنامہ کی ایک شق جس کا علیؑ نے حج کے عمومی پروگرام میں اعلان کیا یہ تھی کہ آج کے بعد سے کوئی بھی کعبہ کا برہنہ طواف نہ کرے۔⁴

مکہ میں قریش کے اثر و رسوخ کا پتہ لگانا اس اعتبار سے قابل اہمیت ہے کہ ہم اس کے ذریعہ سے پیغمبر اسلام کی پریشانیوں اور مشکلات کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور پھر غور کریں کہ آنحضرتؐ کا سامنا کتنے بڑے اور طاقتور دشمن سے تھا۔ خاص طور پر مکہ میں دعوت اور تبلیغ دین کے دوران بغیر کسی قوت و طاقت و نیز محدود حامیوں کے ساتھ قریش سے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کے پنجہ سے پنجہ لڑا دیا!

1 ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ۶۹؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ۱۲۵، ۱۳۰؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ (بیروت: دار صادر)، ج ۲، ص ۲۰؛ ازرقی، گزشتہ حوالہ، ص ۱۸۹۔

2 ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ۷۲؛ ازرقی، گزشتہ حوالہ، ص ۱۷۴، ۱۷۸، ۱۸۲؛ کعبہ کا برہنہ طواف جس کے بارے میں پہلے بیان کر چکے ہیں اور نیز اس خاتون کی داستان جس نے بہت ہی بری حالت میں طواف کیا اور کہتی تھی: الیوم یبدو بعضہ اوکلہ۔ وما بدامنہ فلا احلہ، اس سختی اور انحصار طلبی کے نتیجہ میں تھا (ازرقی، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۷۸، ۱۸۲؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۴، ص ۱۹۰؛ آلوسی، گزشتہ حوالہ، ص ۲۴۴؛ صحیح مسلم بشرح النووی، ج ۱۸، ص ۱۶۲، کتاب التفسیر)۔

3 ازرقی، گزشتہ حوالہ، ص ۱۷۷۔

4 ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۴، ص ۱۹۰۔

دوسرا حصہ

• حضرت محمدؐ ولادت سے بعثت تک

• پہلی فصل: اجداد پیغمبر اسلامؐ

• دوسری فصل: حضرت محمدؐ کا بچپن اور جوانی

• تیسری فصل: حضرت محمدؐ کی جوانی

پہلی فصل

اجداد پیغمبر اسلام ﷺ

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کا حسب و نسب

حضرت محمد مصطفیٰ کے سلسلہ نسب میں آپ کے بیس اجداد کا تذکرہ اس طرح سے موجود ہے :

عبد المطلب، ہاشم، عبد مناف، قصی، کلاب، مرہ، کعب، لوی، غالب، فہر، مالک، نضر، سنانہ، خزیمہ، مدرکہ، الیاس، مضر، نزار، معد اور عدنان۔¹

لیکن حضرت اسماعیلؑ تک آنحضرتؐ کے دوسرے اجداد اور ان کے ناموں کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔²

آپ اپنے سلسلہ نسب کو بیان کرتے وقت جب عدنان پر پہنچتے تھے تو ٹھہر جاتے تھے اور بقیہ کو نہیں بیان فرماتے تھے۔³ اور دوسروں کو بھی اسی بات کی نصیحت فرماتے تھے۔⁴ اور عدنان سے اسماعیلؑ تک اپنے اجداد کے سلسلہ نسب کے بارے میں فرمایا: کہ اہل نسب نے جو بات کہی ہے وہ جھوٹ ہے۔⁵

1 طبری، تاریخ الامم والملوک (بیروت: دار القاموس الحدیث) ج ۲، ص ۱۹۱؛ ابن اثیر، اسد الغابہ (تہران: المکتبۃ الاسلامیہ) ج ۱، ص ۱۳؛ طبری، اعلام الوری (تہران: دار الکتب الاسلامیہ) ج ۳، ص ۵-۶۔

2 ابن اثیر، گزشتہ حوالہ، ص ۱۳؛ ابوبکر احمد بن حسین بیہقی، دلائل النبوة، ترجمہ: محمود مہدوی دامغانی (تہران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی) ۱۳۶۱، ص ۱۱۸؛ مسعودی، التنبیہ والاشراف (قاہرہ: دار الصاوی للطبع والنشر) ج ۱، ص ۱۹۶-۱۹۵؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ (بیروت: دار صادر) ج ۲، ص ۳۳؛ جمال الدین احمد بن عنبر، عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب (قم: منشورات الرضی) ج ۲، ص ۲۸۔

3 ابن سعد، طبقات الکبریٰ (بیروت: دار صادر) ج ۱، ص ۵۶؛ ہشام بن محمد الکلبی، جمهرة النسب، تحقیق: ناجی حسن (بیروت: عالم الکتب) ج ۱، ص ۱۷۔

4 ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب (قم: المطبعة العلمیہ) ج ۱، ص ۱۵۵؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ص ۶؛ مجلسی، بحار الانوار (تہران: دار الکتب الاسلامیہ) ج ۱۵، ص ۱۰۵۔

5 کلبی، گزشتہ حوالہ، ص ۱۷؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ۵۶؛ ابن شہر آشوب، گزشتہ حوالہ، ص ۱۵۵؛ ابن عنبر، گزشتہ حوالہ، ص ۲۸۔

عرب کے تمام قبیلے دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ”قطانی اور ”عدنانی“¹ اور قریش عدنان (رسول خدا کے بیسویں جد) سے انتساب کی بنا پر، عدنانی کہے جاتے ہیں۔ عدنانی عرب میں، جس کا خاندان اور سلسلہ نسب نضر بن کنانہ سے ملتا ہے وہ قرشی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ قریش آپ کا نام یا لقب تھا۔²

قبیلہ قریش³ متعدد خاندانوں اور حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ جیسے بنی مخزوم، بنی زہرہ، بنی امیہ، بنی سہم اور بنی ہاشم⁴ اور حضرت محمدؐ آخری خاندان سے تھے۔

حضرت عبدالمطلب کی شخصیت

حضرت محمدؐ کے اجداد میں ہم زیادہ تر معلومات آپ کے پہلے جد عبدالمطلب کے بارے میں رکھتے ہیں کیونکہ ان کا دور حیات عصر اسلام سے نزدیک رہا ہے۔

جناب عبدالمطلب، ایک ہر دل عزیز، مہربان، عقلمند، سرپرست اور قریش کی ایسی پناہ گاہ تھے⁵ جن کا کوئی مقابل اور رقیب نہیں تھا۔ وہ تمام عظیم الہی شخصیتوں کی طرح اپنے معاشرے میں نمایاں کردار رکھتے تھے۔ طولانی عمر پانے کے باوجود مکہ کے آلودہ سماج کے رنگ میں اپنے کو کبھی نہیں رنگا۔ اس وقت مکہ میں معاد کا عقیدہ نہیں پایا جاتا تھا یا بہت کم تھا۔ لیکن عبدالمطلب نہ صرف معاد کا عقیدہ رکھتے تھے بلکہ روز

1 پہلے گروہ کو یمنی (یعنی) اور دوسرے گروہ کو مضری، نزاری اور قیسی بھی کہتے ہیں۔

2 ابن شہر آشوب، گزشتہ حوالہ، ص ۱۵۴؛ ابن عنبہ، گزشتہ حوالہ، ص ۲۶؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ص ۶؛ ابن قتیبہ، المعارف، تحقیق: ثروة عکاشہ (قم: منشورات الرضی، ۱۴۱۵ھ۔ ق)، ص ۶۷؛ طبری، مجمع البیان، (تہران: شرکت المعارف الاسلامیہ)، ج ۱۰، ص ۵۳۵؛ ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، (قاہرہ: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ۱۳۵۵ھ۔ ق)، ج ۱، ص ۹۶؛ ابن عبد ربہ، العقد الفرید (دار الکتب العربی، ۱۴۰۳ھ۔ ق)، ج ۳، ص ۳۱۲؛ ابن کثیر، السیرۃ النبویہ، (قاہرہ: مطبعة عیسی البابي الحلبي)، ج ۱، ص ۸۴؛ محمد امین بغدادی سیدی، سہلک الذہب فی معرفۃ قبائل العرب (بیروت: دار صعب)، ص ۶۲؛ ابن واضح، تاریخ یعقوبی، (نجف: المکتبۃ الحیدریہ، ۱۳۸۳ھ۔ ق)، ج ۱، ص ۲۰۴۔ بعض اہل نسب نے، فہر بن مالک بن نضر کو قرشی کہا ہے۔ رجوع کریں: کلبی، گزشتہ حوالہ، ص ۲۱؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ۵۵؛ ابن عنبہ، گزشتہ حوالہ، ص ۲۶؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ۹۶؛ محمد امین بغدادی، گزشتہ حوالہ، ص ۶۲؛ ابن واضح، گزشتہ حوالہ، ص ۲۰۴؛ ابن حزم، جمہرۃ انساب العرب (بیروت: دار الکتب العلمیہ، ط ۱۴۰۳ھ۔ ق)، ص ۱۲؛ حلبي، السیرۃ الحلبيہ، (انسان العیون) (بیروت: دار المعرفہ)، ج ۱، ص ۲۶-۲۵۔ دوسرے اقوال بھی اس بات میں موجود ہیں کہ جن کا ذکر نافعاندہ نہیں رکھتا۔ رجوع کریں: السیرۃ الحلبيہ، ج ۱، ص ۲۷۔

3 عرب کے قبیلے اور گروہ چھوٹے اور بڑے ہونے کے لحاظ سے اور اس کے اندر جو شاخیں پیدا ہوئی تھیں ان کے اعتبار سے ترتیب وار انھیں شعب، قبیلہ، عمارہ، بطن، فخذ اور فصیلہ کہا جاتا تھا۔ جیسے خزیمہ، شعب، کنانہ، قبیلہ، قریش، عمارہ، قصی، بطن، ہاشم، فخذ، اور عباس کو فصیلہ کہا جاتا تھا (ابن حزم، العقد الفرید، ج ۳، ص ۳۳۰؛ ڈاکٹر حسین مؤنس، تاریخ قریش، (دار السعودیہ، ط ۱۴۰۸ھ۔ ق)، ص ۲۱۵) اس بنیاد پر بعض دانشوروں نے قریش کو ”قبیلہ“ اور بعض نے ”عمارہ“ کہا ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اس تقسیم بندی کی بنیاد اور اصل، محل بحث ہے۔ اور اصولی طور پر بعض محققین نے اس تقسیم بندی کو قبول نہیں کیا ہے۔ (تاریخ قریش، ص ۲۱۶-۲۱۵) ہم یہاں پر اس بحث سے ہٹ کر صرف آسانی کے لئے قریش کو قبیلہ کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں۔

4 مسعودی نے قبیلہ قریش میں ۲۵ خاندان بتائے ہیں اور ان کا نام ذکر کیا ہے۔ (مروج الذہب، (بیروت: دار الاندلس، ط ۱۹۶۵)، ج ۲، ص ۲۶۹)

5 حلبي، گزشتہ حوالہ، ص ۶۔

قیمت کی جزا اور سزا کے بارے میں بھی تاکید فرماتے تھے اور کہتے تھے: اس دنیا کے بعد ایسی دنیا آئے گی جس میں اچھے اور برے لوگ، اپنے اعمال کی جزا اور سزا پائیں گے۔¹

جبکہ اس وقت جزیرۃ العرب کے ماحول میں قبیلہ جاتی عصبیت عام تھی اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں ہر شخص جھگڑے اور اختلافات میں (بغیر حق و باطل کا خیال کئے) اپنے قبیلے، خاندان اور احباب کی حمایت کرتا تھا۔ لیکن جناب عبدالمطلب، ایسے نہیں تھے۔ چنانچہ حرب بن امیہ جو کہ آپ کے خاندان اور دوستوں میں سے تھا اس پر اتنا دباؤ ڈالا، تاکہ وہ ایک یہودی کا خون بہا دیدے جو اس کے ورغلانے پر قتل ہوا تھا² وہ اپنی اولاد کو ظلم و ستم اور دنیا کے پست اور گھٹیا کاموں سے منع کرتے تھے اور اچھے صفات کی ترغیب دلاتے تھے۔³

جناب عبدالمطلب کا جو طریقہ کار تھا اسلام نے زیادہ تر اس کی تائید فرمائی ہے۔ ان میں کچھ چیزوں، جیسے حرمت شراب، حرمت زنا، زنا کار پر حد جاری کرنا، چور کے ہاتھ کاٹنا، فاحشہ عورتوں کو مکہ سے جلا وطن کرنا اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، محرموں سے شادی کرنا اور خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرنے کو حرام قرار دینا اور نذر کی ادائیگی کو واجب جاننا اور حرام مہینوں کی قداس و احترام اور مباہلہ وغیرہ⁴ کے وہ قائل تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ عبدالمطلب ”خدا کی حجت“ اور ابوطالب ان کے ”وصی“ تھے۔⁵

خاندان توحید

حضرت محمدؐ کا خاندان، موحد تھا۔ علماء امامیہ کے عقیدے کے مطابق آپ کے آباء و اجداد حضرت عبد اللہ سے لیکر حضرت آدمؑ تک سب موحد تھے اور ان کے درمیان کوئی مشرک نہیں تھا۔ اس بارے میں آیات و روایات سے استدلال ہوا ہے۔ آنحضرتؐ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: ”خداوند عالم نے مجھے ہمیشہ پاک مردوں کی صلبوں سے پاکیزہ عورتوں کے رحموں میں منتقل کیا۔ یہاں تک اس دنیا میں بھیج دیا اور اس

1 گزشتہ حوالہ، ص ۶؛ شکاری آلوسی، بلوغ الارب فی معرفۃ احوال العرب، تصحیح محمد بھبیہ الاثری، (قاہرہ: دار الکتب الحدیثہ، ط ۲)، ج ۱، ص ۳۲۴۔

2 حلبی گزشتہ حوالہ، ص ۶؛ آلوسی گزشتہ حوالہ، ص ۳۲۳؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج ۲، ص ۱۵؛ بلاذری، انساب الاشراف، تحقیق: محمد حمید اللہ (قاہرہ: دار المعارف)، ج ۱، ص ۷۳۔

3 حلبی گزشتہ حوالہ، ص ۷؛ مسعودی، مروج الذهب، ج ۲، ص ۱۰۹۔

4 آلوسی گزشتہ حوالہ، ص ۳۲۴؛ ابن واضح، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۷؛ رجوع کریں: السیرۃ الحلبیہ، ج ۱، ص ۷؛ رجوع کریں: الخصال صدوق، باب الخمسہ، ج ۲، ص ۳۱۳۔

5 صدوق، اعتقادات، ترجمہ: سید محمد علی بن سید محمد الحسنی (تہران: کتابخانہ شمس، ط ۳، ۷۹، ۱۳۵ھ، ق)، ص ۱۳۵؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۵، ص ۱۱۷؛ رجوع کریں: اصول کافی، ج ۱، ص ۴۴۵۔

جناب عبدالمطلب سے مربوط بحثوں میں سے ایک بحث خدا کی راہ میں ایک فرزند کی قربانی، ان کی نذر ہے جس کی خبر مشہور ہونے کے باوجود جس طرح سے تاریخ کی کتابوں میں آئی ہے وہ سند اور متن کے لحاظ سے جائے اشکال ہے۔ اور اس سلسلہ میں بحث و تحقیق کی ضرورت ہے۔ (رجوع کریں: علی دوانی، تاریخ اسلام از آغاز تا ہجرت، ص ۵۹-۵۴؛ من لایحضرہ الفقہ، تحقیق: علی اکبر غفاری، ج ۳، ص ۸۹؛ باب الحکم بالقرعہ، حاشیہ، تعلیقہ آغا غفاری) چونکہ یہ کتاب اختصار کے طور پر لکھی گئی ہے لہذا اس کے بارے میں بحث کرنے سے صرف نظر کرتے ہیں۔

نے مجھے ہرگز جاہلیت کی کثافتوں سے آلودہ نہیں کیا¹ اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ کوئی بھی نجاست شرک سے بدتر نہیں ہے اگر ان کے درمیان کوئی ایک بھی مشرک ہوتا تو انھیں ہرگز پاک نہ کہا جاتا۔

علمائے امامیہ کا عقیدہ ہے کہ جناب ابوطالب اور آمنہ بنت وہب موحد تھے۔²

حضرت علیؑ نے فرمایا ہے کہ خدا کی قسم! میرے والد اور اجداد عبدالمطلب، ہاشم اور عبد مناف میں سے کوئی بھی بت پرست نہیں تھا وہ لوگ دین ابراہیمی کے پیرو تھے اور کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔³

1 صدوق، گزشتہ حوالہ، ص ۱۳۵؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ص ۱۱۷؛ مفید، اوائل المقالات (قم):

مکتبۃ الداوری، ص ۱۲؛ طبرسی، مجمع البیان، ج ۴، ص ۳۲۲؛ تفسیر آیہ ۷۴ سورۃ النعام، بعض معاصر دانشوروں نے اس حدیث کو طہارت نسل یعنی ولادت و پیدائش کا سبب ازدواج قرار دیا ہے (نہ آزاد اور غیر مشروع روابط) سے تفسیر کیا ہے کہ اگر اس تفسیر کو قبول کریں تو ہماری بحث کے لئے شاہد قرار نہیں پائے گا۔ (سید ہاشم رسولی محلاتی، درس ہائی از تاریخ تحلیلی اسلام ماہنامہ پاسدار اسلام، ۱۳۶۷، ج ۱، ص ۶۴)

2 مفید، گزشتہ حوالہ، ص ۱۲؛ صدوق، گزشتہ حوالہ، اہل سنت کے بعض نامور علماء جیسے فخر رازی اور سیوطی بھی اس سلسلے میں امامیہ کے ہم عقیدہ ہیں۔ رجوع کریں : بحار الانوار، ج ۱۵، ص ۱۲۲-۱۱۸۔

3 صدوق، کمال الدین و تمام النعمہ، تصحیح علی اکبر الغفاری (قم: موسسہ النشر الاسلامی، ۱۳۶۳)، ج ۱، ص ۱۷۵؛ الغدیر، ج ۷، ص ۳۸۷۔

دوسری فصل

حضرت محمد ﷺ کا بچپن اور جوانی

ولادت

جاہل عرب میں تاریخ کی کوئی منظم اور مستقل ابتدا مقرر نہیں تھی بلکہ علاقے کے اہم واقعات جیسے کسی بڑی اور مشہور شخصیت کے مرنے یا دو قبیلوں کے درمیان خون ریز جنگ کے دن کو ایک زمانے تک تاریخ کا آغاز قرار دیتے تھے۔¹ یہاں تک تمام قبائل عرب میں تاریخ کے آغاز کے لئے ایک معین دن نہیں تھا بلکہ اس قبیلہ کے نزدیک جو بھی اہم واقعہ رونما ہوتا تھا اسی کو تاریخ کی ابتدا قرار دیتے تھے۔²

جس وقت ابرہہ (حبشہ کا بادشاہ) نے ہاتھیوں سمیت لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لئے مکہ پر حملہ کیا³ تو انبجاء پروردگار اور اس کی غیبی طاقت کے مقابلہ میں شکست کھا گیا۔ اور اس واقعہ سے اس زمانہ کے دوسرے تمام واقعات تحت الشعاع میں آگئے اور وہ سال ایک عرصہ تک ”عام الفیل“ کے عنوان سے تاریخ کی شروعات قرار پایا⁴ اور حضرت محمدؐ اسی سال مکہ میں پیدا ہوئے۔⁵

1 اس واقعہ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے رجوع کریں: مسعودی، التنبیہ والاشراف، ص ۱۸۱-۱۷۲؛ ڈاکٹر محمد ابراہیم آیتی، تاریخ پیغمبر اسلام (ط ۲) انتشارات دانشگاه تهران (۱۳۹۱)، ص ۲۷-۲۶۔

2 مسعودی، غزشتہ حوالہ، ص ۲۷۔

3 شیخ طوسی، الامالی، (قم: دار الشفاء، ط ۱۳۱۴ھ، ق) ص ۸۲-۸۰؛ بیہقی، غزشتہ حوالہ، ص ۹۷-۹۴؛ ابن ہشام، غزشتہ حوالہ، ص ۵۵-۴۴؛ بلاذری، غزشتہ حوالہ، ص ۹۶-۹۷؛ محمد بن حبیب بغدادی، المنعم فی اخبار قریش، تحقیق: خورشید احمد فارق (بیروت: عالم الکتاب، ط ۱۴۰۵ھ، ق) ص ۷۷-۷۰۔

4 ہاتھیوں کے لشکر کے واقعہ سے پہلے قریش قصی (جو کہ ایک بڑی اور نامور شخصیت تھی اور جس نے پہلی بار قریش کو قدرت مند بنایا) کو تاریخ کی شروعات قرار دیتے تھے (ابن واضح، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۴)۔

5 کلیئ، اصول الکافی (تہران: دار الکتاب الاسلامیہ، ۱۳۸۱ھ، ق) ج ۱، ص ۴۳۹؛ ابن واضح، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۴؛ مسعودی، مروج الذهب، ج ۲، ص ۲۷۴؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۵، ص ۲۵۲-۲۵۰؛ حلبی، غزشتہ حوالہ، ص ۹۵؛ بیہقی، غزشتہ حوالہ، ص ۷۳-۷۲؛ ابن کثیر، السیرۃ النبویہ، ج ۱، ص ۲۰۱؛ محمد بن سعد، طبقات الکبریٰ، ج ۱، ص ۱۰۱؛ ابن اثیر، اسد الغابہ، ج ۱، ص ۱۴؛ ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۱، ص ۱۶؛ الشیخ عبدالقادر بدران، تہذیب تاریخ دمشق (بیروت: دار احیاء التراث العربی، ط ۱۴۰۷ھ، ق) ج ۱، ص ۲۸۲؛ ابن اسحاق، السیر والمغازی، تحقیق: سہیل زکار (بیروت: دار الفکر، ط ۱۳۹۸ھ، ق) ص ۶۱۔

یہ واقعہ بعض قرائن اور شواہد کے لحاظ سے جیسے حضرت محمدؐ کی ہجرت، جو کہ ۶۲۲ء اور آپ کی وفات ۶۳۲ء میں (۶۰ یا ۶۳) سال کی عمر میں ہوئی ہی اور یہ واقعہ تقریباً ۵۶۹ھ، ۵۷ھ کے بیچ میں رونما ہوا ہے۔¹

اس سلسلہ میں کہ کیا آنحضرتؐ کی ولادت ٹھیک اسی عام الفیل میں ہوئی یا اس سے پہلے یا بعد میں اور نیز عام الفیل کو عیسوی سالوں سے مطابقت کرنے میں دوسرے نظریات اور احتمالات بھی ذکر ہوئے ہیں کہ جس کے نقل کرنے کی اس کتاب میں ضرورت نہیں ہے۔²

کم سنی اور رضاعت کا زمانہ

حضرت محمدؐ ابھی دو مہینے کے تھے کہ آپ کے پدر بزرگوار جناب عبداللہ، ملک شام سے تجارتی سفر کی واپسی میں، شہر یثرب میں انتقال فرما گئے اور وہیں پر آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔⁴

قرآن کریم نے ان کی یتیمی کو اس انداز میں بیان کیا ہے: ”کیا اس نے تم کو یتیم پاکر پناہ نہیں دی ہے اور کیا تم کو گم گشتہ پاکر منزل تک نہیں پہنچایا اور تم کو تنگ دست پاکر غنی نہیں بنایا؟“⁵

1 علی اکبر فیاض، تاریخ اسلام، (تہران: انتشارات تہران یونیورسٹی، ط ۳، ۱۳۶۷) ص ۷۲؛ عباس زریاب، سیرہ رسول اللہ (پہلے حصہ سے ہجرت کے آغاز تک) (تہران: سروش، ط ۱، ۱۳۷۰) ص ۸۷-۸۶؛ سید جعفر شہیدی، تاریخ تخلیلی اسلام تا پایان امویان (تہران: مرکز نشر یونیورسٹی، ط ۱، ۱۳۶۹) ص ۷۳۔
2 مزید معلومات کے لئے رجوع کریں: محمد ختم پیامبران، ج ۱، ص ۷۷-۷۶؛ مقالہ سید جعفر شہیدی، رسولی ملاحی، در سہای از تاریخ تخلیلی اسلام (قم: ماہنامہ پاسدار اسلام ۱۴۰۵ھ، ق) ج ۱، ص ۱۰۷ کے بعد؛ ابن کثیر، السیرۃ النبویہ، ج ۱، ص ۲۰۳؛ تہذیب تاریخ دمشق، ج ۱، ص ۲۸۲-۲۸۱؛ سید حسن تقی زادہ، از پر ویز تاجنگیز (تہران: کتابفروشی فروغی، ۱۳۴۹) ص ۱۵۳؛ حسین مونس، تاریخ قریش (الدار السعدی، ط ۱، ۱۴۰۸ھ، ق) ص ۱۵۹-۱۵۳؛ اس کے علاوہ بعض یورپی مورخین اسلامی کتابوں میں ابرہہ کی لشکر کشی کا مقصد دینی جذبہ اور کعبہ اور یمن میں قلیں معبد کے درمیان رقابت کو بتایا ہے، ملکوں کی فتح اور ابرہہ کا حملہ ایران جزیرۃ العرب کے شمالی راستے سے حکومت روم کے اکسانے پر بتایا گیا ہے؛ فیاض گزشتہ حوالہ، ص ۶۲؛ ابوالقاسم پایندہ، مقدمہ ترجمہ فارسی قرآن مجید، ص ۷۳-۷۲) جس کے بارے میں الگ سے بحث اور تحقیق کی ضرورت ہے جو اس کتاب کے حجم سے باہر ہے۔

3 کلینی، گزشتہ حوالہ، ص ۴۳۹؛ ابن واضح، گزشتہ حوالہ، ص ۶؛ ابوالفتح محمد بن علی الکراچی، کنز الفوائد (قم: دار الذخائر، ط ۱، ۱۴۱۰ھ، ق) ج ۲، ص ۱۶۷؛ حضرت محمدؐ کا سن باپ کے مرنے کے سال، سات مہینے اور ۲۸ روز بھی لکھا ہے۔ (محمد بن سعد، طبقات الکبریٰ، (بیروت: دار صادر، ج ۱، ص ۱۰۰)، بعض مورخین نے، حضرت عبداللہ کی وفات کو حضرت رسول اسلامؐ کی ولادت کے قبل ہی تحریر کیا ہے۔ (ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ۱۰۰-۹۹؛ ابن اثیر، اسد الغابہ، ج ۱، ص ۱۳؛ ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۱، ص ۱۶۷؛ الشیخ عبدالقادر بدران، تہذیب تاریخ دمشق، تالیف ابن عساکر (بیروت: دار احیاء التراث العربی، ط ۳، ۱۴۰۷ھ، ق) ج ۱، ص ۲۸۴) لیکن بعض اسناد و شواہد، پہلی روایت کی تائید کرتے ہیں ان میں سے عبدالطلب کے اشعار بھی ہیں جو اسی مطلب پر دلالت کرتے ہیں:

اوصیکم یا عبد مناف بعدی بمفرد ید ابیہ فرد

فارقہ وبو ضحیح المہد فکنت کالام لہ فی المجد

(تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۰؛ رجوع کریں: ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب (قم: المطبعة العلمیہ) ج ۱، ص ۳۶)۔

4 تہذیب تاریخ دمشق، ج ۱، ص ۲۸۲؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۹۹؛ مسعودی، التنبیہ والاشراف، ص ۱۹۶؛ محمد بن جریر الطبری، تاریخ الامم والملوک، (بیروت: دار القاموس الحدیث) ج ۲، ص ۱۷۶؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، (بیروت: دار صادر) ج ۲، ص ۱۰۔

5 سورہ نخی، آیت ۸-۶۔

آمنہ کے لال نے ولادت کے ابتدائی دنوں میں اپنی ماں کا دودھ پیا¹ اور اس کے بعد تھوڑے دن تک (ابولہب کی آزاد شدہ کنیز) ثوبیہ نے اپنا دودھ پلایا۔²

اس دور میں رسومات عرب³ کے مطابق آپ کو حلیمہ سعدیہ نامی دایہ کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ قبیلہ بنی سعد بن بکر سے تعلق رکھتی تھیں اور دیہات⁴ میں زندگی بسر کرتی تھیں۔ دایہ حلیمہ نے دو سال تک آپ کو دودھ پلایا⁵ اور پانچ سال تک پرورش کی اس کے بعد آپ کے گھر والوں کے سپرد کر دیا۔⁶

ایک نومولود بچہ کو کسی بادیہ نشین کے سپرد کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کی پرورش صحرا کی پاک و صاف اور کھلی فضا میں ہو اور مکہ میں ”وبا“ کی بیماری کے خطرے سے دور رہے۔⁷

اس کے علاوہ بدو قبیلوں کے درمیان زبان کی فصاحت و بلاغت اور خالص اصیل عربی سے آگاہی بھی ایک اہم چیز تھی جو بعض ہم عصر مورخین کی طرف سے بیان ہوئی ہے۔⁸

1 تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۶؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۳۳۔

2 تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۶؛ طبرسی، اعلام الوری، ص ۶؛ بیہقی، گزشتہ حوالہ، ص ۱۱۰؛ ابن اثیر، اسد الغابہ، ج ۱، ص ۱۵؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۵، ص ۳۸۴۔

3 حلبی، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۳۶۔

4 تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۷؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ۱۷۱؛ محمد بن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ۱۱۰؛ مسعودی، التنبیہ والاشراف، ص ۱۹۶؛ مروج الذهب، ج ۲، ص ۲۷۴؛ طبرسی، اعلام الوری، ص ۶؛ بیہقی، گزشتہ حوالہ، ص ۱۰۲-۱۰۱؛ ابن کثیر، السیرۃ النبویہ، ج ۱، ص ۲۲۵؛ ابن اسحاق، السیر والمغازی، تحقیق: سہیل زکار، ط ۱، ۱۳۹۸ھ، ق، ص ۳۹۔

5 بلاذری، انساب الاشراف، تحقیق: محمد حمید اللہ (قاہرہ: دار المعارف)، ج ۱، ص ۹۴؛ مقدسی، البدء والتاریخ، ط پیرس، ۱۴۰۳ء، ج ۴، ص ۱۳۱؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۵، ص ۴۰۱؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۱۲۔

6 تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۷؛ ابن شہر آشوب، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۳؛ بلاذری، گزشتہ حوالہ، ص ۹۴؛ مسعودی، مروج الذهب، ج ۲، ص ۷۵۔

7 ابن ابی الحدید، شرح نہج البلاغہ، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراہیم (قاہرہ: دار احیاء الکتب العربیہ، ۱۹۶۱ء)، ج ۱۳، ص ۲۰۳؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ص ۴۰۱۔

8 جعفر سبحانی، فروغ ابدیت (قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزہ قم، ط ۵، ۱۳۶۸ء)، ج ۱، ص ۱۵۹؛ سید جعفر مرتضیٰ العالی، الصحیح من سیرۃ النبی الاعظم (قم: ۱۴۰۰ھ، ق)، ج ۱، ص ۸۱۔

پیغمبر اکرم کا ایک جملہ جو اس موضوع کی مناسبت سے نقل ہوا ہے جو شاید اس مقصد کے لئے شاید قرار پائے، یہ ہے:

”میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں کیونکہ میں قرشی ہوں اور میں نے قبیلہ بنی سعد بن بکر میں دودھ بھی پیا ہے“¹

بعض تاریخی کتابوں میں جناب حلیمہ کو دایہ کے طور پر انتخاب کرنے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ چونکہ حضرت محمدؐ یتیم تھے لہذا کوئی دایہ آپ کو لینے کے لئے تیار نہیں ہوئی کیونکہ دائیاں دودھ پلانے کے عوض بچہ کے باپ سے اجرت لیتی تھیں اور چونکہ اس وقت دائی حلیمہ کو مکہ میں کوئی بچہ نہیں ملا تھا لہذا حضرت محمدؐ کو یتیم ہونے کے باوجود مجبوراً رضاعت کے لئے قبول کر لیا۔² لیکن دایوں کی طرف سے محمدؐ کو یتیمی کی خاطر قبول نہ کرنے کی وجہ قابل قبول نظر نہیں آتی۔ کیونکہ:

۱۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ بعض کتابوں میں نقل ہوا ہے کہ جناب عبد اللہ کا انتقال، حضرت رسول خدا کی ولادت کے چند مہینے بعد ہوا ہے اس لحاظ سے وہ اس وقت یتیم نہیں ہوئے تھے۔

۲۔ جناب عبد المطلب کی عظیم شخصیت اور مکہ میں ان کا بلند مقام اور درجہ اور ان کی دولت و ثروت کو دیکھتے ہوئے نہ صرف دایوں نے لینے سے انکار نہ کیا ہو گا بلکہ ایسے خاندان کے بچہ کی رضاعت کے لئے آپس میں جھگڑا کرتی ہوں گی۔

۳۔ بہت ساری تاریخی کتابوں میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے لیکن یہ بات کہیں نہیں ذکر ہے۔³ و⁴

والدہ کا انتقال اور جناب عبد المطلب کی کفالت

جناب آمنہ دائی حلیمہ سے اپنے بچہ کو لینے کے بعد ام ایمن (جناب عبد اللہ کی کنیر) کے ساتھ ایک قافلہ کے ہمراہ مدینہ گئیں تاکہ اپنے شوہر جناب عبد اللہ کی قبر پر جا کر حاضری دے سکیں اور آپ کے ماموؤں سے ملاقات کر سکیں۔⁵

1 انا عمر بن ابی قریظی واستر ضعت فی بنی سعد بن بکر (ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۱، ص ۱۷۶۔ اور رجوع کریں: ابن سعد، مغازی، ج ۱، ص ۱۱۳؛ حلبی، مغازی، ج ۱، ص ۱۴۶؛ ابو سعید واعظ، خرگوشی، شرف النبی، ترجمہ: نجم الدین محمود راوندی (تہران: انتشارات بابک، ۱۳۶۱)، ص ۱۹۶۔

کہا جاتا ہے کہ جس زمانہ میں حضرت محمدؐ حلیمہ کے پاس دیہات میں رہ رہے تھے واقعہ شق صدر پیش آیا۔ لیکن تاریخ اسلام کے محققین اور تجزیہ نگاروں نے متعدد دلیلوں کی بنا پر اس موضوع کو حقیقت سے دور اور من گڑھت گردانا ہے۔ (رجوع کریں: سید جعفر مرتضیٰ العالی، الصحیح من سیرۃ النبی الاعظم، ج ۱، ص ۸۲؛ سید ہاشم رسولی محلاتی، تاریخ تحلیلی اسلام کے دروس، ج ۱، ص ۸۹ و ۲۰۴؛ شیخ محمد ابویہ، أضواء علی السیرۃ المحمدیہ (مطبعة صور الحدیث، ط ۲، ھ. ق)، ج ۱، ص ۱۷۷۔ ۱۷۵۔

2 ابن ہشام، مغازی، ج ۱، ص ۱۷۲۔ ۱۷۱؛ بلاذری، مغازی، ج ۱، ص ۹۳؛ ابن سعد، مغازی، ج ۱، ص ۱۱۰۔ ۱۱۱۔

3 منجملہ ایک بزرگ اور نامور محدث ابن شہر آشوب نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے لیکن حضرت محمدؐ کی یتیمی کے موضوع کو جس طرح سے بیان کیا گیا ہے اس میں نہیں ہے (مناقب آل ابی طالب، ج ۱، ص ۳۳)۔

4 پیغمبر اسلام کی رضاعت کا مسئلہ چاہے حلیمہ سعدیہ کے ذریعہ ہو یا دیگر کنیروں کے ذریعہ محل اختلاف ہے، شیعہ محققین نے اسے قبول نہیں کیا ہے۔ مترجم۔

5 عبد المطلب کی ماں سلمیٰ، مدینہ کی رہنے والی تھیں اور بنی نجار سے تعلق رکھتی تھیں۔ (بیہقی، مغازی، ج ۱، ص ۱۲۱)

مدینہ میں ایک ماہ قیام کے بعد مکہ پہنچنے وقت مقام ابواء میں آپ کا انتقال ہو گیا اور وہیں آپ کو دفن کر دیا گیا اس وقت حضرت رسول خداؐ چھ سال کے تھے۔¹

ام ایمن قافلہ کے ساتھ آپ کو مکہ لے کر آئیں اور جناب عبدالمطلب کے حوالہ کر دیا۔²

جناب عبدالمطلب نے آپ کی سرپرستی اور کفالت کی ذمہ داری اپنے سر لے لی، اور جب تک وہ زندہ رہے اپنے پوتے کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرتے رہے اور آپ پر ان کی نظر عنایت ہوتی تھی اور کہتے تھے کہ یہ بلند مقام پائے گا۔³

جناب عبدالمطلب کا انتقال اور جناب ابوطالب کی سرپرستی

حضرت رسول خداؐ آٹھ سال کے تھے کہ آپ کے دادا جناب عبدالمطلب کا انتقال ہو گیا اور آپ کی کفالت کی ذمہ داری جناب ابوطالب کو سونپ دی۔ جناب ابوطالب اور جناب عبد اللہ (رسول خدا کے پدر بزرگوار) ایک ہی ماں سے تھے۔⁴

اس وقت جناب ابوطالب کی مالی حالت اچھی نہیں تھی وہ کثیر العیال اور تنگ دست تھے۔⁵ لیکن وہ ایک بہادر، باعزت، قابل احترام⁶ اور قریش کے درمیان بلند درجہ رکھتے تھے۔⁷ وہ محمدؐ کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ یہاں تک کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ انھیں عزیز رکھتے تھے۔⁸

فاطمہ بنت اسد نے بھی آپ کی پرورش اور سرپرستی میں اہم کردار ادا کیا اور اس سلسلے میں بہت زیادہ زحماتیں اٹھائیں وہ نہ صرف محمدؐ کو ایک مہربان ماں کی طرح چاہتی تھیں بلکہ آپ کو اپنے بچوں پر ہمیشہ مقدم رکھتی تھیں۔ حضرت محمدؐ کبھی بھی ان کی زحماتوں کو فراموش نہیں کرتے تھے اور ہمیشہ اپنی ایک ماں کی طرح انھیں یاد فرماتے تھے۔⁹

1 ابن اسحاقؒ، گزشتہ حوالہ، ص ۶۵؛ بلاذریؒ، گزشتہ حوالہ، ص ۹۴؛ ابن سعدؒ، گزشتہ حوالہ، ص ۱۱۶؛ ابن ہشامؒ، گزشتہ حوالہ، ص ۱۷۷؛ بیہقیؒ، گزشتہ حوالہ، ص ۱۲۱؛ طبریؒ، گزشتہ حوالہ، ص ۹؛ صدوقؒ، کمال الدین و تمام النعمہ، تصحیح علی اکبر الغفاری (قم: مؤسسۃ النشر الاسلامی، ۱۳۶۳)، ج ۱، ص ۱۷۲؛ تاریخ یعقوبیؒ، ج ۲، ص ۷؛ الشیخ عبدالقادر بدران، تہذیب تاریخ دمشق، ج ۱، ص ۲۸۳۔

2 حلبیؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۷۲۔

3 ابن ہشامؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۷۸؛ صدوقؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۷۱؛ مجلسیؒ، گزشتہ حوالہ، ص ۴۰۶؛ تاریخ یعقوبیؒ، ج ۲، ص ۹۔

4 ابن ہشامؒ، گزشتہ حوالہ، ص ۱۸۹؛ مجلسیؒ، گزشتہ حوالہ، ص ۴۰۶؛ طبریؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۱۹۴۔

5 تاریخ یعقوبیؒ، ج ۲، ص ۱۱؛ ابن سعدؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۱۹؛ مجلسیؒ، گزشتہ حوالہ، ص ۴۰۷؛ سبکیؒ، الروض الالنف (قاہرہ: مؤسسۃ المختار)، ج ۱، ص ۱۹۳۔

6 تاریخ یعقوبیؒ، ج ۲، ص ۱۱؛ جواد علیؒ، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام (بیرت: دار العلم للملایین، ۱۹۶۸ء)، ج ۴، ص ۸۲۔

7 ابن ابی الحدیدؒ، شرح نہج البلاغہ، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراہیم (قاہرہ: دار احیاء الکتب العربیہ، ۱۹۶۲ء)، ج ۱۵، ص ۲۱۹۔

8 ابن سعدؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۱۹؛ ابن شہر آشوبؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۶؛ مجلسیؒ، گزشتہ حوالہ، ص ۴۰۷؛ شیخ عبدالقادر بدران، تہذیب تاریخ دمشق، ج ۱، ص ۲۸۵۔

9 تاریخ یعقوبیؒ، ج ۲، ص ۱۱؛ ابن ابی الحدیدؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۴؛ مقدمہ اصول کافی، ج ۱، ص ۴۵۳۔

شام کا سفر اور راہب کی پیشین گوئی

ایک سال جناب ابوطالب قریش کے قافلہ کے ساتھ تجارت کے لئے شام گئے تو حضرت محمدؐ کی خواہش اور اصرار پر (مورخین کے اختلاف کے مطابق اس وقت آپ کی عمر ۸، ۹، ۱۲ یا ۱۳ سال کی تھی) آپ کو اپنے ہمراہ لے گئے جس وقت قافلہ مقام بصری^۱ پر پہنچا تو ایک معبد کے کنارے آرام کی غرض سے رک گیا، اس معبد میں ”بحیرا“ نام کا ایک راہب رہتا تھا، جو عیسائیوں کا بزرگ پادری تھا۔ جب مجمع کے درمیان اس کی نظر ابوطالب کے بھتیجے محمدؐ پر پڑی تو اس کی خاص توجہ کا مرکز بن گئی اس لئے کہ وہ پیغمبر موعود کی بعض نشانیوں سے آگاہ تھا۔ جب اس نے ان نشانیوں کو محمدؐ کے اندر دیکھا تو اس نے آپ سے مختصر گفتگو اور سوالات کے بعد آپ کے آئندہ ”نبی“ ہونے کے بارے میں خبر دیدی اور جناب ابوطالب سے تاکید کی کہ اس بچہ کا خاص خیال کریں اور اس کو یہود کے شر سے محفوظ رکھیں۔^۲

اس واقعہ کے سلسلہ میں چند نکات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے :

۱۔ یہ واقعہ بعض تاریخی اور حدیثی کتابوں میں مختصر انداز میں اور بعض دوسری کتابوں میں بطور مفصل نقل ہوا ہے۔ لیکن اصل واقعہ میں کسی قسم کی شک و تردید نہیں پائی جاتی کیونکہ قرآن مجید نے متعدد آیات میں حضرت محمدؐ کی بعثت کے سلسلہ میں گزشتہ پیغمبروں کی پیشین گوئیوں کو نقل کر کے آنحضرتؐ کی ذات اور نشانیوں کے سلسلہ میں علمائے اہل کتاب کی آگاہی اور معرفت کی تائید کی ہے۔^۳ اور اسی طرح اہل کتاب کی متعدد پیشین گوئیاں پیغمبر اسلامؐ کی بعثت کے سلسلہ میں تاریخ و حدیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں۔^۴

1 دمشق کے علاقہ میں حوران سرزمین کا ایک قصبہ ہے (یا قوت حموی، معجم البلدان، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۳۹۹ھ، ج ۱، ص ۴۲۱)۔
2 اس واقعہ کو اسلامی مورخین و محدثین نے مندرجہ ذیل کتابوں میں نقل کیا ہے: ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۱، ص ۱۹۳-۱۹۱؛ محمد بن جریر طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج ۲، ص ۱۹۵؛ سنن ترمذی، ج ۵؛ المناقب، باب ۳، ص ۵۹۰؛ المناقب، باب ۳، ص ۵۹۰؛ حدیث ۲۶۲۰؛ ابن اسحاق، السیر و المغازی، تحقیق: سہیل زکار، ص ۷۳؛ محمد بن سعد، طبقات الکبریٰ، ج ۱، ص ۱۲۱؛ مسعودی، مروج الذهب، ج ۲، ص ۲۸۶؛ صدوق، کمال الدین و تمام النعمہ، ج ۱، ص ۱۸۶-۱۸۲؛ بلاذری، انساب الاشراف، ج ۱، ص ۹۶؛ بیہقی، دلائل النبوة، ترجمہ محمود مہدی دامغانی، ج ۱، ص ۱۹۵؛ طبری، اعلام الوری، ص ۱۸-۱۷؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج ۱، ص ۳۹-۳۸؛ ابن اثیر، الکامل فی التاريخ، ج ۲، ص ۲۷؛ ابن اثیر، اسد الغابہ، ج ۱، ص ۱۵؛ شیخ عبدالقادر بدران، تہذیب تاریخ دمشق (تالیف حافظ ابن عساکر)، ج ۱، ص ۷۰-۷۱؛ ابن کثیر، سیرۃ النبی، ج ۱، ص ۱۹۱؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۵، ص ۳۰۹۔

3 سورۃ بقرہ، آیت ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴؛ سورۃ اعراف، آیت ۱۵۷؛ سورۃ انعام، آیت ۲۰؛ سورۃ صف، آیت ۶۔

4 رجوع کریں: جعفر سبحانی، راز بزرگ رسالت (تہران: کتابخانہ مسجد جامع تہران، ۱۳۵۸)، ص ۷۸-۷۹؛ پیغمبر اسلامؐ کے سلسلہ میں گزشتہ پیغمبروں کی پیشین گوئیوں کے بارے میں مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں سے ذیل کی تین کتابوں کو نمونہ کے طور پر ذکر کیا جاسکتا ہے۔ محمد درتورات و انجیل تالیف: پروفیسر عبدالاحد داؤد؛ ترجمہ فضل اللہ نیک آئین؛ مدرسہ سیر تالیف: شیخ محمد جواد بلاغی؛ ترجمہ: ع۔ و؛ انیس الاعلام، تالیف: فخر الاسلام۔

۲۔ حضرت محمدؐ کے بارے میں علمائے اہل کتاب کی کتابوں میں جو علامتیں اور نشانیاں تھیں ان میں سے کچھ آپ کی ذاتی زندگی اور جسمانی خصوصیات کے بارے میں تھیں (جیسے عرب ہونا ایک با عظمت خاتون سے شادی کرنا وغیرہ) آنحضرتؐ کی جسمانی نشانیوں میں سے سب سے نمایاں نشانی یہ تھی کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان ایک بڑا تِل تھا جس کو ”خال نبوت“ یا ”مہر نبوت“ کہا گیا ہے۔¹

۳۔ بحیراراہب کی پیشین گوئی صرف قافلہ والوں کے لئے نئی بات تھی ورنہ جناب ابوطالب بلکہ حضرت محمدؐ کے تمام قریبی رشتہ دار آپ کے درخشندہ مستقبل سے باخبر تھے۔²

عیسائیوں کے ذریعہ تاریخ میں تحریف

بعض عیسائی مورخین نے حضرت محمدؐ سے بحیرا کی ملاقات کے واقعہ میں تحریف کی ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت محمدؐ نے اس ملاقات میں بحیراراہب سے تورات اور انجیل کی تعلیمات حاصل کیں۔³

ویلڈورنٹ نے نرم لہجے میں اس بے بنیاد دعوے کی طرف اشارہ کیا ہے :

... آپ کے چچا ابوطالب آپ کو ۱۲ سال کی عمر میں اپنے ساتھ ایک قافلہ کے ہمراہ شام کے شہر بصریٰ تک لیکر گئے، یہ بعید نہیں ہے کہ اس سفر میں آپ دین یہود اور آئین عیسیٰ کی بعض تعلیمات سے آگاہ ہوئے ہوں۔⁴

اس تہمت اور تحریف کا ہمیں اس طرح جواب دینا چاہئے :

۱۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ محمد امی تھے اور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔

۲۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر ۱۲ سال سے زیادہ نہیں تھی۔

۳۔ بحیرا کے دیدار اور آپ کی بعثت کے درمیان کافی عرصے کا فاصلہ تھا۔

۴۔ بحیرا سے آپ کی ملاقات بہت مختصر ہوئی تھی اس دوران اس نے کچھ سوالات کئے اور آپ نے ان کے جوابات دیئے۔

1 ابن ہشام مگزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۹۳؛ بیہقی مگزشتہ حوالہ، ص ۱۹۵؛ سنن ترمذی، تحقیق: ابراہیم عطوہ عوض (بیروت: دار احیاء التراث العربی)، ج ۵، المناقب، باب ۳، ص ۵۹۰، حدیث ۲۶۲۰؛ شیخ عبدالقادر بدران، تہذیب تاریخ دمشق، ج ۱، ص ۲۷۸؛ ابن کثیر، سیرۃ النبی، ج ۱، ص ۲۴۵؛ صحیح بخاری، تحقیق: الشیخ قاسم الشعمی الرفاعی، ج ۵، ص ۲۸، باب ۲۳، حدیث ۷۱۔

2 تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۱؛ بلاذری، انساب الاشراف، ج ۱، ص ۸۱؛ اصول کافی، ج ۱، ص ۳۷۔

3 گوستا ولوبون، تمدن اسلام و عرب، ترجمہ: سید ہاشم حسینی، ص ۱۰۱؛ اجناس گلدزیہر، العقیدۃ والشریعۃ فی الاسلام، ترجمہ عربی (قاہرہ: دار الکتب حدیثہ، ط ۲)، ص ۲۵؛ محمد غزالی، محاکمہ گلدزیہر صہیونیست، ترجمہ صدر بلاغی (تہران: حسینۃ ارشاد، ۱۳۶۳)، ص ۷۷؛ کارل بروکلمان، تاریخ الشعوب الاسلامیہ، ترجمہ عربی بہ قلم نبیہ امین فارس (اور) منیر البعلبکی، (بیروت: دار العلم للملایین، ط ۱۹۸۸)، ص ۳۴؛ اسی طرح رجوع کریں: خیانت در گزارش تاریخ، ج ۱، ص ۲۲۵-۲۲۰۔

4 تاریخ تمدن، عصر ایمان، (بخش اول) ترجمہ ابوطالب صاری اور ان کے ساتھی (تہران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ط ۲، ۱۳۶۸)، ص ۲۰۷۔

اس بنا پر یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ ایک بچہ جس نے مدرسے میں تعلیم حاصل نہ کی ہو وہ ایک مختصر ملاقات میں کیسے توریت و انجیل کی تعلیمات حاصل کر سکتا ہے کہ جسے چالیس سال کے بعد ایک کامل شریعت کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرے؟

۵۔ اگر حضرت محمدؐ نے راہب سے کچھ سیکھا ہوتا تو بہانہ باز ضدی اور ہٹ دھرم قریش اس کو محمدؐ کے خلاف تبلیغ کرنے میں دستاویز قرار دیتے جبکہ تاریخ اسلام میں ہمیں اس طرح کی کوئی بات نظر نہیں آتی ہے اور نہ ہی قرآن مجید میں جہاں قریش کی تہمتوں کا جواب دیا گیا ہے وہاں پر اس موضوع کے بارے میں کوئی تذکرہ ہوا ہے۔

۶۔ اگر اس طرح کی کوئی بات صحیح تھی تو اسے قافلہ والوں نے کیوں نہیں نقل کیا؟

۷۔ اگر حقیقت میں اس طرح کا کوئی دعویٰ تھا تو شام کے مسیحیوں نے کیوں نہیں نقل کیا اور یہ دعویٰ کیوں نہ کیا کہ ہم محمدؐ کے استاد تھے؟

۸۔ اور اگر یہ دعویٰ صحیح مان لیا جائے تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ اسلام کی تعلیمات اور توریت و انجیل کی تعلیمات میں یکسانیت ہو اور نہ صرف یہ کہ ان کی تعلیمات میں یکسانیت نہیں پائی جاتی بلکہ قرآن کریم نے یہودیوں اور عیسائیوں کے بہت سارے عقائد اور توریت و انجیل کی بہت ساری تعلیمات کو نقل کر کے انھیں باطل قرار دیا ہے۔¹

ایک روز عمرو بن خطاب پیغمبر اسلامؐ سے، یہودیوں سے سنی ہوئی حدیثوں کو لکھنے کی اجازت مانگی تو آپؐ نے فرمایا: ”کیا تم یہود و نصاریٰ کے مانند اپنے دین کے بارے میں پریشان اور سرگرداں ہو؟ یہ نورانی اور پاک دین میں تمہارے لئے لیکر آیا ہوں اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ صرف میری پیروی کرتے۔“²

پیغمبر اسلامؐ مدینے میں (جہاں بہت سے یہودی رہتے تھے) بہت سارے احکام اور پروگراموں میں یہودیوں کی مخالفت کرتے تھے۔³ یہاں تک کہ وہ (یہودی) کہنے لگے۔ یہ شخص ہمارے سارے پروگراموں کی مخالفت کرنا چاہتا ہے۔“⁴

عیسائیوں کے درمیان جس شخص نے اس بات کو اسلام کے خلاف جھوٹ، افتراء پر دازی اور زہر گھولنے کا بہانہ اور دستاویز قرار دیا وہ کونستان ویرٹیل گیورگیو ہے جس نے اس بات کو اس قدر مسخ اور تحریف شدہ نقل کیا ہے وہ نہ صرف یہ کہ کسی معیار سے تناسب نہیں رکھتا بلکہ خود عیسائیوں کے دعوے سے مناسبت نہیں رکھتا ہے، وہ کہتا ہے:

”ابن ہاشم۔ عرب کاراوی۔ لکھتا ہے: بحیرہ [؟] لوگوں کے تصور کے برخلاف عیسائی نہیں تھا بلکہ مانوی تھا اور ایک سن رسیدہ شخص کا پیرو تھا جس کا نام مانی تھا اور اس نے ساسانیوں کے دور حکومت میں پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا اور ساسانیوں کے پہلے بادشاہ، بہرام اول نے اسے ۲۷۷ء میں خوزستان میں گندی شاپور کے دروازہ کے سامنے سولی پر چڑھوا دیا تھا۔“

1 سورہ نساء، آیت ۵۱، ۵۲، ۵۳؛ سورہ مائدہ، آیت ۷۲، ۷۳؛ سورہ توبہ، آیت ۳۰۔

2 شیخ عباس قمی، سفینۃ البحار، ج ۲، ص ۷۲، لفظ ”ہوک“؛ محمد الدین ابن اثیر، النہایہ فی غریب الحدیث والاثار، ج ۵، ص ۲۸۲، وہی الفاظ تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ۔

3 مرتضیٰ العالی، الصیح من سیرۃ النبی الاعظم (قم: ۱۴۰۳ھ، ق)، ص ۱۰۶۔

4 حلبی، غزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۳۳۲۔

مانی جس نے پیغمبری کا دعوا کیا تھا اس کے پیروکاروں میں سے بکیرہ بھی تھا جو یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ خدا ایک قوم سے مخصوص نہیں ہے بلکہ دنیا کی ساری قوموں سے تعلق رکھتا ہے۔

اور چونکہ دنیا کی ساری قومیں اس سے وابستہ ہیں لہذا خداوند جس قوم میں جب چاہتا ہے ایک پیغمبر مبعوث کر دیتا ہے جو اسی قوم کی زبان میں لوگوں سے باتیں کرے۔¹

بظاہر اس کی ابن ہشام سے مراد عبدالملک بن ہشام (م ۲۱۳ھ ق) معروف کتاب ”السیرۃ النبویہ“ کے مؤلف ہیں جو تاریخ اسلام کا ایک مہم ماخذ ہے لیکن کلمہ مانوی کا ذکر نہ صرف سیرۃ ابن ہشام میں بلکہ کسی بھی قدیمی اسلامی کتاب میں نہیں ملتا ہے اس شخص کو تاریخ کی کتابوں میں مسیحی (اور بہت کم یہودی) کہا گیا ہے اور خود موضوع بحث سے بھی اس کے مسیحی ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ گیورگیو نے یہ باتیں کہاں سے نقل کی ہیں؟!

اس کے علاوہ دین مانی کا شام میں کوئی پیرو نہیں تھا اور جیسا کہ ہم نے (جزیرۃ العرب) میں ادیان و مذاہب کے تجزیہ کے باب میں یہ کہا ہے کہ دین مانی کا مرکز ایران تھا۔ لہذا ہمیں ایک محقق کے کہنے کی بنا پر، یہ سوچنے کا حق ہے کہ بکیرا کے مانوی ہونے کا دعوا صرف اس بنا پر تو نہیں ہے کہ خداوند عالم کی توحید اور اسلام کے عالمی دین ہونے کے مسئلہ میں مانی کی تقلید تو نہیں کی جا رہی ہے؟

یہ وہ چیزیں ہیں جس کی مثال ہمیں گزشتہ صدیوں میں مسیحیوں سے بہت دیکھنے کو ملی ہیں اور ان کے لئے یہ بات اہمیت نہیں رکھتی کہ بلند ترین فکر کو وہ منسوخ ادیان کی طرف نسبت دیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان ادیان کے ماننے والے زیادہ نہیں ہیں تاکہ ان کے لئے یہ چیز باعث افتخار بن سکے۔

صرف اسلام ایک ایسا دین ہے کہ، صلیبی جنگ کو سیکڑوں سال گزرنے کے باوجود، جس سے آج بھی عیسائی پریشان اور خوف زدہ ہیں۔ لہذا ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ جھوٹ اور سچ ہر طریقے سے اس دین کی تعلیمات کی عظمت کو لوگوں کی نظروں میں کم کریں۔²

لیکن اس بات پر توجہ رہے کہ اگر بالفرض اس واقعہ کی ہم نفی بھی کریں تو عظمت پیغمبرؐ میں کوئی کمی نہیں واقع ہوگی کیونکہ بعثت اور پیغمبر موعود کے ظہور کی پیشین گوئیاں صرف اس مسئلہ میں منحصر نہیں ہیں لیکن جیسا کہ متن میں کہا گیا ہے کہ چونکہ مستشرقین نے اس واقعہ کو جو متون اسلامی میں آیا ہے تاریخ اسلام کی تحریف کا دستاویز قرار دیا ہے۔ لہذا ہم نے بھی ان کی باتوں کو ذکر کر کے اس پر تنقید کی۔

1 محمد پیامبری کہ از نو باید شناخت، ترجمہ: ذبیح اللہ منصوری، ص ۱۰۵، اس کتاب میں بے شمار غلطیاں اور تحریفات ہوئی ہیں جس نے کتاب کی علمی اہمیت کو کم کر دیا ہے۔ مترجم: کے طریقہ کار کی بھی ایک الگ داستان ہے جو اہل فضل و شرف پر مخفی نہیں ہے، رجوع کریں: مجلہ نشر دانش، سال ۸، نمبر ۲، ص ۵۲، مقالہ پدیدہ ای بہ نام ذبیح اللہ منصوری، کریم امالی کے قلم سے۔

2 محمد خاتم پیامبران، ج ۱، ص ۱۸۸، مقالہ سید جعفر شہیدی۔ بعض معاصر ایرانی محققین نے بکیرا کے ساتھ حضرت محمدؐ کی ملاقات میں شک و تردید پیدا کی ہے اور اصل واقعہ کی صحت کے بارے میں بحث کی ہے جو تاریخی لحاظ سے قابل بحث و تحقیق ہے۔ رجوع کریں: نقد و بررسی منابع سیرۃ نبوی (مجموعہ مقالات) پڑ و ہنگدہ حوزہ و دانشگاہ ۸۷، ۱۳: رمضان محمدی، نقد و بررسی سفر پیامبر اکرمؐ بہ شام، ص ۳۳۰-۳۲۱.

تیسری فصل

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی جوانی

حلف الفضول¹

”حلف الفضول“ قریش کے بہترین اور اہم ترین عہد و پیمان میں سے ہے۔² جو قریش کے چند قبیلوں کے درمیان انجام پایا۔ یہ پیمان اس بنا پر انجام پایا کہ قبیلہ بنی زبید کا ایک شخص مکہ آیا اور اس نے عاص بن وائل کا سامان، جو کہ بنی سہم کے قبیلہ سے تھا، فروخت کر دیا۔ عاص نے مال کو لیا لیکن اس کی قیمت نہیں دی زبیدی نے بارہا اس سے مطالبہ کیا لیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا۔

جیسا کہ یہ چیز پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ اس وقت جزیرۃ العرب میں قبیلہ جاتی نظام پایا جاتا تھا۔ اور ہر قبیلہ اپنے افراد کے منافع کی حمایت کرتا تھا۔ اگر کسی پر دیسی پر ظلم ہوتا تھا تو اس کا کوئی ناصر و مددگار اور انصاف کرنے والا نہیں ہوتا تھا۔ جب سرداران قریش، کعبہ کے پاس اکٹھا ہوئے تو زبیدی مجبور ہو کر ”ابو قیس“ پہاڑی کے اوپر گیا اور رنج و مصیبت میں ڈوبے ہوئے اشعار پڑھ کر ان سے انصاف کی فریاد کی۔³

انصاف کی مانگ سن کر زبیر بن عبد المطلب کی سرکردگی اور پیش قدمی میں، بنی ہاشم، بنی عبد المطلب، بنی زہرہ، بنی تمیم، اور بنی حارث (جو کہ قریش کے نامور قبیلہ سے تھا) عبد اللہ بن جدعان تیمی کے گھر میں جمع ہوئے اور عہد و پیمان کیا کہ ہر مظلوم اور ستم دیدہ کی فریاد پر حق و انصاف دلانے کے لئے ایک ہو جائیں اور شہر مکہ میں کسی پر ظلم نہ ہونے دیں، چاہے وہ ان لوگوں سے وابستہ ہو یا کوئی پر دیسی ہو، چاہے وہ

1 جس واقعہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت محمدؐ نے جوانی کے عالم میں اس میں شرکت کی ”جنگ فجار“ ہے اس واقعہ کو حلف الفضول سے پہلے جب آپ کی عمر ۱۴ سے ۲۰ سال کی تھی، نقل کیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ اس جنگ کے سلسلہ میں آپ کی شرکت میں شک پایا جاتا ہے بلکہ ایسے شواہد ملتے ہیں جو اس کی نفی کرتے ہیں لہذا ہم نے اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ (الصحيح من سيرة النبي الا العظيم، ج ۱، ص ۹۷-۹۵؛ درس بابي تحليلي از تاريخ اسلام، ج ۱، ص ۵۰۳-۳۰۳)

2 ابن سعد، طبقات الکبریٰ (بیروت: دار صادر)، ج ۱، ص ۱۲۸؛ محمد بن حبيب، المنق في اخبار قریش، تحقیق خورشید احمد فاروق (بیروت: عالم الکتب، ط ۱، ۱۴۰۵ھ، ق ۱)، ص ۵۲۔

۳ یا آل فہر [یا للرجال خ ل] لمظلوم بضاعته بطن مكة نائي الأهل و النفر و محرم اشعث [شعث خ ل] لم يقض عمرته یا آل فہر و بین الحجر

والحجر بل مخفر من بنی سہم بخفرتہ ام ذاب فی ضالاح مال معتمر ان الحرام لمن تمت حرامته و لا حرام لثوب الفاجر الغدر

فقیر اور معمولی انسان ہو یا ثروتمند اور باعزت۔ اس کے بعد عاص کے پاس جا کر زبیدی کا حق لے کر اسے دیدیا۔¹ حضرت محمدؐ کی عمر اس وقت ۲۰ سال تھی جب آپ اس عہد کے ممبران میں سے تھے۔²

اس عہد و پیمان میں پیغمبر اسلامؐ کی شرکت میں ایک بہادرانہ قدم اور اس جاہل سماج میں ایک طرح سے ”حقوق بشر“ کی حمایت تھی۔ اور اس لحاظ سے یہ اقدام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ آپ کے ہم سن و سال جوان مکہ میں عیش و عشرت اور خوشگزرانی میں سرگرم تھے۔ اور انسانی اقدار جیسے مظلوم کی حمایت، سماج کی تطہیر اور عدالت کا نفاذ ان کے لئے معنی و مفہوم نہیں رکھتا تھا۔ اور آپ قریش کے بزرگوں کے بغل میں کھڑے ہو کر اس طرح کے عہد و پیمان میں شرکت فرماتے تھے۔ اور بعثت کے بعد اپنی اس شرکت کو نیک اور اچھا کہتے تھے اور فرماتے تھے۔

”میں نے عبد اللہ بن جدعان کے گھر میں ایک پیمان میں شرکت کی کہ اگر اس کے بدلے مجھے سرخ بالوں کا اونٹ دیدیا جاتا تو پھر بھی میں اتنا خوش نہ ہوتا۔ اور اگر دور اسلام میں بھی ہمیں اس طرح کے عہد و پیمان کی دعوت دیں تو ہم اسکو قبول کریں گے۔“³

یہ عہد اس لحاظ سے موجود عہدوں میں سب سے اہم اور برتر تھا اور اسے ”حلف الفضول“ کہا گیا ہے۔⁴ یہ عہد ہمیشہ مظلوموں اور بے پناہوں کی پناہ گاہ تھا اور بعد میں بھی کئی مرتبہ مظلوموں اور پردیسوں کو اس پیمان کی مدد سے مکہ کے بد معاشوں اور سرغنہ لوگوں کے چنگل سے رہائی ملی۔⁵ و⁶

1 محمد بن حبیبؒ گزشتہ حوالہ، ص ۵۳-۵۲؛ ابن سعدؒ گزشتہ حوالہ، ص ۱۲۸؛ تاریخ یعقوبیؒ، ج ۲، ص ۱۳؛ ابن ہشامؒ، السیرۃ النبویہ، ج ۱، ص ۱۴۲؛ بلاذریؒ، انساب الاشراف، تحقیق: الشیخ محمد باقر المحمودی (بیروت: مؤسسۃ الاعلیٰ للطبوعات، ط ۱، ۱۳۹۴ھ، ق) ج ۲، ص ۱۲۔

2 محمد بن سعدؒ گزشتہ حوالہ، حضرت محمدؐ کا سن اس وقت اس سے بھی زیادہ نقل ہوا ہے: تاریخ یعقوبیؒ، ج ۲، ص ۱۳؛ المنقح، ص ۵۳؛ ابن ابی الحدیدؒ، شرح نہج البلاغہ، (قاہرہ: دار احیاء الکتب العربیہ، ۱۹۶۲م)، ج ۱۵، ص ۲۲۵۔

3 ابن ہشامؒ گزشتہ حوالہ، ص ۱۴۲؛ یعقوبیؒ گزشتہ حوالہ، ص ۱۳؛ بلاذریؒ گزشتہ حوالہ، ص ۱۶؛ محمد بن حبیبؒ گزشتہ حوالہ، ص ۱۸۸۔

4 محمد ابن حبیبؒ گزشتہ حوالہ، ص ۵۵-۵۴۔

5 گزشتہ حوالہ، بلاذریؒ گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۱۳۔

6 عصر اسلام میں اس عہد و پیمان کی یاد بھی باقی ہے جیسا کہ امام حسینؑ نے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان سے جو معاویہ کا بھتیجا اور مدینہ کا حاکم تھا ایک زمین کے سلسلہ میں اختلاف کی صورت میں اسے دھمکی دی کہ اگر طاقت کا استعمال کیا تو تلوار لیکر مسجد پیغمبر میں (قریش) کو ایسے عہد و پیمان کی دعوت دوں گا۔ یہ بات سن کر قریش کی کچھ شخصیتوں نے آپ سے نصرت کا وعدہ کیا جب ولید کو اس کی اطلاع ملی تو وہ اپنے ارادہ سے پیچھے ہٹ گیا! (ابن ہشامؒ گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۴۲؛ بلاذریؒ گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۱۴؛ حلبیؒ گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۱۵؛ ابن ابی الحدیدؒ گزشتہ حوالہ، ج ۱۵، ص ۲۲۶؛ ابن اثیرؒ، الکامل فی التاریخ (بیروت: دار صادر)، ج ۲، ص ۴۲۔

شام کی طرف دوسرا سفر

جناب خدیجہ (دختر خویلد) ایک تجارت پیشہ، شریف اور ثروتمند خاتون تھیں۔ تجارت کے لئے لوگوں کو ملازمت پر رکھتی تھیں اور انھیں اپنا مال دے کر تجارت کے لئے بھیجتی تھیں اور انھیں ان کی مزدوری دیتی تھیں۔¹

جب حضرت محمدؐ ۲۵ سال کے ہوئے² تو جناب ابوطالب نے آپ سے کہا: میں تمہی دست ہو گیا ہوں اور مشکلات و دشواریوں میں گرفتار ہوں اس وقت قریش کا ایک قافلہ تجارت کے لئے شام جا رہا ہے۔ کاش تم بھی خدیجہ کے پاس جاتے اور ان سے تجارت کا کام لیتے، وہ لوگوں کو تجارت کے لئے بھیجتی ہیں۔

دوسری طرف سے جناب خدیجہ جو حضرت محمدؐ کے پسندیدہ اخلاق، صداقت و راست گوئی اور امانتداری سے آگاہ ہو گئی تھیں آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر ہمارے تجارت کے کام کو قبول کریں تو دوسروں سے زیادہ انھیں اجرت دوں گی۔ اور اپنے غلام میسرہ کو بھی ان کا ہاتھ بٹانے کے لئے بھیجوں گی۔

حضرت محمدؐ نے ان کی اس پیشکش کو قبول کر لیا۔³ اور میسرہ کے ہمراہ قریش کے کاروان کے ساتھ شام کے لئے روانہ ہو گئے⁴ اس سفر میں انھیں گزشتہ سے زیادہ فائدہ ملا۔⁵

میسرہ نے اس سفر میں حضرت محمدؐ کے ذریعہ ایسی کرامتیں دیکھیں کہ وہ حیرت و استعجاب میں پڑ گیا۔ اس سفر میں ”نسٹور راہب“ نے آپ کے آئندہ رسالت کی بشارت دی۔ اسی طرح میسرہ نے دیکھا کہ حضرت محمدؐ سے ایک شخص کا، تجارت کے معاملہ میں اختلاف ہو گیا ہے وہ شخص کہتا تھا کہ لات و عزیٰ کی قسم کھاؤ تاکہ میں تمہاری بات کو قبول کروں۔

آپ نے جواب دیا: میں نے ابھی تک کبھی لات و عزیٰ کی قسم نہیں کھائی ہے۔⁶

میسرہ نے سفر سے پلٹتے وقت محمدؐ کی کرامتوں اور جو کچھ اس نے دیکھا تھا۔ جناب خدیجہ سے آکر بتایا۔⁷

1 ابن ہشام عجز شتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۹۹؛ ابن اسحاق، السیر والمغازی، تحقیق: سہیل زکار (بیروت: دار الفکر، ط ۱، ۱۳۹۸ھ، ق)، ص ۸۱؛ سبط ابن الجوزی، تذکرۃ الخواص، ص ۳۰۱، میں کہتا ہے کہ ”جناب خدیجہ نے ان کو ٹھیکہ پر کام دیا تھا“ اور ابن اثیر اسد الغابہ میں، ج ۱، ص ۱۶۔ پر لکھتا ہے: ”ان کو مزدوری یا ٹھیکہ پر کام دیا تھا“۔

2 ابن سعد عجز شتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۲۹۔

3 ایسے ثبوت ملتے ہیں کہ محمدؐ کا کام مضاربہ کی شکل میں تھا آپ مزدوری پر کام نہیں کرتے تھے (الصحيح من سيرة النبي الا العظيم، ج ۱، ص ۱۱۲)

4 ابن ہشام عجز شتہ حوالہ، ص ۱۹۹؛ ابن اسحاق عجز شتہ حوالہ، ص ۸۱

5 ابن سعد عجز شتہ حوالہ، ص ۱۳۰

6 ابن سعد عجز شتہ حوالہ، ص ۱۳۰۔

7 ابن اسحاق عجز شتہ حوالہ، ص ۸۲؛ ابن سعد عجز شتہ حوالہ، ص ۱۳۱؛ ابن اثیر، الکامل، فی التاریخ الکامل فی التاریخ (بیروت: دار صادر)، ج ۲، ص ۳۹؛ طبری، تاریخ الامم والملوک (بیروت: دار القاموس الحدیث)، ج ۲، ص ۱۹۶؛ بقی، دلائل النبوة، ترجمہ محمود مہدوی دامغانی (تہران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی)، ۱۳۶۱، ج ۱، ص ۲۱۵؛ ابن اثیر، اسد الغابہ (تہران: المکتبۃ الاسلامیہ)، ج ۵، ص ۳۳۵؛ ابی بشر، محمد بن احمد الرازی الدولابی، الذریۃ الطاہرۃ، تحقیق: السید محمد جواد الحسینی الجلالی (بیروت: مؤسسۃ العلمی للمطبوعات، ط ۲، ۱۴۰۸ھ، ق)، ص ۳۶-۳۵۔

جناب خدیجہ کے ساتھ شادی

جناب خدیجہ ایک باشعور، دور اندیش اور شریف خاتون تھیں اور نسب کے لحاظ سے قریش کی عورتوں سے افضل و برتر تھیں۔¹ وہ متعدد اخلاقی اور اجتماعی خوبیوں کی بنا پر زمانہ جاہلیت میں ”طاهرہ“² اور ”سیدہ قریش“³ کے نام سے پکاری جاتی تھیں۔ مشہور یہ ہے کہ اس سے قبل آپ نے دوبار شادی کی تھی اور آپ کے دونوں شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا۔⁴

تمام بزرگان قریش آپ سے شادی کرنا چاہتے تھے⁵ قریش کی معروف ہستیاں، جیسے عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل اور ابوسفیان نے آپ کے ساتھ شادی کا پیغام بھیجا لیکن آپ، کسی سے شادی کرنے کے لئے تیار نہیں ہوئیں۔⁶

دوسری طرف خدیجہ، حضرت محمدؐ کی رشتہ دار تھیں اور دونوں کا نسب قصی سے ملتا تھا آپ حضرت محمدؐ کے روشن مستقبل سے بھی باخبر تھیں⁷ اور ان سے شادی کی خواہش مند تھیں۔⁸

جناب خدیجہ نے حضرت محمدؐ کے پاس شادی کا پیغام بھیجوا یا اور محمدؐ نے اپنے چچا کی مرضی سے اس پیغام کو قبول کر لیا اور یہ شادی انجام پائی۔⁹

1 ابن ہشام، مغازی حوالہ، ج ۱، ص ۲۰۱؛ ابن سعد، مغازی حوالہ، ج ۱، ص ۱۳۱؛ بیہقی، مغازی حوالہ، ج ۱، ص ۲۱۵؛ رازی، دولابی، مغازی حوالہ، ص ۴۶؛ ابن اثیر، الکامل فی التاريخ، ج ۲، ص ۳۹۔

2 ابن اثیر، اسد الغابہ، ج ۵، ص ۴۳۴؛ حلبی، مغازی حوالہ، ج ۱، ص ۲۲۴؛ عسقلانی، الاصابہ فی تمییز الصحابہ (بیروت: دار احیاء التراث العربی)، ج ۴، ص ۲۸۱؛ ابن عبد البر، الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب (الاصابہ کے حاشیہ پر)، ج ۴، ص ۲۷۹۔

3 حلبی، مغازی حوالہ، ج ۱، ص ۲۲۴۔

4 ان کے گزشتہ شوہر عقیق بن عامر (عابد نسہ بدل) اور ابوہالہ ہند بن نباش تھے۔ (ابن کثیر، اسد الغابہ، ج ۵، ص ۴۳۴؛ ابن حجر، مغازی حوالہ، ص ۲۸۱؛ ابن عبد البر، مغازی حوالہ، ص ۲۸۰؛ حلبی، مغازی حوالہ، ج ۱، ص ۲۲۹؛ ابو سعید خدری، شرف النبی، ترجمہ: نجم الدین محمود راوندی (تہران: انتشارات بابک، ۱۳۶۱)، ص ۲۰۱؛ شیخ عبد القادر بدران، تہذیب و مشق (بیروت: دار احیاء التراث العربی، ط ۳، ۱۴۰۷ھ-ق)، ج ۱، ص ۳۰۲)؛ لیکن کچھ اسناد و شواہد اس بات کی حکایت کرتے ہیں کہ جناب خدیجہ نے اس سے قبل شادی نہیں کی تھی اور حضرت محمدؐ آپ کے پہلے شوہر تھے۔ بعض معاصر محققین بھی اس بات کی تاکید کرتے ہیں (مرتضیٰ العالی، جعفر، الصبیح من سیرۃ النبی الاعظم، ج ۱، ص ۱۲۱)۔

5 ابن سعد، مغازی حوالہ، بیہقی، مغازی حوالہ، ص ۲۱۵؛ طبری، مغازی حوالہ، ج ۲، ص ۱۹۷؛ حلبی، مغازی حوالہ، ابن اثیر، الکامل فی التاريخ، ج ۲، ص ۴۰۔

6 مجلسی، بحار الانوار (تہران: دار الکتب الاسلامیہ)، ج ۱۶، ص ۲۲۔

7 مجلسی، مغازی حوالہ، ص ۲۱۰؛ ابن ہشام، مغازی حوالہ، ج ۱، ص ۲۰۳؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب (قم: المطبعة العلمیہ)، ج ۱، ص ۴۱۔

8 مجلسی، مغازی حوالہ، ص ۲۳-۲۱۔

9 ابن اسحاق، مغازی حوالہ، ص ۸۲؛ بلاذری، انساب الاشراف، محمد حمید اللہ (قاہرہ: دار المعارف)، ج ۱، ص ۹۸؛ تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۶؛ ابن اثیر، الکامل فی التاريخ، ج ۲، ص ۴۰؛ رازی، دولابی، مغازی حوالہ، ص ۴۶؛ حلبی، مغازی حوالہ، ص ۲۲۷؛ ابن شہر آشوب، ج ۱، ص ۴۲؛ مجلسی، مغازی حوالہ، ج ۱۶، ص ۱۹۔

مشہور قول کے مطابق خدیجہ اس وقت ۴۰ برس کی تھیں اور محمدؐ ۲۵ سال کے تھے۔¹ جناب خدیجہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے حضرت محمدؐ کے ساتھ شادی کی۔²

حجر اسود کا نصب کرنا

حضرت محمدؐ کے نیک اخلاق و کردار، امانت و صداقت اور اچھے اعمال نے اہل مکہ کو ان کا گرویدہ بنادیا تھا۔ سب آپ کو ”امین“ کہتے تھے۔³ آپ لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے بس گئے تھے۔ کہ حجر اسود⁴ کے نصب کے سلسلہ میں لوگوں نے آپ کے فیصلہ کا استقبال کیا اور آپ نے اپنی خاص تدبیر اور حکمت عملی کے ذریعہ ان کے درمیان موجود اختلاف کو حل کر دیا۔ جس کی توضیح یہ ہے۔

جس وقت حضرت محمدؐ ۳۵ برس کے ہوئے تو مکہ کے پہاڑوں سے چشمہ کے جاری ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کئی جگہ سے منہدم ہو گئیں کعبہ میں اس وقت تک چھت نہیں تھی اور اس کی دیواریں چھوٹی تھیں اس اعتبار سے اس کے اندر موجود چیزیں محفوظ نہیں تھیں۔

قریش نے چاہا کہ کعبہ کی چھت کو بنائیں لیکن وہ یہ کام نہیں انجام دے سکے۔ اس کے بعد مکہ کے بزرگوں نے چاہا کہ کعبہ کی دیوار کو توڑ کر پھر سے از نو تعمیر کریں اور اس پر چھت بھی ڈالیں۔

لہذا کعبہ کی تعمیر نو کے بعد، قریش کے قبیلوں کے درمیان حجر اسود کے نصب کرنے کے سلسلہ میں اختلاف پیدا ہو گیا اور قبیلہ جاتی رسہ کشی اور فخر و مباہات دوبارہ زندہ ہو گئیں، ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اس پتھر کے نصب کرنے کا شرف اس کو حاصل ہو بعض قبیلوں نے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو خون سے لبریز طشت میں ڈال کر یہ عہد کیا کہ یہ افتخار دوسرے قبیلہ کے پاس نہیں جانے دیں گے۔

آخر کار قریش کے ایک بزرگ اور سن رسیدہ شخص کے مشورہ پر یہ طے پایا کہ کل جو شخص سب سے پہلے باب بنی شیبہ (یا باب صفا) سے مسجد الحرام میں داخل ہو گا۔ وہی قبائل کے درمیان حجر اسود کے نصب کرنے کا فیصلہ کرے گا۔

اچانک حضرت محمدؐ اس دروازہ سے داخل ہوئے سب نے ملکر کہا: یہ محمدؐ، امین ہیں ہم سب ان کے فیصلہ پر راضی ہیں لہذا آنحضرت کے حکم سے ایک چادر منگائی گئی اور چادر کو پھیلا کر اس میں حجر اسود کو رکھا گیا اور قبائل کے سرداروں سے کہا گیا کہ ہر ایک اس کا ایک گوشہ پکڑ لے

1 بلاذری، معز شتہ حوالہ، ص ۹۸؛ ابن سعد، معز شتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۳۲؛ طبری، معز شتہ حوالہ، ج ۲، ص ۱۹۶؛ حلبی، معز شتہ حوالہ، ص ۲۲۸؛ ابن عبد البر، الاستیعاب، ج ۴، ص ۲۸۰؛ ابن اثیر، اسد الغابہ، ج ۵، ص ۴۳۵؛ الکامل فی التاريخ، ج ۲، ص ۳۹۔ جناب خدیجہ کی شادی کے وقت ان کی عمر کے بارے میں دوسرے اقوال بھی موجود ہیں۔ رجوع کریں: امیر مہیا الخیامی، زوجات النبیؐ و اولادہ (بیروت: مؤسسۃ عبداللہ، ط ۱۴۱۱ھ، ق ۱)، ص ۵۴-۵۳۔

2 ابن ہشام، معز شتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۰۱؛ رازی، دولابی، معز شتہ حوالہ، ص ۴۹؛ بیہقی، معز شتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۱۶؛ ابو سعید خدری، معز شتہ حوالہ، ص ۲۰۱؛ شیخ عبد القادر بدران، تہذیب تاریخ دمشق، ج ۱، ص ۳۰۲؛ ابن اثیر، اسد الغابہ، ج ۵، ص ۴۳۴۔

3 ابن سعد، معز شتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۲۱؛ ابن ہشام، ج ۱، ص ۲۱۰؛ بیہقی، معز شتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۱۱؛ مجلسی، معز شتہ حوالہ، ج ۱۵، ص ۳۶۹۔

4 یہ پتھر کعبہ کے مقدس ترین اجزاء میں سے ہے۔ روایات میں نقل ہوا ہے کہ یہ بہشتی اور آسمانی پتھر ہے جس کو جناب ابراہیم نے حکم خدا سے کعبہ کا جزء قرار دیا ہے (مجلسی، معز شتہ حوالہ، ج ۲، ص ۹۹-۸۴) ازرقی، تاریخ مکہ، تحقیق: رشیدی الصالح، ط ۱۴۰۳ھ، ق ۱، ص ۶۳-۶۲؛ حجر اسود ابھی تک باقی ہے جو اندہ کے شکل، سیاہ رنگ، مائل بہ سرخی ہے اور کعبہ کے رکن شرقی میں زمین سے ڈیڑھ میٹر کی بلندی پر نصب ہے اور طواف کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے۔

اور سب ملکر پتھر کو دیوار تک لائیں جب پتھر دیوار کے پاس آگیا تو آنحضرتؐ نے اس کو اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اپنی قدیمی جگہ پر رکھ دیا۔¹ اور اس طرح آپؐ نے اپنے حکیمانہ اور مدبرانہ عمل کے ذریعہ قبائل کے درمیان موجود اختلاف کو حل فرمایا اور انھیں ایک خون ریز جنگ سے بچالیا۔

علیؑ مکتب پیغمبرؐ میں

کعبہ کی تعمیر نو کے چند سال بعد اور بعثت پیغمبرؐ سے چند سال قبل مکہ میں ایک مرتبہ سخت قحط پڑا۔ اس وقت پیغمبرؐ کے چچا جناب ابوطالب تہی دست اور کثیر العیال تھے۔ حضرت محمدؐ نے اپنے دوسرے چچا عباس کو (جو کہ بنی ہاشم کے ثروتمند ترین افراد میں سے تھے) مشورہ دیا کہ ہم میں سے ہر ایک ابوطالب کے ایک فرزند کو اپنے گھر لے جائے تاکہ ان کا مالی بوجھ کم ہو جائے۔

عباس اس بات پر راضی ہو گئے اور دونوں ابوطالب کے پاس گئے اور اپنی بات ان سے کہی تو وہ بھی راضی ہو گئے اور پھر جعفر کو عباس نے اور حضرت علیؑ کو حضرت محمدؐ نے اپنی تربیت اور کفالت میں لے لیا اور حضرت علیؑ آنحضرتؐ کے گھر میں رہنے لگے۔ یہاں تک کہ خداوند عالم نے ان کو مبعوث بہ رسالت کیا اور علیؑ نے آپؐ کی تصدیق اور پیروی کی۔²

حضرت علیؑ اس وقت چھ سال کے تھے۔³ یہ ان کی شخصیت سازی اور تربیت پذیری کا حساس دور تھا گویا حضرت محمدؐ چاہتے تھے کہ ابوطالب کے کسی ایک لڑکے کی تربیت کر کے ان کی اور ان کے شریک حیات کی زحماتوں کا بدلہ لے لیں۔ لہذا ابوطالب کی اولاد میں سے علیؑ کو اس معاملہ میں مستعد تر پایا۔ جیسا کہ آپؐ نے علیؑ کی کفالت قبول کرنے کے بعد فرمایا ہے:

میں نے اس کو منتخب کیا جس کو خدا نے منتخب کیا ہے۔⁴

حضرت محمدؐ علیؑ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی تربیت میں کسی قسم کی کوشش سے پیچھے نہیں ہٹے۔ فضل بن عباس (علیؑ کا چچا زاد بھائی) کہتا ہے کہ: میں نے اپنے والد محترم (عباس بن عبدالمطلب) سے پوچھا کہ پیغمبرؐ اپنے فرزندوں میں سے کس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں؟ کہا: علی ابن ابی طالب کو۔

1 ابن سعد، 'مغازی'، ج ۱، ص ۱۳۶-۱۳۵؛ تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۵-۱۴؛ مجلسی، 'مغازی'، ج ۱۵، ص ۳۳۸-۳۳۷؛ بلاذری، 'مغازی'، ج ۱، ص ۱۰۰-۹۹؛ مسعودی، 'مروج الذهب'، (بیروت: دارالاندلس، ط ۱۹۶۵ء)، ج ۲، ص ۲۷۲-۲۷۱؛ بعض مورخین نے کعبہ کی خرابی اور اس کی تعمیر نو کا سبب ایک دوسرا واقعہ نقل کیا ہے لیکن سب نے حجر اسود کے نصب کے سلسلے میں آپؐ کے فیصلہ کو نقل کیا ہے۔ رجوع کریں: ابن اسحاق، 'السیر والمغازی'، ص ۱۰۳؛ ابن ہشام، 'مغازی'، ج ۱، ص ۲۰۵؛ بیہقی، 'دلائل النبوة'، ترجمہ: محمود مہدوی دامغانی، ج ۱، ص ۲۱۰۔

2 ابن ہشام، 'السیرة النبویة'، (قاہرہ: مکتبہ مصطفیٰ البابی الجلبی)، ۱۳۵۱ھ، (ق)، ج ۱، ص ۲۶۲؛ طبری، 'تاریخ الأمم والملوک'، (بیروت: دارالقاموس الحدیث)، ج ۲، ص ۲۱۳؛ ابن اثیر، 'الکامل فی التاریخ'، (بیروت: دارصادر)، ۱۳۹۹ھ، (ق)، ج ۲، ص ۵۸؛ بلاذری، 'انساب الاشراف'، تحقیق: الشیخ محمد باقر المحمودی (بیروت: مؤسسہ الاعلیٰ للطبوعات)، ۱۳۹۳ھ، (ق)، ج ۲، ص ۹۰؛ ابن ابی الحدید، 'شرح نہج البلاغہ'، (قاہرہ: دار احیاء الکتب العربیہ)، ۱۹۶۲ء، (ج ۱)، ص ۱۳ اور ج ۱، ص ۱۵۔

3 ابن ابی الحدید، 'مغازی'، ج ۱، ص ۱۵؛ ابن شہر آشوب، 'مناقب آل ابی طالب'، (قم: المطبعة العلمیہ)، ج ۲، ص ۱۸۰۔

4 ابوالفرج اصفہانی، 'مقاتل الطالبین'، (نجف اشرف: منشورات المکتبۃ الحیدریہ)، ص ۱۵۔

میں نے کہا: میں نے رسول خداؐ کے لڑکوں کے بارے میں پوچھا ہے۔ کہا: رسول خداؐ اپنے تمام لڑکوں میں علیؑ کو زیادہ چاہتے ہیں اور سب سے زیادہ ان پر مہربان ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انھوں نے علیؑ کو زمانہ کمسنی سے اپنے سے الگ کیا ہو؟ مگر ایک سفر میں جو آپ نے جناب خدیجہ کے لئے کیا تھا۔ ہم نے کسی پدر کو اپنی اولاد کے بارے میں رسول خداؐ سے زیادہ مہربان نہیں دیکھا ہے اور نہ ہی علیؑ سے زیادہ فرمانبردار کوئی لڑکا دیکھا ہے جو اپنے باپ کی فرمانبرداری کرے۔¹

بعثت کے بعد حضرت محمدؐ نے علیؑ کو اس طرح سے تعلیمات اسلام سے آگاہ کیا کہ اگر رات میں وحی نازل ہوتی تھی تو صبح ہونے سے قبل علیؑ کو بتا دیتے تھے اور اگر دن میں وحی نازل ہوتی تھی تو رات ہونے سے قبل علیؑ کو اس سے آگاہ کر دیتے تھے۔²

علیؑ سے پوچھا گیا: کس طرح آپ نے دوسرے اصحاب سے پہلے آنحضرتؐ سے حدیث سیکھی؟ تو آپ نے جواب دیا: جب میں پیغمبرؐ سے پوچھتا تھا تو وہ جواب دیتے تھے اور جب میں خاموش رہتا تھا تو وہ خود مجھے حدیث بتاتے تھے۔³

حضرت علیؑ نے اپنے دور خلافت میں اپنی تربیت کے زمانہ کو یاد کر کے اس طرح سے فرمایا ہے:

”اور تم رسول خداؐ کی قریبی قرابت کے حوالے سے میرا مقام اور بالخصوص قدر و منزلت جانتے ہی ہو میں بچہ تھا کہ رسولؐ نے مجھے گود میں لے لیا تھا مجھے اپنے سینہ سے چمٹائے رکھتے تھے اور بستر میں اپنے پہلو میں جگہ دیتے اور جسم مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے اور اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے۔ وہ کوئی چیز خود چباتے پھر اس کے لقمے میرے منہ میں دیتے تھے اور میں ان کے پیچھے پیچھے اس طرح لگا رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے رہتا ہے وہ ہر روز مجھے اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتے تھے اور مجھے اس کی پیروی کا حکم دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ (کوہ) حرام میں مجھے ساتھ رکھتے تھے اور وہاں انھیں میرے سوا کوئی نہیں دیکھتا تھا... اور جب حضورؐ پر پہلے پہل وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی چیخ سنی جس پر میں نے پوچھا یا رسول اللہ! یہ آواز کیسی ہے؟

فرمایا: یہ شیطان ہے جو اپنی عبادت سے محروم ہو گیا ہے جو کچھ میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو اور جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو فرق صرف یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو بلکہ تم میرے وزیر ہو اور یقیناً خیر پر ہو۔⁴

اگرچہ یہ بات بعثت کے بعد پیغمبرؐ کی عبادت سے مربوط ہو سکتی ہے جو آپ نے غار حرا میں انجام دی ہے لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ پیغمبرؐ کی عبادت غار حرا میں غالباً رسالت سے قبل رہی ہے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ موضوع، حضرت محمدؐ کی رسالت سے قبل کا تھا اور شیطان کے نالہ و فریاد کا سننا آنحضرتؐ کی بعثت کے وقت، جب قرآن کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں تھیں۔ اس وقت سے مربوط ہے۔ بہر حال علیؑ کی پاکیزہ نفسی اور پیغمبر اسلامؐ کی مسلسل تربیت کی وجہ سے وہ بچپن ہی سے اپنی چشم بصیرت و بصارت اور گوش سماعت اور قلبی ادراک کے ذریعہ ایسی چیزوں کو دیکھتے اور سنتے تھے جو عام انسانوں کے لئے ممکن نہیں تھا۔

1 ابن ابی الحدید، گزشتہ حوالہ، ج ۱۳، ص ۲۰۰۔

2 شیخ طوسی، الامالی (قم: دارالانشاء للطباعة والنشر والتوزیع، ط ۱۴۱۴ھ، ق)، ص ۶۲۴۔

3 سیوطی، تاریخ الخلفاء (قاہرہ: ط ۳، ۸۳۳ھ، ق)، ص ۷۰۔

4 نہج البلاغہ، صبحی صالح، خطبہ ۱۹۲

تیسرا حصہ

• بعثت سے ہجرت تک

• پہلی فصل: بعثت اور تبلیغ

• دوسری فصل: علی الاعلان تبلیغ اور مخالفتوں کا آغاز

• تیسری فصل: قریش کی مخالفتوں کے نتائج اور ان کے اقدامات

گئی تھیں، وہ عنقریب رونما ہونے والی تھیں کیونکہ آپ ایک خاص نور دیکھنے لگے تھے اور آپ کے اوپر اسرارِ فاش ہونے لگے تھے اور اکثر آپ کے کانوں سے غیب کی صدا نکلتی تھی لیکن کسی کو آپ دیکھتے نہیں تھے۔¹

کچھ دنوں تک خواب کی حالت میں آواز سنائی پڑتی تھی کہ کوئی انھیں پیغمبر کہہ رہا ہے ایک دن مکہ کے اطراف کے بیابانوں میں ایک شخص نے آپ کو رسول اللہ کہہ کر پکارا آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ”میں جبرئیل ہوں۔“

خداوند عالم نے مجھے بھیجا ہے تاکہ تمہیں پیغمبری کے منصب پر مبعوث کروں حضرت محمدؐ نے جس وقت یہ خبر اپنی زوجہ کو سنائی تو وہ خوش ہو کر بولیں ”امید کرتی ہوں کہ ایسا ہی ہو“۔²

اس وقت حضرت محمدؐ سال میں کچھ دن ”غار حرا“³ میں رہا کرتے تھے اور دعا و عبادت کیا کرتے تھے⁴ اور اس طرح کی گوشہ نشینی اور غار حرا میں عبادت، قریش کے خدا پرستوں میں سابقہ نہیں رکھتی تھی۔⁵ پہلا شخص جس نے اس سنت کو قائم کیا حضرت محمدؐ کے جد حضرت عبدالمطلب تھے کہ جب ماہ رمضان آتا تھا تو غار حرا میں چلے جاتے تھے اور فقیروں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔⁶

1 حلی، سابق، ج ۱، ص ۳۸۱-۳۸۰؛ ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، تحقیق: مصطفیٰ السقاء اور دوسرے افراد (قاہرہ: مطبعہ مصطفیٰ البابی الحبی، ۱۳۵۵ھ)، ج ۱، ص ۱۵۰؛ طبری، تاریخ الامم والملوک (بیروت: دار القاموس الحدیث)، ج ۲، ص ۲۰۴-۲۰۳؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب (قم: المطبعہ العلمیہ)، ج ۱، ص ۴۳؛ مجلسی، بحار الانوار، (تہران: دار الکتب الاسلامیہ، ج ۱۸، ص ۱۸۲ اور ۱۹۳؛ مراجعہ: تاریخ یعقوبی (نجف: المکتبہ الحیدریہ، ۱۳۸۴ھ)، ج ۲، ص ۱۷۔
2 ابن شہر آشوب، سابق، ج ۱، ص ۴۴؛ مجلسی، سابق، ج ۱۸، ص ۱۹۴؛ طبرسی، اعلام الوریٰ باعلام الہدی (تہران: دار الکتب السامیہ، ط ۳)، ص ۳۶؛ ان دلائل و شواہد کو دیکھتے ہوئے جیسا کہ مرحوم کلینی نے روایت کی ہے حضرت محمدؐ اس وقت ”نبی“ تھے لیکن ابھی مرتبہ رسالت پر نہیں پہنچے تھے (الاصول من الکافی، تہران: مکتبہ الصدوق، ۱۳۸۱ھ)، ج ۱، ص ۱۷۶۔

3 غار حرا مکہ کے شمال مشرقی حصے میں واقع ہے اور اس لحاظ کہ خورشید وحی کے طلوع کی جگہ قرار پائی ”جبل النور“ (کوہ نور) کہا جاتا ہے کچھ سال پہلے شہر مکہ سے اس پہاڑ تک تھوڑا فاصلہ پایا جاتا تھا لیکن اب شہر مکہ کی توسیع کی بنا پر پہاڑ کے کنارے تک گھر بن گئے ہیں، حرا پہاڑ جو کئی پہاڑ کے بیچ میں ہے سب سے بلند اور اونچا ہے غار حرا جو پہاڑ کی چوٹی میں واقع ہے ”در اصل وہ غار نہیں ہے بلکہ پتھر کی ایک عظیم پیٹھ جو پتھر کے دو بڑے ٹکڑوں کے اوپر چمکی ہوئی اس سے ایک چھوٹا سا غار تقریباً ڈیڑھ میٹر کا بن گیا تھا، غار کا منہ پھیلا ہوا ہے ہر شخص آسانی سے اس میں آ جاسکتا ہے لیکن آدھا حصہ اس کا بعد والا تنگ اور اس کی چھت چھوٹی ہے اور سورج کی روشنی غار کے آدھے حصہ سے زیادہ نہیں پہنچ پاتی ہے۔

4 نہج البلاغہ، تحقیق صبحی صالح، خطبہ ۱۹۲ (قاصد)، ابن ہشام، سابق، ج ۱، ص ۲۵۱۔

5 ابن ہشام، سابق، ج ۱، ص ۲۵۱؛ سابق، ج ۲، ص ۲۰۶؛ ابن کثیر، سابق، ج ۱، ص ۳۹۰؛ بلاذری۔

6 حلی، سابق، ص ۳۸۲۔

رسالت کا آغاز

حضرت محمدؐ جب چالیس برس کے ہوئے¹ تو اس وقت بھی آپ اپنے قدیمی دستور کے مطابق کچھ دن کے لئے غار حرا میں چلے گئے تو وہاں وحی کا نمائندہ نازل ہوا اور خدا کی بارگاہ سے قرآن مجید کی ابتدائی آیات آپ کے سینہ پر نازل ہوئیں۔²

(بسم الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربك الذی خلق۔ خلق الانسان من علق۔ اقرأ وربک الاکرم۔ الذی علم بالقلم۔ علم الانسان ما لم یعلم)³

اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے

اس نے انسان کو جنمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے

پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے

جس نے قلم کے ذریعہ تعلیم دی ہے

اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔

خداوند عالم نے حضرت محمدؐ کے ساتھ فرشتہ وحی (جناب جبرئیل) کا دیدار اور اس کے پیغام پہنچانے کو قرآن مجید میں دو مقام پر ذکر فرمایا ہے:

قسم ہے ستارہ کی جب وہ ٹوٹا

تمہارا ساتھی (محمدؐ) نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا

اور وہ اپنی خواہش سے کلام بھی نہیں کرتا ہے

اس کا کلام وہی وحی ہے جو مسلسل نازل ہوتی رہتی ہے

اسے (فرشتہ) نہایت طاقت والے (جبرئیل) نے تعلیم دی ہے

وہ صاحب حسن و جمال جو سیدھا کھڑا ہوا

جبکہ وہ بلند ترین افق پر تھا

1 ابن ہشام، سابق، ص ۲۴۹؛ طبری، سابق، ص ۲۰۹؛ بلاذری، ص ۱۱۵-۱۱۴؛ ابن، الطبقات الکبریٰ (بیروت: دار صادر)، ج ۱، ص ۱۹۰؛ مسعودی، التنبیہ و الاشراف، (قاہرہ: دار الصاوی للطبع والنشر)، ص ۱۹۸؛ حلبی، سابق، ص ۳۶۳؛ مجلسی، سابق، ص ۲۰۴۔

2 طبری، مجمع البیان (تہران: شرکتہ المعارف الاسلامیہ، ۱۳۹۷ھ)، ج ۱۰، ص ۵۱۴؛ مسعودی، مروج الذهب، (بیروت: دار الاندلس، ط ۱، ۱۹۶۵ء)، ج ۲، ص ۲۷۹۔

3 سورہ علق، آیت ۵-۱۔

پھر وہ قریب ہوا اور آگے بڑھا

یہاں تک کہ دو کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا

پھر خدا نے اپنے بندہ کی طرف جس راز کی بات کرنا چاہی وحی کر دی

دل نے اس بات کو جھٹلایا نہیں جس کو آنکھوں نے دیکھا

کیا تم اس سے اس بات کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو جو وہ دیکھ رہا ہے۔¹

تو میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پلٹ جانے والے ہیں

چلنے والے اور چھپ جانے والے ہیں

اور رات کی قسم جب ختم ہونے کو آئے

اور صبح کی قسم جب سانس لینے لگے

بیشک یہ ایک معزز فرشتے کا بیان ہے

وہ صاحب قوت ہے اور صاحب عرش کی بارگاہ کا مکین ہے

وہ وہاں قابل اطاعت اور پھر امانت دار ہے

اور تمہارا ساتھی پیغمبر دیوانہ نہیں ہے

اور اس نے فرشتہ کو بلند افق پر دیکھا ہے

اور وہ غیب کے بارے میں بخیل نہیں ہے

اور یہ قرآن کسی شیطان رجیم کا قول نہیں ہے

تو تم کدھر چلے جا رہے ہو۔²

1 سورہ نجم، آیت ۱۲-۱: اسلامی دانشوروں نے ان آیات کو پیغمبر اسلام کی بعثت سے مربوط قرار دیا ہے قرآن اور شواہد بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں (مراجعہ کریں : مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۸، ص ۲۴۷؛ محمد ہادی معرفت، التمهید فی علوم القرآن، ج ۱، ص ۳۵؛ احمد بن محمد القسطلانی، المواہب اللدنیہ بالمنہج المحمدیہ، تحقیق: صالح احمد الشامی (بیروت: المکتب الاسلامی، ط ۱۴۱۲ھ) ج ۳، ص ۸۹-۸۸؛ لیکن دوسری تفسیر کی بنیاد پر معراج سے مربوط ہے۔

2 سورہ تکویر، آیت ۲۶-۱۵.

طلوع وحی کی غلط عکاسی

بعض تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں پیغمبر اسلام کی بعثت کو غلط اور افسانوی شکل میں نقل کیا گیا ہے جو کسی طرح سے حدیث اور تاریخی معیاروں کے مطابق قابل قبول نہیں ہے اور اس اعتبار سے کہ یہ خبر مشہور ہے۔ فارسی کی درسی کتابوں میں بھی نقل ہوئی ہے۔ لہذا مناسب ہے ہم اس کو نقل کریں اور اس پر تنقید کریں۔

عائشہ کہتی ہیں کہ پہلی بار جب رسول خدا پر وحی نازل ہوئی تو وہ سچا خواب تھا وہ بھی خواب دیکھتے تھے وہ صبح روشن کے مانند ہوا کرتا تھا اس کے بعد وہ چاہتے کہ گوشہ نشین ہو جائیں اور پھر غار حرا میں گوشہ نشین ہو جاتے تھے اور وہاں کچھ راتیں عبادت میں بسر کرتے اور پھر اپنے اہل خانہ کے پاس واپس چلے آتے تھے اور خدیجہ سے آذوقہ لیتے تھے (اور پھر غار حرا میں واپس چلے جاتے تھے) یہاں تک کہ حق آپ کے پاس آیا اور آپ اس وقت غار میں تھے۔ فرشتہ وحی آپ کے پاس آیا اور کہا: پڑھو۔ کہا: میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔

پیغمبرؐ نے فرمایا کہ فرشتے نے مجھے پکڑا اور زور سے دبایا یہاں تک کہ میں بے دم ہو گیا پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا: میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں دوبارہ ہم کو پکڑا اور اتنی زور سے دبایا کہ میری ساری طاقت چلی گئی۔ اس وقت مجھے چھوڑ دیا اور کہا: پڑھو میں نے کہا: میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں تیسری بار پھر مجھے پکڑا اور اتنی زور سے دبایا کہ میری ساری طاقت ختم ہو گئی پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا: پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جو خالق ہے... (پانچویں آیت تک)

اس وقت رسول خدا لرزتے ہوئے دل کے ساتھ پلٹے اور جناب خدیجہ کے پاس پہنچے اور فرمایا:

مجھے اڑھا دو! مجھے اڑھا دو! تو انھوں نے اڑھا دیا تاکہ آپ کا اضطراب اور خوف ختم ہو جائے [! رسول خدا کے ساتھ جو کچھ پیش آیا تھا اسے آپ نے خدیجہ سے بتایا اور فرمایا کہ میں اپنے بارے میں خوف زدہ ہوں [! خدیجہ نے کہا: قسم خدا کی! خدا آپ کو ہرگز رسوا نہ فرمائے گا؛ کیونکہ آپ اپنے رشتہ داروں اور گھر والوں کے ساتھ نیکی اور غیروں کے ساتھ بخشش و خیرات کرتے ہیں۔ فقیروں اور تہی دستوں کی دلجوئی اور مہمانوں کی ضیافت اور حق والوں کی مدد فرماتے ہیں۔

پھر جناب خدیجہ آپ کے ساتھ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں وہ ایک سن رسیدہ اور نابینا شخص تھے اور زمانہ جاہلیت میں عیسائیت کے گرویدہ ہو گئے تھے وہ عبرانی زبان سے واقف تھے اور انجیل کو اسی زبان میں لکھتے تھے۔

خدیجہ نے ان سے کہا: عموزادہ! اپنے بھائی کی بات سنئے (کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟) ورقہ نے کہا: ”بھائی تم نے کیا دیکھا؟“ رسول خدا نے جو کچھ دیکھا تھا ان سے بتایا۔ ورقہ نے کہا: ”یہ وہی ناموس (فرشتہ) ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا کاش آج میں جو ان ہوتا۔ کاش میں اس دن زندہ رہوں؟ جب تمہاری قوم والے تم کو شہر سے باہر کر دیں گے۔“

رسول خدا نے فرمایا: ”کیا یہ لوگ مجھے شہر سے باہر کر دیں گے۔ کہا: ہاں...“¹

1 صحیح بخاری، شرح و تحقیق: الشیخ قاسم الشماعی الرفاعی (بیروت: دار القلم، ط ۱، ۱۴۰۷ھ، ق) ج ۱، ص ۶۰-۵۹، کتاب بدء الوحی؛ صحیح مسلم، بشرح امام النووی (بیروت: دار الفکر، ط ۳، ۱۴۰۳ھ، ق) ج ۲، ص ۱۹۷-۱۹۸، باب بدء الوحی الی رسول اللہ؛ طبری، معزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۲۰۶-۲۰۵۔

تنقید و تحلیل

جیسا کہ اشارہ کیا جا چکا ہے کہ یہ روایت اس شکل میں قابل قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ مندرجہ ذیل دلائل کی بنیاد پر سند اور متن دونوں لحاظ سے ناقابل اعتبار ہے۔

۱۔ اس واقعہ کی نقل عائشہ ہیں اور وہ بعثت کے چوتھے یا پانچویں سال پیدا ہوئیں۔¹ لہذا وہ واقعہ کے وقت موجود ہی نہیں تھیں کہ واقعہ کی عینی گواہ بن سکیں اور چونکہ وہ اصلی راوی کا نام کہ شاید جس سے یہ واقعہ سنا ہے ذکر نہیں کرتیں لہذا ان کی نقل، فاقد سند اور علوم حدیث کی اصطلاح میں ”مرسل“ ہے اور روایت مرسل قابل اعتبار نہیں ہے۔

۲۔ اس روایت کی بنیاد پر فرشتہ وحی نے متعدد بار حضرت محمدؐ کو پڑھنے کے لئے کہا اور آپ نے اظہار ناتوانی فرمایا۔ اگر مقصد یہ تھا کہ آنحضرت کلام خدا کو لوح سے دیکھ کر پڑھیں تو ایسی چیز معقول نہ تھی؛ کیونکہ خدا اور اس کا فرشتہ جانتا تھا کہ آپ امی ہیں اور پڑھنا نہیں جانتے ہیں اور اگر مقصد یہ تھا کہ فرشتہ کے کہنے پر آپ پڑھیں تو یہ کام کوئی مشکل نہیں تھا۔

جس سے حضرت محمدؐ (جو کہ ذہانت اور دقت میں معروف تھے) کمال عقل و فکر کے باوجود عاجز رہے ہوں !

۳۔ فرشتہ وحی کے ذریعہ مسلسل دباؤ کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یاد کرنا ایک ذہنی کام ہے جس میں دباؤ کارگر نہیں ہوتا ہے اگر خیال کریں کہ یہ کام اس لئے تھا کہ حضرت، قدرت خدا سے اچانک پڑھنا سیکھ جائیں تو صرف ارادہ الہی اس کام کے لئے کافی تھا ان مقدمات کی ضرورت نہیں تھی اور اگر دباؤ کے مسئلہ کو رسول خداؐ پروردگار عالم اور عالم غیب سے مربوط سمجھیں پھر بھی قابل تاویل نہیں ہے کیونکہ جیسا کہ خداوند عالم نے صراحت کے ساتھ قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ پیغمبروں کا رابطہ عالم غیب سے ان تین طریقوں میں سے کسی ایک کے ذریعہ رہا ہے۔

۱۔ ڈائریکٹ رابطہ اور بغیر کسی واسطہ کے پیغام الہی کو دریافت کرنا؛

۲۔ آواز کے ذریعہ، بغیر کسی کو دیکھے ہوئے؛

۳۔ فرشتہ وحی کے ذریعہ۔²

صرف وحی کے بغیر کسی واسطہ کے دریافت کرنے پر پیغمبر اسلامؐ نے دباؤ اور سختی کو برداشت کیا اور بعض روایتوں کی بنیاد پر آپ کا چہرہ متغیر ہو جایا کرتا تھا اور عرق کے قطرات موتی کی شکل میں آپ کے چہرے سے گرنے لگتے تھے۔³

1 عسقلانی، الاصابہ فی تمیز الصحابہ (بیروت: دار احیاء التراث العربی، ط ۱، ۳۲۸ھ) ج ۲، ص ۳۵۹۔

2 وماکان لبشر ان ینکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فینوحی باذنه ما یشاء انہ علی حکیم“ (سورہ شوریٰ، آیت ۵۱) اس بارے میں مزید آگاہی کے لئے مراجعہ کریں: (بحار الانوار، ج ۱۸، ص ۲۳۶، ۲۵۴، ۲۵۷)

3 ابن سعد، سابق، ج ۱، ص ۱۹۷؛ ابن شہر آشوب، سابق، ج ۱، ص ۴۳؛ مجلسی، معز شتہ، ج ۱۸، ص ۲۷۱۔

لیکن اگر پیغام الہی فرشتہ کے ذریعہ بھیجا جاتا تھا تو حضرت پر کوئی خاص کیفیت طاری نہیں ہوا کرتی تھی جیسا کہ حضرت امام صادقؑ فرماتے ہیں : ”جس وقت وحی جبرئیل لے آکر آتے تھے تو پیغمبرؐ عام حالت میں فرماتے تھے۔ یہ جبرئیل میں یا جبرئیل نے مجھ سے اس طرح یہ کہا ہے لیکن اگر وحی آپ پر براہ راست نازل ہوتی تھی تو گرانی اور بوجھ کا احساس کرتے تھے اور بے ہوشی جیسی کیفیت آپ پر طاری ہو جایا کرتی تھی“¹ جب جبرئیل حامل وحی ہوا کرتے تھے تو آنحضرتؐ ان کو دیکھ کر نہ تنہا کوئی خاص احساس نہ کرتے تھے بلکہ جب بھی آپ کی خدمت میں وہ حاضر ہوتے تھے، بغیر آپ کی اجازت کے آپ کی خدمت میں قدم نہیں رکھتے تھے اور پیغمبرؐ کی بارگاہ میں نہایت ہی ادب سے بیٹھتے تھے۔²

اس تشریح اور توضیح کے ساتھ چونکہ مورخین کا اتفاق ہے کہ قرآن کی ابتدائی آیات کو جبرئیل غار حرا میں لے کر آئے تھے لہذا کسی طرح کا بوجھ اور سنگینی نہیں پائی جاتی تھی۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آنحضرتؐ کو ذمہ داری کی سنگینی کا احساس نہیں تھا اور آنحضرتؐ کو بت پرستوں کی مخالفت کی فکر نہیں تھی۔

۴۔ حضرت محمدؐ کی آمادگیوں اور تیاریوں کو دیکھتے ہوئے اور اس سے قبل، غیبی پیغاموں کے دریافت کو دیکھتے ہوئے، کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ حضرت گھبرائے ہوں اور خوف و اضطراب آپ پر طاری ہوا ہو اس سے قطع نظر بعض کتابوں میں ذکر ہوا ہے کہ جناب جبرئیل شب شنبہ اور شب یکشنبہ کے ابتدائی حصہ میں پیغمبر اسلامؐ کے قریب آئے اور تیسری بار (یعنی دوشنبہ کے دن) تھا کہ منصب رسالت پر آپ کو فائز کر دیا گیا۔³ لہذا غار حرا میں بھی آنحضرتؐ کا پہلا دیدار، فرشتے سے نہیں ہوا کہ اس کو دیکھ کر آنحضرتؐ کو خوف و اضطراب طاری ہوا۔ اصولی طور پر جب تک کوئی ہر لحاظ سے سرالہی (رسالت) کو لینے کے لئے تیار نہ ہو خدائے حکیم اتنا بڑا عہدہ اور منصب اس کو نہیں عطا کرتا ہے۔

۵۔ کس طرح یہ بات قابل قبول ہو سکتی ہے کہ جناب خدیجہ کی معلومات (جو کہ ایک عام فرد تھیں) پیغمبر اسلامؐ سے زیادہ تھیں اور وہ آنحضرتؐ کے خوف و اضطراب کو دیکھ کر ان کی دلجوئی اور دلداری کرتی تھیں۔

۶۔ اور سب سے زیادہ قبیح بات یہ کہ ہم حضرت محمدؐ کے بارے میں تصور کریں جو کہ رسالت اور لوگوں کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے تھے کہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کیا چیز آئندہ رونما ہونے والی ہے اور جبرئیل امین کو نہیں پہچانتے تھے اور اس کے پیغام کو صحیح طرح سے تشخیص نہیں دے سکتے یہاں تک کہ ایک ضعیف اور نابینا مسیحی نے ان کی رسالت کے اوپر مہر تصدیق لگائی اور محمدؐ کو اس کے اظہارات کے ذریعہ اپنی رسالت کے بارے میں اطمینان حاصل ہوا اور ان کے دل کو سکون و قرار ملا۔ اس بات کا بے بنیاد ہونا اتنا واضح ہے کہ کسی دلیل یا برہان کی ضرورت نہیں ہے۔

۷۔ اس خبر میں حضرت محمدؐ کی طرف جس شک و تردید کی نسبت دی گئی ہے وہ قرآن کی آیت کے مطابق نہیں ہے قرآن فرماتا ہے کہ (قلب محمدؐ) نے جس چیز کو دیکھا اس کو جھٹلایا نہیں۔⁴

طبرسیؒ (مشہور شیعہ عالم دین اور مفسر) کہتے ہیں :

1 مجلسی، سابق، ص ۲۶۸ اور ۲۷۱؛ صدوق، التوحید (تہران: مکتبۃ الصدوق)، ص ۱۱۵؛ مراجعہ کریں: مہر تابان، (آیۃ اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی کا انٹرویو مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی سے) ص ۲۱۱-۲۰۷۔

2 صدوق، کمال الدین و تمام النعمہ (ہم: موسسہ النشر الاسلامی، ۱۴۰۵ھ)، ج ۱، ص ۸۵؛ علل الشرائع (نجف: المکتبۃ الحیدریہ، ۱۳۸۵ھ)، باب ۷، ص ۷۔

3 طبری، مغازی، ج ۲، ص ۲۰۷؛ بلاذری، مغازی، ج ۱، ص ۱۰۵؛ مسعودی، مروج الذهب، ج ۲، ص ۲۷۶؛ تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۷۱۔

4 مائتہ الفوائد الماری، سورۃ نجم، آیت ۱۱

”خداوند عالم اپنے رسولؐ کو وحی نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کو روشن دلیلوں کے ہمراہ کرے اور اسے اطمینان ہو جاتا ہے کہ جو کچھ اس پر وحی ہوتی ہے وہ خدا کی جانب سے ہے اور اسے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں پڑتی اور اس پر خوف و اضطراب طاری نہیں ہوتا۔“¹

حضرت امام صادقؑ نے اپنے ایک صحابی کے سوال کرنے پر کہ رسول خداؐ وحی کے وقت اس بات سے کیوں نہیں ڈرے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہو سکتا ہے؛ فرمایا: ”جس وقت خداوند عالم اپنے کسی بندے کو رسالت کے درجہ پر فائز کرتا ہے تو اس کو ایسا اطمینان و سکون عطا کر دیتا ہے کہ جو کچھ خدا کی جانب سے اس پر نازل ہو وہ اس کے لئے ویسے ہی ہو جیسے کوئی اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہو۔“²

کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم (جس میں عائشہ سے روایت نقل ہوئی ہے) کی شرح کرنے والے مشہور عالم ہونے کے باوجود، چونکہ اصل روایت کو مسلم جانتے تھے چونکہ اس کی صحیح تفسیر اور توضیح میں درماندہ اور حیران و پریشان ہوئے، ضعیف اور بے بنیاد توجیہات میں لگ گئے، جو باعث تعجب ہے۔³

پیغمبر اسلامؐ کی بعثت کے بارے میں اس کے مشابہ چند حدیثیں، عبد اللہ بن شداد، عبید بن عمر، عبد اللہ بن عباس اور عروہ بن زبیر جیسے راویوں کے ذریعہ نقل ہوئی ہیں۔ جنکی ہم نے توضیحات پیش کی ہیں ان کے ذریعہ ان کا جعلی ہونا واضح ہو جاتا ہے اور اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔⁴ یہ غلط خبر مسیحیوں کی کتابوں میں بھی نقل ہونے لگی ہے اور ان میں سے کچھ لوگوں نے اس کو زہر چھڑکنے اور پیغمبر اسلامؐ کے خلاف وسوسہ ڈالنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔⁵

اس تنقید کے ذریعہ ان کی غلط فہمی کا بے بنیاد ہونا بھی واضح اور آشکار ہو جاتا ہے۔

1 مجمع البیان، ج ۱۰، ص ۳۸۴، تفسیر آیہ ”یا ایہا المدثر“...

2 مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۸، ص ۲۶۲؛ محمد ہادی معرفت، التہمید فی علوم القرآن (مرکز مدیریت حوزہ علمیہ قم)، ج ۱، ص ۴۹.

3 جہاں تک ہمیں معلوم ہے کہ پہلا شخص جو اس روایت کے ضعیف اور بے اعتبار ہونے کی طرف متوجہ ہوا وہ مرحوم سید عبد الحسین شرف الدین موسوی (۱۲۹۰-۱۳۷۷ھ. ق) جبل عامل کے مایہ ناز شیعہ عالم دین تھے جنہوں نے اپنی کتاب ”اللمحج العلمی العربی بد مشق“ اور کتاب النص والاجتہاد، ص ۳۲۲-۳۱۹ میں اس روایت پر تنقید اور تجزیہ کیا ہے پھر ہمارے محققین اور علماء نے خاص طور سے دانشمند معظم جناب علی دوانی نے مذکورہ کتاب میں اس کے ذیل میں تفصیلی بحث اور تحقیق فرمائی ہے اور مسئلہ کو مکمل حل کر دیا ہے اور ہم نے اس بحث میں ان کی تحقیقات سے استفادہ کیا ہے۔ شعاع وحی بر فراز کوہ حرا، ص ۱۰۸-۷۰؛ تاریخ اسلام از آغاز تا ہجرت، ص ۱۱۰-۹۸؛ نقشہ ائمہ در احیاء دین، ج ۴، ص ۴۴-۶؛ الصحیح من سیرۃ النبی الاعظم، ج ۱، ص ۲۳۲-۲۱۶؛ خیانت در گزارش تاریخ، ج ۲، ص ۲۳-۱۳؛ التہمید، ج ۱، ص ۵۶-۵۲؛ در سہائی تخیلی از تاریخ اسلام، ج ۲، ص ۲۳۶-۱۹۶.

4 سید مرتضیٰ عسکری، نقش عائشہ در احیاء دین، انتشارات مجمع علمی اسلامی، ج ۴، ص ۱۲.

5 مراجعہ کریں: دائرۃ المعارف الاسلامیہ، ترجمہ عربی توسط محمد ثابت الفندی (اور دوسرے افراد)، ج ۳، ص ۳۹۸۔ (لفظ بحیرا)۔ مونگو مری واٹ۔ ادینبورو یونیورسٹی کے عربی محکمہ کا چیرمین۔ ان لوگوں میں سے ہے جس نے اس سلسلہ میں زہر چھڑکا ہے اور بے بنیاد باتیں کہی ہیں۔ وہ کہتا ہے: ”... ایک ایسے شخص کے بارے میں جس نے آٹھویں صدی عیسوی میں مکہ جیسے دور دار از شہر میں زندگی بسر کی، یہ ایمان رکھنا کہ خدا کی جانب سے وہ پیغمبری کے لئے مبعوث ہوا ہے حیرت کی بات ہے لہذا تعجب کی بات نہیں ہے اگر ہم یہ سنیں کہ محمدؐ کو خوف اور شک لاحق ہوا تھا۔ اس سلسلے میں قرآن اور احادیث میں ایسے شواہد ملتے ہیں جو اس کی زندگی سے مربوط ہیں اور پتہ نہیں کہ اسے اطمینان حاصل ہوا کہ خدا نے اس کو فراموش نہیں کیا ہے!! دوسرا خوف، جنون کا خوف تھا کیونکہ اس زمانہ میں عرب عقیدہ رکھتے تھے کہ اس طرح کے افراد، روحوں یا جنات کے قبضہ میں ہیں۔ مکہ کے کچھ لوگ حضرت محمدؐ کے الہامات کو ایسا بتاتے تھے اور وہ خود بھی کبھی اس تردید کا شکار ہو جاتے تھے کہ حق ان لوگوں کے ساتھ ہے یا نہیں؟! (محمد پیامبر و سیاستمدار، ترجمہ اسماعیل والی زادہ (تہران: کتابفر وشی اسلامی، ۱۳۴۴)، ص ۲۷-۲۶.

مخفی دعوت

حضرت محمدؐ نے تین سال تک خاموشی سے لوگوں کو تبلیغ کی¹ کیونکہ مکہ کے حالات ابھی ظاہری تبلیغ کے لئے ہموار نہیں ہوئے تھے۔ اس تین سال کے دوران آپ مخفی طور سے ایسے افراد سے ملے جن کے بارے میں آپ کو معلوم تھا کہ وہ اسلام قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

لہذا ان کو خدا کی وحدانیت اس کی عبادت اور اپنے نبوت کی طرف دعوت دی۔ اس عرصہ میں قریش آپ کے دعوے سے باخبر ہو گئے تھے۔ لہذا جب کہیں آپ کو راستے میں دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ نبی عبدالمطلب کا جوان آسمان سے باتیں کرتا ہے۔² لیکن چونکہ آپ عمومی جگہوں پر کلام نہیں کرتے تھے لہذا آپ کی دعوت کی باتوں سے کوئی باخبر نہیں تھا اور اسی بنا پر وہ لوگ کوئی عکس العمل نہیں دیکھتے تھے۔

اس عرصہ میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور انھیں ابتدائی مسلمانوں میں سے ایک شخص جس کا نام ارقم تھا اس نے اپنا گھر (جو صفا پہاڑی کے کنارے تھا) پیغمبرؐ کے حوالہ کر دیا حضرت رسول خداؐ اور تمام مسلمان اسی گھر میں جو تبلیغات کا سنٹر تھا ظاہری تبلیغ کے زمانہ تک جمع ہوتے تھے اور وہیں نماز پڑھا کرتے تھے۔³

پہلے مسلمان مرد اور عورت

تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ جناب خدیجہ وہ پہلی خاتون ہیں جو مسلمان ہوئیں اور مردوں میں حضرت علیؑ۔ وہ پہلے شخص ہیں جو پیغمبرؐ کے گردیدہ ہوئے۔⁴ کیونکہ یہ بات فطری ہے کہ پیغمبر اسلامؐ نے غار حرا سے پلٹنے کے بعد اپنے آئین کو سب سے پہلے اپنی شریک حیات جناب خدیجہ اور حضرت علیؑ جو اسی گھر کی ایک فرد اور آپ کی آغوش کے پروردہ تھے ان کے درمیان بیان کیا اور ان دونوں حضرات نے جو کہ آپ کی نبوت کی نشانیوں اور صداقت و راستگویی سے اچھی طرح واقف تھے اس کی تصدیق کی۔

1 ابن ہاشم سابق، ج ۱، ص ۲۸۰؛ طبری سابق، ج ۲، ص ۲۱۶؛ مسعودی، مروج الذهب، ج ۲، ص ۲۷۶-۲۷۷؛ بلاذری سابق، ج ۱، ص ۱۱۶؛ تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۹؛ حلبی سابق، ج ۱، ص ۴۵۶؛ طوسی، الغیبہ (تہران: مکتبہ نبوی الحدیث)، ص ۲۰۲؛ صدوق، کمال الدین و تمام النعمۃ، (قم: موسسہ النشر الاسلامی، ۱۳۶۳) ج ۲، ص ۳۴۴، ج ۲، ص ۲۹۹۔

2 تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۹؛ ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، ج ۱، ص ۱۹۹؛ بلاذری سابق، ج ۱، ص ۱۱۵۔

3 حلبی سابق، ج ۱، ص ۴۵۷-۴۵۶۔

4 ابن ہشام نے ابتدائی مسلمانوں کی تعداد ۸ افراد تک اس طرح سے نقل کی ہے ”علیؑ، زید بن حارثہ، ابو بکر، عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ“ (السیرۃ النبویہ، ج ۱، ص ۲۶۹-۲۷۲)۔

5 جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ چونکہ علیؑ بچپن سے موحد تھے اور کبھی بت پرستی میں آلودہ نہیں ہوئے ان کے مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے (معاذ اللہ) بت پرست تھے اور پھر اسے ترک کر دیا۔ (جبکہ پیغمبرؐ کے دوسرے اصحاب کے بارے میں ایسا ہی تھا) بلکہ انھوں نے حقیقت میں دین اسلام جو کہ اسی توحید پر استوار تھا یہ عنوان دین آسمانی قبول کیا۔ زینی دحلان لکھتے ہیں ”علیؑ ہرگز سابقہ شرک نہیں رکھتے تھے؛ کیونکہ وہ رسول خداؐ کے ایک فرزند کی طرح آنحضرت کے ہمراہ اور ان کے زیر تربیت تھے اور تمام امور میں ان کی پیروی کرتے تھے حدیث میں آیا ہے کہ تین افراد نے ہرگز کفر نہیں اختیار کیا، مومن آل یاسین، علی بن ابی طالب، آسیہ فرعون کی بیوی (السیرۃ النبویہ، ج ۱، ص ۹۲) ابن سعد علیؑ کے بارے میں نقل کرتا ہے کہ لم یعبدا الا دینا قط لصغرہ۔ (الطبقات الکبریٰ، ج ۳، ص ۲۱) اور ابن حجر بیہقی (۹۷۲ھ) ابن سعد کے اس جملہ کو نقل کرنے کے بعد کہتا ہے: ”ومن ثم یقال فیہ کرم اللہ وجہہ۔ (الصواعق المحرقة۔ الباب التاسع، ص ۱۲۰) قبول اسلام کے وقت علیؑ کے سن کے بارے میں مراجعہ کریں: شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید (ط مصر) ج ۱۳، ص ۲۳۵-۲۳۴۔

حضرت علیؑ کی سبقت کی دلیلیں

جو کچھ ذکر ہو چکا ہے اس کے اعتبار سے اگر کوئی حدیث یا تاریخی سند اس مطلب کی تائید نہ بھی کرے پھر بھی اس کا ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جبکہ بے شمار دلیلیں اور شواہد ایسے موجود ہیں جو اس موضوع کی تائید کرتے ہیں، نمونہ کے طور پر ان میں سے کچھ یہ ہیں:

۱۔ حضرت علیؑ کے پہلے اسلام قبول کرنے کو پیغمبر اسلامؐ نے بیان کیا ہے اور مسلمانوں کے ایک گروہ کے درمیان فرمایا ہے: ”تم میں سے سب سے پہلا شخص جو روز قیامت مجھ سے حوض (کوثر) پر ملاقات کرے گا وہ علی بن ابی طالب ہوں گے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔“¹

۲۔ علمائے کرام اور محدثین نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلامؐ دو شنبہ کے دن مبعوث بہ نبوت ہوئے اور علیؑ نے اس کے دوسرے دن (سہ شنبہ) آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔²

۳۔ حضرت علیؑ نے خود فرمایا ہے:

اس روز اسلام، صرف پیغمبرؐ اور خدیجہ کے گھر میں داخل ہوا تھا اور میں ان میں سے تیسرا شخص تھا میں نے نور وحی اور رسالت کو دیکھا اور نبوت کی خوشبو کو محسوس کیا۔³

۴۔ امیر المومنین علیؑ ایک دوسری جگہ اسلام میں اپنی سبقت کے بارے میں اس طرح سے بیان فرماتے ہیں:

اے خدا! میں وہ پہلا شخص ہوں جو تیری طرف آیا ہوں اور تیرے پیغام کو سنا اور پیغمبرؐ کی دعوت پر لبیک کہی ہے مجھ سے پہلے پیغمبرؐ کے علاوہ کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے۔⁴

1 اولکم ورود علی الحوض، اولکم اسلاماً علی بن ابی طالب۔ (ابن عبد البر، الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب، حاشیۃ الاصابہ میں، (بیروت: دار احیاء التراث العربی، ط ۱، ۱۳۲۸ھ) ج ۳، ص ۲۸؛ ابن ابی الحدید، گزشتہ حوالہ، ج ۱۳، ص ۲۲۹؛ مراجعہ کریں: الحاکم النیشاپوری، المستدرک علی الصحیحین، تحقیق: عبد الرحمن المرعشی (بیروت: دار المعرفہ، ط ۱، ۱۴۰۶ھ) ج ۳، ص ۱۷؛ خطیب بغدادی، تاریخ بغداد (بیروت: دار الکتب العربی) ج ۲، ص ۸۱؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۴۳۲؛ بعض روایات میں اس طرح نقل ہوا ہے: اول ہذہ الایۃ ورود علی الحوض اولہا اسلاماً علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ (حلبی، گزشتہ حوالہ، ص ۴۳۲)۔

2 استنبی، النبی یوم الاثنین و صلی علی یوم الثلاثاء۔ (ابن عبد البر، گزشتہ حوالہ، ص ۳۲؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ (بیروت: دار صادر، ۱۳۹۹ھ) ج ۲، ص ۵۷)۔ حاکم نیشاپوری، اس حدیث کو دو طریقہ سے ”نبی رسول اللہ...“ اور ”وحی رسول اللہ یوم الاثنین...“ نقل کیا ہے (گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۱۱۲)۔ بعض روایات میں اس طرح نقل ہوا ہے: استنبی، النبی یوم الاثنین واسلم علی یوم الثلاثاء۔ (ابن ابی الحدید، گزشتہ حوالہ، ص ۲۲۹؛ جوینی، خراسانی، فرد السطین (بیروت: مؤسسۃ المحمودی للطباعة والنشر، ط ۱، ج ۱، ص ۲۴۴)۔ علیؑ خود بھی اس بات پر تاکید کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بعث رسول اللہ یوم الاثنین واسلمت یوم الثلاثاء۔ (سیوطی، تاریخ الخلفاء (قاہرہ: المکتبۃ التجاریۃ الکبریٰ، ط ۳، ۱۳۵۳ھ) ص ۱۶۶؛ الشیخ محمد الصبان، اسعاف الراغبین، در حاشیۃ نور الابصار، ص ۱۴۸؛ احمد بن حجر، الھیتمی المکی، الصواعق المحرقة (قاہرہ: ط ۲، ۱۳۵۵ھ) ص ۱۲۰)۔

3 لم یجمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول اللہ و خدیجہ و انا لثما، اری نور الوحی و الرسالۃ و اشم ریح النبوت۔ (نہج البلاغہ، تحقیق: صبحی صالح، خطبہ ۱۹۲ (قاصد)

4 اللهم انی اول من اناب، و سمع و اجاب، لم یسبقنی الا رسول اللہ بالصلاۃ۔ (گزشتہ حوالہ، خطبہ ۱۳۱)

۵۔ اور ایک جگہ آپ نے اس طرح سے فرمایا: میں خدا کا بندہ، پیغمبر کا بھائی اور صدیق اکبر ہوں میرے بعد اس کلام کو، سوائے جھوٹے، افتراء پر داز کے کوئی نہیں کہے گا۔ میں نے سات سال کی عمر میں، لوگوں سے پہلے رسول خدا کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔¹

۶۔ عقیف بن قیس کندي کہتا ہے: میں دور جاہلیت میں عطر کا تاجر تھا۔ ایک تجارتی سفر کی غرض سے مکہ گیا جب مکہ میں داخل ہوا تو عباس (جو کہ مکہ کے ایک تاجر اور پیغمبر کے چچا تھے) کا مہمان ہوا، ایک دن میں مسجد الحرام میں عباس کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا اور سورج نصف النہار کو پہنچ چکا تھا اس عالم میں ایک جوان مسجد میں داخل ہوا جس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اس نے ایک نظر آسمان پر ڈالی اور پھر کعبے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوا اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا کچھ دیر گزری تھی کہ ایک خوبصورت نوجوان آیا اور اس کے داہنی طرف کھڑا ہو گیا پھر ایک نقاب پوش خاتون آئی اور ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور تینوں ایک ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے اور رکوع و سجود بجالانے لگے۔

میں (بت پرستوں کے بیچ یہ منظر دیکھ کر کہ تین افراد آئین بت پرستی سے ہٹ کر ایک دوسرے آئین کو اپنائے ہوئے ہیں) حیرت میں پڑ گیا اور عباس کی طرف رخ کر کے کہا: یہ بہت بڑا واقعہ ہے! اس نے بھی اسی جملہ کو دہرایا اور مزید کہا: کیا تم ان تینوں کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں: اس نے کہا: پہلا شخص جو دونوں سے پہلے داخل ہوا وہ میرا بھتیجا محمد بن عبد اللہ ہے اور دوسرا شخص میرا بھتیجا علی بن ابی طالب ہے اور تیسرے محمد کی زوجہ ہیں۔ محمد کا دعوا ہے کہ اس کا دین خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے اور ابھی روئے زمین پر ان تینوں کے علاوہ کسی نے اس دین کی پیروی نہیں کی ہے۔²

اس واقعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کی دعوت کے آغاز میں آپ کی زوجہ جناب خدیجہ کے علاوہ صرف حضرت علی نے آپ کے آئین کو قبول کیا تھا۔

اسلام کے قبول کرنے میں پیش قدمی کرنا ایک ایسی فضیلت ہے جس پر قرآن نے تکیہ کر کے فرمایا ہے: ”جو لوگ اسلام لانے میں پیش قدم تھے خدا کی بارگاہ میں بلند درجہ رکھتے ہیں اور وہی اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں۔“³

1 انا عبد اللہ واخو رسولہ وانا الصدیق اکبر لایقو لہا بعدی الا کاذب مفتر۔ صلیت مع رسول اللہ قبل الناس سبع سنین۔ (طبری مگزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۲۱۲: ابن اثیر، کامل فی التاریخ، ج ۲، ص ۵۷)۔ اور اسی مضمون پر کتاب ”مستدرک علی الصحیحین“ ج ۳، ص ۱۱۲: میں جمع آوری ہوئی ہے۔ ابن ابی الحدید، شرح نہج البلاغہ، ج ۱۳، ص ۲۰۰ و ۲۲۸: مراجعہ کریں: مناقب علی بن ابی طالب، ابو بکر احمد بن موسیٰ مرویہ اصفہانی، اور مقدمہ عبد الرزاق محمد حسین حرز الدین (قم: دار الحدیث، ط ۱، ۱۴۲۲ھ) ص ۴۸-۴۷۔

2 طبری، سابق، ج ۲، ص ۲۱۲: ابن ابی الحدید، سابق، ج ۱۳، ص ۲۲۶: ابن ابی الحدید نے اس واقعہ کو عبد اللہ بن مسعود سے بھی نقل کیا ہے: وہ مکہ کے سفر میں اس واقعہ کے گواہ تھے۔

حلی، السیرۃ الخلیبہ، ج ۱، ص ۴۳۶۔ اسی طرح مراجعہ کریں: ابن عبد البر، الاستیعاب (الاصابہ کے حاشیہ میں) ج ۳، ص ۱۶۵: عقیف بن قیس کندي کے حالات زندگی کی تشریح میں، ص ۳۳: پر علی کے حالات زندگی میں تھوڑا لفظ کے اختلاف کے ساتھ: محمد بن اسحاق، السیر والمغازی، تحقیق: ڈاکٹر سہیل زکار، (بیروت، دار المعرفہ، ط ۱، ۱۳۹۸ھ) ص ۱۳۸-۱۳۷: ابو الفتح کراچی، کنز الفوائد (قم: دار الذخائر، ط ۱، ۱۴۱۹ھ) ج ۱، ص ۲۶۲۔ اور اسلام قبول کرنے میں علی کی پیش قدمی کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لئے الغدیر کی طرف رجوع کریں۔ ج ۲، ص ۳۱۴: ج ۳، ص ۲۲۴-۲۲۰

3 والسابقون السابقون۔ اولئک المقربون۔ ”سورہ واقعہ، آیت ۱۱-۱۰۔

دین اسلام قبول کرنے میں سبقت کے موضوع پر قرآن کی خاص توجہ اس حد تک ہے کہ جو لوگ فتح مکہ سے قبل ایمان لائے اور خدا کی راہ میں اپنی جان اور مال سے دریغ نہیں کیا، یہ لوگ ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور جہاد کیا، نص قرآن ان سے افضل اور برتر ہیں۔

”اور تم میں فتح مکہ سے پہلے انفاق اور جہاد کرنے والا اس کے جیسا نہیں ہو سکتا ہے جو فتح کے بعد انفاق اور جہاد کرے۔ پہلے جہاد کرنے والے کا درجہ بہت بلند ہے اگرچہ خدا نے سب سے نیکی کا وعدہ کیا ہے اور وہ تمہارے جملہ اعمال سے باخبر ہے۔“¹

مسلمانوں کے ایمان کی برتری کی وجہ فتح مکہ (جو کہ ۸ھ میں رخ پایا) سے پہلے یہ تھی کہ وہ لوگ ایسے وقت میں ایمان لائے کہ جب اسلام، جزیرۃ العرب میں پورے طور سے قدم نہیں جما سکا تھا اور ابھی بت پرستوں کا اڈہ، یعنی شہر مکہ شکست نپذیر قلعہ کے مانند باقی رہ گیا تھا اور ہر طرف سے خطرات مسلمانوں کی جان و مال کو خوف زدہ کئے ہوئے تھے۔ البتہ مدینہ کی طرف مسلمانوں کی ہجرت کے بعد اور دو قبیلے، اوس و خزرج اور مدینہ کے اطراف میں موجودہ قبائل کا، اسلام کی طرف رجحان پیدا ہونے سے وہاں ترقی اور کچھ امنیت پائی جانے لگی تھی اور بہت ساری لڑائیوں میں انھیں کامیابی بھی ملی۔ لیکن چونکہ خطرات ابھی پورے طور سے برطرف نہیں ہوئے تھے۔ لہذا ایسی صورت میں اسلام کی طرف رجحان اور جان و مال کی قربانی خاص اہمیت رکھتی تھی۔ یقیناً ایسا کام، پیغمبر کی تبلیغ کے آغاز میں جبکہ قریش کی قدرت کے علاوہ اور کوئی قدرت اور بت پرستوں کی طاقت کے علاوہ اور کوئی طاقت نہ تھی، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔

اسی وجہ سے پیغمبر اسلام کے اصحاب کے درمیان اسلام میں سبقت کو ایک بہت بڑا افتخار سمجھا جاتا تھا اور اس توضیح کے ذریعہ اسلام کے سلسلہ میں حضرت علی کی سبقت کی اہمیت اور آپ کے معیار کا اچھی طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے۔

اسلام قبول کرنے میں سبقت کرنے والے گروہ

اس زمانہ کے اجتماعی گروہوں اور طبقوں میں سے دو طبقہ اسلام قبول کرنے میں پیش قدم تھا۔

الف: جوانوں کا طبقہ: ابتدائی مسلمانوں کی فہرست کا تجزیہ کرنے اور دوسرے شواہد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر ابتدائی مسلمان جوان تھے۔ بزرگ اور سن رسیدہ افراد مخالف تھے اور بت پرستی کا رواج ان کے افکار میں رچ بس گیا تھا۔ لیکن جوان نسل کے اذہان اور افکار، جوانی کی بنا پر نئے عقائد اور افکار کو قبول کرنے کے لئے آمادہ اور تیار تھے۔

ایک تاریخی رپورٹ کی بنیاد پر پیغمبر اسلام کے مخفی دعوت کے زمانہ میں جوانوں اور ضعیفوں کا ایک گروہ اسلام کا گرویدہ ہو گیا تھا۔²

جس وقت پیغمبر اسلام نے ظاہری تبلیغ کا آغاز کیا اور آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا تو قریش کے سردار کئی مرتبہ ابوطالب سے شکایت کرنے کے بعد، آخری بار ان کے پاس آئے اور ان سے کہا: ہم کئی بار تمہارے پاس آچکے ہیں تاکہ تمہارے بھتیجے

1 لا یستوی مککم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکما وعد اللہ الحسنى... (سورہ حدید، آیت ۱۰)

2 ابن سعد، طبقات الکبریٰ (بیروت: دار صادر)، ج ۱، ص ۱۹۹.

کے بارے میں تم سے بات کریں کہ ہمارے آباؤ اجداد اور خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں اور ہمارے بچوں، جوانوں، غلاموں اور کیزوں کو ہمارے راستے سے نہ ہٹائیں۔۔۔¹

پیغمبر اسلام نے جب طائف کا تبلیغی سفر کیا تو اس شہر کی اہم شخصیتوں نے اس ڈر سے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ کہیں ان کے جوان آنحضرتؐ کی پیروی نہ کرنے لگیں۔²

مسلمانوں کے حبشہ ہجرت کرنے کے بعد جب قریش کے نمائندے مہاجرین کو پلٹانے کے لئے نجاشی کے دربار میں گئے تو درباریوں سے گفتگو کے دوران اسلام کی طرف مکہ کے جوانوں کے رجحانات کی شکایت کی۔³

ایک شخص قبیلہ ”ہذیل“ سے مکہ میں آیا تو پیغمبر اسلام نے اسے اسلام کی طرف دعوت دی۔

ابو جہل نے اس ہذلی سے کہا: ”کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بات کو قبول کر لو؛ اس لئے کہ وہ ہم کو بے وقوف اور ہمارے گزشتہ آباؤ اجداد کو جہنمی کہتا ہے اور دوسری عجیب و غریب باتیں کرتا ہے!“

ہذلی نے کہا: تم کیوں نہیں اس کو اپنے شہر سے باہر کر دیتے؟

ابو جہل نے جواب دیا: اگر وہ باہر چلا گیا اور جوانوں نے اس کی باتوں کو سن لیا اور اس کی شیریں بیانی کو دیکھ لیا تو وہ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے اور اس کی پیروی کرنے لگیں گے اور ممکن ہے وہ ان کی مدد سے ہم پر حملہ کر دے۔⁴

عتبہ: (قریش کا ایک سردار) نے بھی اسعد بن زرارہ (جو کہ مدینہ میں قبیلہ خزرج کے بزرگوں میں سے تھا) سے ملنے پر پیغمبر اسلام سے جوانوں کے رجحانات اور لگاؤ کا شکوہ کیا۔⁵

ابتدائی مسلمانوں کی فہرست کا تجزیہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں زیادہ تر افراد کی عمر، اسلام قبول کرتے وقت ۳۰ سال سے کم تھی۔ مثلاً سعد بن وقاص ۱۷ یا ۱۹ سال، زمیر بن عوام ۱۵ یا ۱۶^۸ اور عبد الرحمن بن عوف ۳۰ سال کے تھے کیونکہ وہ ”عام الفیل“ کے دس سال

1 بلاذری، انساب الاشراف، تحقیق: محمد حمید اللہ (قاہرہ: دار المعارف، ط ۳)، ج ۱، ص ۲۲۹؛ مراجعہ کریں: بحار الانوار، ج ۱۸، ص ۱۸۵۔

2 ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ۲۱۲۔

3 ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۵۸؛ طبرسی، اعلام الوری، (تہران: دار الکتب الاسلامیہ، ط ۳)، ص ۴۴؛ سیوطی، تذکرۃ الخواص (نجف: المکتبۃ الحیدریہ، ۱۳۸۳ھ)، ص ۱۸۶۔

4 بلاذری، سابق، ص ۱۲۸۔

5 طبرسی، سابق، ص ۵۶۔

6 ابن سعد، سابق، ج ۳، ص ۱۳۹۔

7 حلبی، سیرۃ الحبلیہ، (بیروت: دار المعرفہ)، ج ۱، ص ۴۶۶۔

8 حلبی، سابق، ج ۱، ص ۴۳۴۔

9 ابن سعد، سابق، ج ۳، ص ۱۰۲۔

بعد پیدا ہوئے تھے۔¹ مصعب ابن عمیر بھی تقریباً ۲۵ سال کے تھے۔ کیونکہ جنگ احد ۳ھ میں شہادت کے وقت تقریباً چالیس سال کے تھے۔² ارقم جن کا گھر پیغمبرؐ کے اختیار میں تھا وہ ۲۰ یا ۳۰ سال کے تھے کیونکہ مرتے وقت (۵۵ھ) میں وہ ۸۰ یا ۸۲ سال کے تھے۔³

ب: محروموں اور مظلوموں کا طبقہ: اس گروہ کا مطلب جو اسلامی کتابوں میں ”ضعیفوں“ اور ”مستضعفین“ کے نام سے ذکر ہوا ہے۔ غلام یا آزاد شدہ افراد تھے جو اپنی آزادی کے باوجود عربوں کی رسم کے مطابق ایک طرح سے اپنے آپ کو آقاؤں سے متعلق اور وابستہ سمجھتے تھے اور اصطلاح میں ان کو ”مولیٰ“ (آزاد شدہ) کہا جاتا تھا۔ مستضعفین کا دوسرا گروہ پردیسی اور مسافروں کا تھا جو دوسرے علاقوں سے آکر مکہ میں بس گئے تھے اور چونکہ وہاں کے کسی قبیلہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا لہذا وہ مجبوری کے تحت اپنی جان و مال کی حفاظت کے لئے کسی ایک طاقت ور قبیلہ کی پناہ میں رہتے تھے لیکن پھر بھی قریش کے لوگوں کے مساوی حقوق سے محروم تھے اور اجتماعی لحاظ سے انھیں ایک پست اور حقیر طبقہ سمجھا جاتا تھا۔

مکہ میں اس گروہ کا کوئی قبیلہ یا خاندان نہیں تھا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی قدرت و طاقت تھی⁴ لیکن اسلام قبول کرنے میں سب سے آگے تھے لہذا ان کا مسلمان ہو جانا مشرکوں پر بہت ہی تلخ اور گراں گزرا اور انھیں مسلمانوں کی تحقیر کا مناسب بہانہ مل گیا۔

ایک روایت کی بنا پر جب پیغمبر اسلامؐ مسجد الحرام میں تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ کے ضعیف پیرو، جیسے عمار یاسر، خباب بن الارت، صہیب بن سنان، بلال بن رباح، ابولکھ اور عامر بن فہیر، آپ کے پہلو میں بیٹھتے تھے تو قریش ان کا مذاق اڑاتے تھے اور طعنہ دے کر ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ دیکھو اس کے ہم نشین ایسے لوگ ہیں۔ خدا نے ہم سب لوگوں کے درمیان میں سے فقط ان پر احسان کیا ہے (کہ اسلام کو قبول کر کے ہدایت یافتہ ہوئے ہیں)۔⁵

ایک دن قریش کے سرداروں کا ایک گروہ پیغمبرؐ کی مجلس کے بغل سے گزرا تو اس وقت صہیب، خباب، بلال، عمار وغیرہ پیغمبرؐ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے یہ منظر دیکھ کر کہا: ”اے محمدؐ! اپنی قوم والوں میں سے صرف ان پر تکیہ کیا ہے؟ کیا ہم ان کی پیروی کریں؟! کیا خدا نے صرف ان پر احسان کیا ہے (اور ان کی ہدایت کی ہے؟!) ان کو اپنے سے دور کر دو شاید ہم تمہاری پیروی کر لیں۔ اس وقت سورہ ”انعام“ کی ۵۲ ویں اور ۵۳ ویں آیت نازل ہوئی۔⁶

”اور خبردار جو لوگ صبح و شام اپنے خدا کو پکارتے ہیں اور خدا ہی کو مقصود بنائے ہوئے ہیں انھیں اپنی بزم سے الگ نہ کیجئے گا۔ نہ آپ کے ذمہ ان کا حساب ہے اور نہ ان کے ذمہ آپ کا حساب ہے کہ آپ انھیں دھتکار دیں اور اس طرح ظالموں میں شمار ہو جائیں۔“

1 گزشتہ حوالہ، ص ۱۲۴۔

2 ابن سعد، سابق، ج ۳، ص ۲۲۲۔

3 ابن سعد، سابق، ج ۳، ص ۲۲۴۔ عبد المتعال مصری نے ایک کتاب ”شباب قریش فی بدء الاسلام“ کے نام سے تالیف کی ہے اور قریش کے جن چالیس جوان افراد نے دعوت اسلام کو قبول کیا تھا ان کو ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے اور انھیں سنی بتایا ہے، جن میں سب سے اول حضرت علیؓ ہیں۔ ص ۳۳-۳۴۔

4 بلاذری، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۵۶ اور ۱۸۱؛ رجوع کریں: طبقات الکبریٰ، ج ۳، ص ۲۳۸۔

5 گزشتہ حوالہ۔

6 طبری، مجمع البیان، ج ۲، ص ۳۰۵۔

اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعہ آزمایا ہے تاکہ وہ یہ کہیں کہ یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے ہمارے درمیان فضل و کرم کیا ہے اور کیا وہ اپنے شکر گزار بندوں کو بھی نہیں جانتا؟¹

پیغمبرؐ کی رسالت کے ابتدائی سالوں میں قریش نے چند نمائندے مدینہ بھیجے تاکہ اس شہر کے یہودیوں سے آپ کے بارے میں تحقیق کریں۔ ان لوگوں نے یہودیوں سے کہا: ”جو حادثہ ہمارے شہر میں رونما ہوا ہے اس کے لئے ہم تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں ایک یتیم اور حقیر جو ان بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے اس کا خیال ہے کہ وہ ”رحمان“ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور ہم، صرف ایک شخص کو اس نام سے جو ”یمامہ“ میں رہتا ہے جانتے ہیں“

یہودیوں نے پیغمبر اسلامؐ کی خصوصیات کے بارے میں چند سوالات کئے ان میں ایک سوال یہ تھا کہ کن لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے؟ ان لوگوں نے کہا: ہم میں سے پست لوگوں نے۔

یہودیوں کا بڑا عالم ہنسا اور کہا: یہ وہی پیغمبرؐ ہے جس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں اور اس کی قوم اس کی شدید دشمن ہو جائے گی۔² البتہ مفلوک الحال لوگوں کا تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف رجحان ہرگز مصلحتی اسلام یا طبقاتی منافع کی خاطر نہیں تھا بلکہ انسانی تسلط اور حکمرانی کے نفی کا پہلو اور خدائی حکمرانی کے قبول کرنے کا مسئلہ تھا اور یہ مسئلہ سب سے زیادہ، مستکبرین اور تسلط خواہوں کے اجتماعی طاقت کے لئے خطرہ بن گیا تھا اور ان کی مخالفت کو اکسانے کا باعث بنا تھا جیسا کہ گزشتہ پیغمبروں کے زمانہ میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔

”تو ان کی قوم کے بڑے لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تم کو اپنا ہی جیسا ایک انسان سمجھ رہے ہیں اور تمہارے اتباع کرنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پست طبقہ کے سادہ لوح افراد ہیں۔ ہم تمہارے لئے اپنے اوپر کسی فضیلت و برتری کے قائل نہیں ہیں بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔“³

”تو ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کمزور بنادیئے جانے والے لوگوں میں سے جو ایمان لائے تھے ان سے کہنا شروع کیا کہ کیا تمہیں اس کا یقین ہے کہ صالح خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیشک ہمیں ان کے پیغام کا ایمان اور ایقان حاصل ہے۔ تو بڑے لوگوں نے جواب دیا کہ ہم تو ان باتوں کے منکر ہیں جن پر تم ایمان لائے ہو۔“⁴

دعوت ذوالعشرہ

پیغمبر اسلامؐ کی رسالت کے تیسرے سال فرشتہ وحی خدا کا حکم لیکر آپ کے پاس نازل ہوا کہ اپنے خاندان والوں اور رشتہ داروں کو ڈرائیں اور انہیں دعوت دیں:

1 سورۃ النعام آیت ۵۳-۵۲۔

2 ابن سعد معزز شیعہ حوالہ، ج ۱ ص ۱۶۵؛ حلبی معزز شیعہ حوالہ، ج ۱ ص ۳۹۹۔

3 سورۃ ہود آیت ۲۷۔

4 سورۃ الاعراف آیت ۷۶-۷۵۔

”اور پیغمبرؐ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈاریئے اور جو صاحبان ایمان آپ کا اتباع کر لیں ان کے لئے اپنے شانوں کو جھکا دیجئے پھر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں کے اعمال سے بیزار ہوں“¹

اس آیت کے نازل ہونے پر پیغمبر اسلامؐ نے علیؑ کو حکم دیا کہ کھانے کا انتظام کیا جائے اور عبدالمطلب کی اولاد کو دعوت دی جائے تاکہ خدا کا حکم ان تک پہنچایا جاسکے۔ چنانچہ علیؑ نے ایسا ہی کیا۔ تقریباً کم و بیش چالیس (۴۰) افراد جمع ہوئے جن میں ابوطالب، حمزہ اور ابولہب بھی تھے، کھانا کم تھا اور عام طور سے انتاکم کھانا اتنے بڑے مجمع کے لئے ناکافی تھا۔ لیکن سب نے سیر ہو کر کھایا۔ ابولہب نے کہا: ”اس نے تم پر جادو کر دیا ہے“ یہ بات سن کر سارا مجمع پیغمبرؐ کی بات سننے سے کنارہ کش ہو گیا اور پیغمبرؐ نے بھی کوئی بات نہیں کہی اور مجلس کسی نتیجہ پر پہنچے بغیر تمام ہو گئی۔ پیغمبرؐ کے حکم سے دوسرے دن علیؑ نے پھر اسی طرح کھانے کا انتظام کیا اور ان لوگوں کو دعوت دی اس مرتبہ پیغمبرؐ نے مجمع سے کھانا کھانے کے فوراً بعد فرمایا: ”عرب کے درمیان کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے بہتر چیز تمہارے لئے لے کر آیا ہو میں دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نیکی تمہارے لئے لیکر آیا ہوں خدا نے حکم دیا ہے کہ تم کو اس کی جانب دعوت دوں تم میں سے کون ہے جو اس وقت میری مدد کرنے کے لئے تیار ہے؟ تاکہ وہ میرا بھائی، وصی اور جانشین تمہارے درمیان قرار پائے“

کسی نے جواب نہ دیا، علیؑ جو کہ سب سے کم سن تھے، کہا: اے خدا کے رسول! میں آپ کی مدد کرنے کے لئے تیار ہوں“ پیغمبرؐ نے فرمایا: ”یہ تمہارے درمیان میرا بھائی، وصی اور جانشین ہے، اس کی باتوں کو سنو اور اس کی اطاعت کرو“²

یہ واقعہ ہم کو ایک بنیادی مطلب کی طرف راہنمائی کرتا ہے کہ ”نبوت“ اور ”امامت“ دو ایسے بنیادی اصول ہیں جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں کیونکہ پیغمبر اسلامؐ نے اپنی رسالت کے ابتدائی سالوں میں اپنی نبوت کے اعلان کے دن، مسلمانوں کی آئندہ رہبری اور امامت کو بھی بیان کیا۔

دوسری طرف سے یہ تصور نہ ہو کہ پیغمبرؐ نے صرف ایک بار وہ بھی ”غدير خم“ میں (اپنی زندگی کے آخری مہینے میں) علیؑ کی امامت کو بیان کیا ہے۔ بلکہ دعوت ذوالعشرہ کے علاوہ بھی دوسری مناسبتوں سے (جیسے حدیث منزلت میں) بھی اس موضوع کو ذکر فرمایا ہے: البتہ غدير خم میں سب سے زیادہ واضح اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جہاں مجمع بھی بہت زیادہ تھا۔

1 سورہ شعرا، آیت ۲۱۶-۲۱۴

2 یہ واقعہ اسلامی دانشوروں کے درمیان ”بدء الدعوة“، ”يوم الدار“ اور ”يوم الانذار“ کے نام سے مشہور ہے، اکثر محدثین، مفسرین اور مورخین نے اس واقعہ کو تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے، ان میں سے محمد بن جریر الطبری، تاریخ الامم والملوک، ج ۲، ص ۲۱۷؛ ابن اثیر، الکامل فی تاریخ، ج ۲، ص ۶۳؛ ابن ابی الحدید، شرح نہج البلاغہ، ج ۱۳، ص ۲۱۱؛ بیہقی، دلائل النبوة، ترجمہ محمود مہدی دامغانی، ج ۱، ص ۲۷۸؛ طبرسی، مجمع البیان، ج ۷، ص ۲۰۶؛ شیخ مفید، الارشاد، ص ۲۹؛ علی بن موسی بن طاووس، الطرائف فی معرفۃ مذاہب الطوائف، ج ۱، ص ۲۰؛ حلبی، السیرۃ الحلبيہ، (انسان العیون)، ج ۱، ص ۴۶۱؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۸، ص ۱۷۸؛ ۱۸۱؛ ۱۸۲؛ ۲۱۴؛ علامہ امینی، الغدير، ج ۲، ص ۲۸۹-۲۷۸؛ سید مرتضیٰ عسکری، نقش ائمه در احیاء دین، ج ۲، ص ۸۶؛ ج ۶، ص ۱۸-۱۷؛ احمد حنبل، مسند، ج ۱، ص ۱۵۹۔ قابل ذکر ہیں جیسا کہ مرحوم علامہ امینی نے توجہ دی ہے کہ مورخین کے درمیان طبری نے اپنی تاریخ میں اسی طرح سے نقل کیا ہے جیسا کہ ہم نے لکھا ہے۔ لیکن اپنی تفسیر (جامع البیان، ج ۱۹، ص ۷۵) میں کلام پیغمبرؐ کو دو جگہ پر تحریف کر کے بجائے میرا وصی اور جانشین کے ”ایسا اور ویسا“ لفظ ذکر کیا ہے: فانکم یوازر علی ہذا الامر علی ان یکون اخي وکذا وکذا ثم قال ان ہذا اخي وکذا وکذا فاسمعوا لہ واطیعوا۔ اسماعیل بن کثیر شامی نے بھی اپنی تین کتابوں میں (تفسیر، ج ۳، ص ۳۵۱؛ البدایہ والنہایہ، ج ۳، ص ۴۰؛ السیرۃ النبویہ، ج ۱، ص ۴۵۹)، میں اس غلط روش میں اس کی پیروی کی ہے! البتہ ان دو افراد کے خاص نظریات کی بنا پر اس مسئلہ میں ان کے مقاصد کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔

سوروں کی ترتیب نزول کے لحاظ سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ دعوت ذوالعشرہ کا واقعہ، دعوت ظاہری سے کچھ دن پہلے پیش آیا ہے۔¹

1 سورہ ”شعراء“ جس میں آیات انذار موجود ہے سورہ واقعہ کے بعد نازل ہوا ہے اور پھر ترتیب وار سورہ ”نمل“، ”قصص“، ”اسراء“، ”یونس“، ”ہود“، ”یوسف“ اور ”سورہ حجر“ جس میں علنی دعوت کا حکم ”فاصدع بما تؤمر“ موجود ہے نازل ہوا ہے (محمد ہادی معرفت، التمهید فی علوم القرآن، ج ۱، ص ۱۰۵)

دوسری فصل

علی الاعلان تبلیغ اور مخالفتوں کا آغاز

ظاہری تبلیغ کا آغاز

پیغمبر اسلام ایک عرصہ سے مخفی دعوت کا آغاز کر چکے تھے اس کے بعد خداوند عالم کی طرف سے آپ کو حکم ملا کہ اپنی دعوت کو علی الاعلان پیش کیجئے اور مشرکین سے نہ ڈریئے۔

”پس آپ اس بات کا واضح اعلان کر دیں جس کا حکم دیا گیا ہے اور مشرکین سے کنارہ کش ہو جائیں ہم ان استہزاء کرنے والوں کے لئے کافی ہیں۔“¹

یہ فرمان ملنے پر ایک دن پیغمبر اسلام مقام ”الطح“² میں کھڑے ہوئے اور فرمایا: ”میں خدا کی جانب سے بھیجا گیا ہوں تم کو خدائے یکتا کی عبادت اور بتوں کی عبادت ترک کرنے کی دعوت دیتا ہوں جو کہ نہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں اور نہ نقصان، نہ تمہارے خالق ہیں اور نہ ہی رازق، اور نہ کسی کو زندہ کرتے ہیں اور نہ کسی کو مارتے ہیں۔“³

اس دن سے پیغمبر کی دعوت ایک نئے مرحلہ میں داخل ہو گئی اور آپ نے اجتماعی پروگراموں میں حج کے دوران، منیٰ اور اطراف مکہ میں رہنے والے قبائل کے درمیان دعوت و تبلیغ شروع کر دی۔

قریش کی کوششیں

پیغمبر اسلام کے ظاہری تبلیغ کے آغاز میں، قریش نے کوئی خاص عکس العمل (ریکشن) نہیں دکھایا؛ لیکن جس دن سے پیغمبر نے ان کے بتوں کا کھلے الفاظ میں سختی سے انکار کیا اور بتوں کو ایک بے شعور اور بے اثر، موجود بتایا، ان کو طیش آگیا اور وہ پیغمبر کی مخالفت اور ان کے خلاف

1 سورہ حجر، آیت ۹۵ .

2 الطح سے مراد، منیٰ کے نزدیک ایک درہ ہے، (یا قوت حموی، معجم البلدان، ج ۱، ص ۷۴) گویا حج کے وقت منیٰ میں حاجیوں کے اجتماع کے موقع پر فرمایا ہے۔

3 تاریخ یعقوبی، ج ۱، ص ۱۹۔ پیغمبر اسلام کی پہلی ظاہری دعوت مختلف صورتوں میں نقل ہوئی ہے۔ اور شاید آنحضرتؐ نے تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد بت پرستوں کو اس طرح کے بیانات سے دعوت دی ہے۔ مراجعہ کریں: یعقوبی، سابق، ص ۱۹؛ طبری، سابق، ج ۲، ص ۲۱۶؛ بلاذری، انساب الاشراف، ج ۱، ص ۱۲۱؛ بیہقی، سابق، ج ۱، ص ۲۷۹؛ طبری، اعلام الوری، (تہران: دارالکتب الاسلامیہ، ط ۳) ص ۳۹؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۸، ص ۱۸۵؛ حلبی، سابق، ج ۱، ص ۴۶۱۔

گروپ بازی پر کمر بستہ ہو گئے۔¹ لیکن چونکہ مکہ میں قبیلہ جاتی نظام پایا جاتا تھا لہذا محمدؐ کو گزند پہنچانے پر انھیں قبیلہ بنی ہاشم کے انتقام کا خطرہ لاحق تھا لہذا وہ قریش کے سرکردہ لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ محمدؐ کو دعوت سے روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ابو طالب پر جو کہ اس کے چچا ہیں اور ان کی نظر میں محمدؐ کا بڑا احترام ہے، دباؤ ڈالیں تاکہ وہ اپنے بھتیجے کو اس راہ پر چلنے سے منع کریں۔ لہذا وہ لوگ کئی بار جناب ابوطالب سے اس خیال سے ملے کہ وہ (ابوطالب) حسب و نسب اور سن کے لحاظ سے سماج میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اور ان سے کہا کہ وہ اپنے بھتیجے کو منع کریں کہ وہ ان کے خداؤں کو برا بھلا اور ان کے دین و آئین کو بیکار، اور ان کو بیوقوف اور ان کے آباء و اجداد کو گمراہ کہنے سے باز آجائے۔

وہ لوگ ان ملاقاتوں میں کبھی دھمکی کے ذریعہ اور کبھی مال و ثروت اور ریاست کی لالچ دے کر ان سے مطالبہ کرتے تھے اور جب کسی نتیجہ پر نہ پہنچتے تو ابوطالب سے پیش کش کی کہ اس کو (محمدؐ) عمارہ بن ولید بن مغیرہ سے جو کہ ایک خوبصورت اور طاقت ور جوان، اور قریش کا شاعر ہے بدل لیں۔ لیکن ابوطالب نے اسے بھی قبول نہیں کیا۔ ایک مرتبہ کفار قریش نے جناب ابوطالب اور پیغمبر اسلامؐ کو جنگ اور قتل کی سخت دھمکی دی تو آنحضرتؐ نے ان کی دھمکی کے جواب میں فرمایا: ”چچا جان! اگر سورج کو ہمارے داہنے ہاتھ پر اور چاند کو بائیں ہاتھ پر رکھ دیں پھر بھی میں اپنے کام سے باز نہ آؤں گا۔ یہاں تک کہ خداوند اس کام کو کامیابی سے ہمکنار کر دے یا میں اس راہ میں نابود ہو جاؤں۔“²

ابوطالب کی طرف سے حمایت کا اعلان

قریش کی دھمکیوں پر جناب ابوطالب نے (رشتہ داری کے ناتے) پیغمبر اسلامؐ کی حمایت کا اعلان کیا اور قبیلہ بنی ہاشم کے لوگوں کو خواہ وہ مسلمان رہے ہوں یا بت پرست سب کو اسی کام کے لئے آمادہ کیا اور قریش کو خبر دار کیا کہ اگر ان کے بھتیجے کو گزند پہنچا تو بنی ہاشم کے انتقام سے وہ بچ نہیں سکتے ہیں۔³ کیونکہ قبائلی جنگ ایک خطرناک کام تھا اور اس کے نتائج افسوس ناک اور غیر مشخص تھے اور قریش کے سردار

1 طبری، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۲۱۸؛ ابن ہشام، السیرۃ النبویہ (قاہرہ: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ۱۳۵۵ھ، ق) ج ۱، ص ۲۸۲؛ ابن سعد، طبقات الکبریٰ، ج ۱، ص ۱۹۹؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج ۲، ص ۶۳۔

2 طبری، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۲۰۰؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ۲۸۷-۲۸۸ اور ۳۱۳-۳۱۶؛ بیہقی، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۸۲؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۰۳-۲۰۴؛ بلاذری، گزشتہ حوالہ، ص ۲۳۱-۲۳۲؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج ۲، ص ۶۵-۶۳؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۶۳-۶۲؛ ابن کثیر، السیرۃ النبویہ (قاہرہ: مطبعة عیسیٰ البابي الحلبي، ۱۳۸۳ھ، ق) ج ۱، ص ۴۷-۴۸۔ اس نقل کے مطابق، پیغمبر اسلامؐ کا سورج اور چاند سے جواب دینا قریش کی دھمکی سے ظاہراً مناسبت نہیں رکھتا تھا اور اس کے سند میں بھی بحث ہوئی ہے لیکن جو جواب بعض کتابوں میں نقل ہوا ہے وہ قریش کی دھمکی سے مناسبت رکھتا ہے۔ اس نقل کی بنیاد پر رسول خداؐ نے اپنے چچا سے قریش کے دھمکی آمیز پیغام کو سننے کے بعد آسمان کی طرف رخ کر کے فرمایا: ”میرے لئے تبلیغ اور رسالت کا چھوڑنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا تم میں سے کوئی ہاتھ پھیلائے اور چاہے کہ خورشید کا ایک شعلہ اپنے ہاتھ میں لے لے“ اس وقت جناب ابوطالب نے قریش کے نمائندوں سے کہا: خدا کی قسم! میرے بھتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ تم لوگ یہاں سے پلٹ جاؤ!“ (حافظ نور الدین، ہیثمی، مجمع الزوائد، بیروت: دار الکتب، ج ۶، ص ۱۵؛ معجم اوسط، کبیر طبرانی اور مسند ابی یعلیٰ کے نقل کے مطابق) ہیثمی نے روایت ابویعلیٰ کی سند کو صحیح بتایا ہے اور مزید رجوع کریں۔ فقہ السیرۃ کی طرف۔ محمد غزالی، عالم المعرفہ، ص ۱۱۵-۱۱۴۔

3 ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ۲۸۷؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ص ۲۲۰؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب (قم: المطبعة العلمیہ)، ج ۱، ص ۵۹؛ ابن اثیر، گزشتہ حوالہ، ص ۶۵؛ ابن کثیر، گزشتہ حوالہ، ص ۷۷-۷۴؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ص ۶۳۔

ابھی اس قسم کا خطرہ مول لینے کے لئے تیار نہیں تھے۔ لہذا وہ اپنی اس دھمکی کو پورا نہیں کر سکے اور ناکام رہے۔ بنی ہاشم میں سے صرف ابوہب، دشمنوں کی صف میں تھا۔

قریش کی طرف سے مخالفت کے اسباب

یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قریش نے پیغمبر اسلام کی ظاہری دعوت کے ابتدائی سالوں میں جبکہ اس وقت اسلام کی تعلیمات اور قرآن کے احکام ابھی تھوڑے سے نازل ہوئے تھے، کن خطرات کا احساس کر لیا تھا کہ مخالفت کے لئے کمر بستہ ہو گئے تھے؟

کیا ان کی مخالفت فقط اس بنا پر تھی کہ وہ بت پرست تھے یا دوسرے اسباب و علل بھی پائے جاتے تھے۔ (البتہ یہ گفتگو قریش کے سرداروں اور ان کے بزرگوں کے جذبات کے بارے میں ہے، لیکن عوام الناس اپنے قبائل کے سرداروں کی پیروی میں تھے۔ ان کے احساسات اور جذبات کو ابھارنا اور ان کو ایک نئے دین کے خلاف ورغلا نا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ کیونکہ وہ لوگ اپنے عقائد و آداب و رسوم کے اس قدر پابند تھے کہ کسی بھی جدید دین کے مقابلہ میں عکس العمل دکھا سکتے تھے۔¹

مکہ میں قریش کی قدرت، نفوذ اور ان کے اعلیٰ مقام کو دیکھتے ہوئے شاید ان کی مخالفت کو سمجھنا دشوار نہ تھا اس لئے کہ تجارت اور خانہ کعبہ کی کنجی کی ذمہ داری کی بحث میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ یہ قبیلہ مکہ کی اجتماعی اور اقتصادی قدرت کو اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے تھا اور اپنے کسی رقیب کو برداشت نہیں کرتا تھا اور کسی کو اجازت نہیں دیتا تھا کہ بغیر اس کی یا اس کے قبیلہ کی مرضی کے کوئی قدم اٹھاسکے۔ قریش دوسرے قبائل سے خیرا حلیتے تھے اور ان کے ساتھ دو گانہ سلوک کرتے تھے۔ اور اپنی سیاست خانہ خدا کے زائروں پر تھوپتے تھے۔

اس بنا پر یہ فطری بات تھی کہ بزرگان قریش، حضرت محمدؐ کے دین کو برداشت نہ کریں؛ کیونکہ وہ آنحضرتؐ کے ابتدائی بیانات سے سمجھ گئے تھے کہ اس کا دین ہمارے دین کے برخلاف اور ضد ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبرؐ کو یہ پیش بینی کر دی گئی تھی کہ بہر حال ایک گروہ آپ کے دین کو قبول کرے گا اور آپ کو اس کے ذریعہ شہرت ملے گی۔ لہذا یہ چیزیں ہرگز قریش کی شان کے مطابق نہ تھیں۔

ان تمام باتوں کے پیش نظر مکہ میں نازل ابتدائی آیات اور سوروں اور تمام دستاویز اور شواہد کے تجزیہ و تحلیل سے قریش کی مخالفت کے اسباب و عوامل میں سے چند اہم اسباب کو شمار کیا جاسکتا ہے:

سماجی نظام کے بکھرنے کا خوف

مکہ میں رائج سماجی نظام کے قبائلی ہونے کے اعتبار سے، اور قریش کے پاس بہت ہی زیادہ امتیازات ہونے کی بنا پر ایک طرح سے وہاں قریش کی استبدادی حکومت پائی جاتی تھی اور سرداران قریش اس نظام کے عادی ہو گئے تھے لہذا وہ کسی طرح سے تیار نہیں تھے کہ ایک معمولی سی ضرب بھی اس نظام کے ڈھانچہ پر لگے !

1 خداوند عالم نے قرآن مجید میں، متعدد مقامات پر ان کے دینی تعصب، اور موروثی عقائد اور رسم و رواج کی تقلید کے بارے میں ذکر فرمایا ہے اور اس کی مذمت کی ہے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: سورہ بقرہ، آیت ۱۷۰، مائدہ، آیت ۱۰۴، یونس، آیت ۷۸، لقمان، آیت ۲۱، زخرف، آیت ۳۲-۲۲۔

یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت محمدؐ کی پیروی کرنے والا پہلا گروہ جوانوں، ضعیفوں، محروموں اور غلاموں کا تھا۔ اور خود آنحضرتؐ بھی سرمایہ داروں میں سے نہیں تھے بلکہ بچپن میں یتیم، جوانی میں نادار اور تہی دست اور قبیلہ کے اندر آپ کا شمار دوسرے درجہ کے افراد میں ہوتا تھا۔ آپ کے چچا ابوطالب بھی تمام خاندانی شرافتوں کے باوجود تنگدست تھے اور یہ تمام چیزیں سرداران قریش کو خبردار کر رہی تھیں کہ حضرت محمدؐ کی دعوت تبلیغ نے ان کے نظام اجتماعی کی بنیادوں کو خطرہ میں ڈال دیا اور ہم نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہے کہ وہ لوگ، تبلیغ کے انھیں ابتدائی دنوں سے جوانوں، محروموں اور غلاموں کے رجحانات کا شکوہ کرتے تھے۔ اور حبشہ سے مہاجرین کو پلٹانے کے لئے قریش کے نمائندوں نے نجاشی کے دربار میں اپنے آپ کو مکہ کے سرمایہ داروں کا نمائندہ بتایا۔¹

قرآن ان کے اس استکبارانہ نظریات پر معترض ہوا (کیونکہ مکہ یا طائف کا کوئی ثروتمند پیغمبری کے درجے پر فائز نہیں ہوا تھا) اور اس کو اس طرح سے بیان کیا: ”اور یہ کہنے لگے کہ آخر یہ قرآن دو بستیوں (مکہ و طائف) کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا ہے۔“²

ایک تفسیر کی بنیاد پر مرد بزرگ سے مراد مکہ میں ولید بن مغیرہ (بنی مخزوم کا سردار) اور طائف میں عروہ بن مسعود ثقفی (مشہور دولتمند) ہے۔³ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ایک دن ولید نے کہا: کس طرح سے یہ قرآن محمدؐ پر نازل ہوا؟ اور مجھ پر نازل نہ ہوا؟ جبکہ میں قریش کا سید و سردار ہوں!“⁴ لہذا ابتدا میں قریش حضرت محمدؐ کی دعوت سے اس لئے مخالف ہو گئے کہ وہ ان کے اجتماعی نظام کے لئے خطرہ بن گئے تھے نہ اس لحاظ سے کہ انھوں نے ایک نیا آئین پیش کیا تھا۔

اقتصادی خوف

بعض معاصر محققین نے قریش کی مخالفت کا ایک قوی سبب اقتصادی مقاصد کو قرار دیا ہے۔

قرآن مجید کی کئی آیات کا ایک حصہ ثروتمندوں اور مالداروں کی شدت سے مذمت کرتا ہے۔

مکہ کے بڑے سرمایہ داروں اور دولتمندوں نے (جیسا کہ تجارت اور کعبہ کی کنجی کی بحث میں، بعض افراد کی بے شمار دولت سے آگاہ ہو چکے ہیں) ان آیات کو سن کر، خطرے کا احساس کیا کہ محمدؐ کے دین کو ترقی ملنے پر، ان کے اقتصادی منافع خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اس طرح کی کچھ آیات بطور نمہ پیش ہیں :

”اب مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے۔ اور اس کے لئے کثیر مال قرار دیا ہے۔ اور نگاہ کے سامنے رہنے والے بیٹے قرار دئے ہیں۔ اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی ہے اور پھر بھی چاہتا ہے کہ اور اضافہ کروں۔ ہرگز نہیں یہ ہماری نشانیوں کا سخت دشمن تھا۔“⁵

1 وقد بعثنا نفیم اشرف قومہم۔ (ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۱، ص ۳۵۸۔

2 وقالوا لولنا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم“ (سورۃ زخرف، آیت ۳۱)

3 طبری، مجمع البیان، ج ۹، ص ۴۶۔

4 ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۱، ص ۳۸۷؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج ۱، ص ۵۰۔

5 سورۃ مدثر، آیت ۱۶-۱۱۔

”ہم عنقریب اسے جہنم واصل کر دیں گے۔ اور تم کیا جانو کہ جہنم کیا ہے۔ وہ کسی کو چھوڑنے والا اور باقی رکھنے والا نہیں ہے۔ بدن کو جلا کر سیاہ کر دینے والا ہے۔“¹

”ابولہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ نہ اس کا مال ہی اس کے کام آیا اور نہ اس کا کمایا ہوا سامان ہی۔ وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو گا۔“²

”تباہی اور بربادی ہے ہر طعنہ زن اور چغلمخور کے لئے۔ جس نے مال کو جمع کیا اور خوب اس کا حساب رکھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا۔ ہرگز نہیں اسے یقیناً حطمہ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا شے ہے۔ یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ جو دلوں تک چڑھ جائے گی۔“³

”پھر جس نے خدا کی راہ میں مال عطا کیا اور تقویٰ اختیار کیا۔ اور نیکی کی تصدیق کی۔ تو اس کے لئے ہم آسان راہ کا انتظام کر دیں گے۔ اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی۔ اور نیکی کو جھٹلایا ہے۔ اس کے لئے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے۔ اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔“⁴

ان آیات میں غور و غوض کرنے سے اور ان کی شان نزول کے بارے میں تحقیق کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات ان کی مخالفت کے اظہار کے بعد نازل ہوئی ہیں (اور ان کی ابتدائی مخالفت کی علت نہیں تھیں) اور شاید مخالفت اور دشمنی میں شدت پیدا کرنے کے لئے اور مخالفین کی تعداد کے بڑھنے میں موثر تھیں۔

بہر حال مکہ کے بڑے سرمایہ دار اور تاجر حضرتؑ کے اصل مخالفین میں تھے۔

ایک مورخ کہتا ہے: ”چونکہ رسول خداؐ اپنی قوم کو راہ راست اور اس نور کی طرف بلارہے تھے جو ان پر نازل ہوا تھا لہذا دعوت کے آغاز میں وہ آپ سے دور نہیں ہوئے اور قریب تھا کہ وہ آپ کی باتوں کو قبول کر لیں۔ اسی اثنا میں آپ نے ان کے طغوتوں اور خداؤں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور قریش کا ایک ثروتمند اور مالدار گروہ طائف سے آیا⁵ اور آپ کی باتوں کو ناپسند کیا اور قبول کرنے سے انکار کر دیا اور آپ کے

1 سألہ سقر، وما دبریک ما سقر، لاتبقي ولا تذر، لواحة للبشر“ (سورہ مدثر، آیت ۲۹-۲۶) ”سورہ مدثر کو سوروں کی ترتیب نزول کے اعتبار سے چوتھا سورہ کہا گیا ہے۔ (التمہید، ج ۱، ص ۱۰۴)

2 ”تَبَّتْ یَدَا ابْنِ لَهَبٍ وَ تَبَّ، مَا اَغْنٰی عَنْهُ مَالُهُ وَ مَا کَسَبَ، سِیَصِلٰی نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ“۔ (سورہ مسد، آیت ۳۔

۱) سورہ مسد کو سوروں کی ترتیب نزول کے اعتبار سے چھٹا سورہ کہا گیا ہے۔ (التمہید، ج ۱، ص ۱۰۴)

3 سورہ حمزہ، آیت ۷۔

۴ ”فَأَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَ اتَّقٰی وَ صدق بالحسنى، فسنبسره للیسرى، و اما من بخل و استغنی و کذب بالحسنى فسنبسره للعسرى و ما یغنی عنه ماله اذا تردى“ (سورہ لیل، آیت ۱۱-۵) اس سورہ کو ترتیب نزول کے اعتبار سے نواں سورہ کہا گیا ہے۔ (التمہید، ج ۱، ص ۱۰۴)

5 گویا ان لوگوں نے اپنا سرمایہ طائف میں لگا رکھا تھا اور مکہ کے علاوہ وہاں پر بھی تجارت کا ایک مرکز بنا رکھا تھا۔

ساتھ بری طرح سے لڑنے کے لئے کھڑا ہو گیا اور اپنے چاہنے والوں کو آپ کے خلاف ورغلا یا اس وقت کچھ لوگ آپ سے کنارہ کش ہو گئے اور آپ کو چھوڑ دیا۔¹

پڑوسی طاقتوں کا خوف و ہراس

قرآن مجید نے ان کے خوف و ہراس کے اظہارات کو نقل کیا ہے جو انھیں پڑوسی ملکوں اور طاقتوں سے اسلام قبول کرنے کی صورت میں لاحق تھا۔ اور اس خوف و ہراس کو بے جا قرار دیا ہے۔

”اور کفار کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ حق کی پیروی کریں گے تو اپنی زمین سے اچک لئے جائیں گے۔ تو کیا ہم نے انھیں ایک محفوظ حرم پر قبضہ نہیں دیا ہے جس کی طرف ہر شے کے پھل ہماری دی ہوئے روزی کی بنا پر چلے آ رہے ہیں لیکن ان کی اکثریت سمجھتی ہی نہیں ہے۔“²

ایک دن حارث بن نوفل بن عبد مناف نے پیغمبر اسلام سے کہا: ”ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ حق ہے۔ لیکن اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں اور آپ کے ہم عقیدہ ہو جائیں تو ہمیں ڈر ہے کہ کہیں عرب ہمیں اپنی سرزمین سے نکال نہ دیں اور ہم عرب سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔“³

ان کے اظہارات سے پتہ چلتا ہے کہ انھیں ایران و روم کے شہنشاہوں⁴ کی ناراضگی کا خوف بھی تھا۔ اور یہ چیز پڑوسی ملکوں کے مقابلہ میں عربوں کی حقارت اور کمزوری کی علامت بھی ہے۔ جیسا کہ ایک دن پیغمبر اسلام نے عرب کے چند بڑے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی اور قرآن کریم کی کچھ آیات کو جو فطری اور اخلاقی تعلیمات پر مشتمل تھیں ان کے لئے تلاوت فرمائی؛ تو وہ سب کے سب بے حد متاثر ہوئے اور ہر ایک نے اپنے طور پر آپ کی تحسین و تعریف کی لیکن شنی بن حارثہ جو، ان کا راس رئیس اور اصل سرغنہ تھا اس نے کہا: ”ہم دو پانی کے بیچ بسے ہوئے ہیں ایک طرف سے عرب کا دریا اور ساحلی علاقہ اور دوسری طرف سے ایران اور کسریٰ کی نہریں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، کسریٰ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ کوئی نئی بات نہ ہونے پائے اور کسی خطا کار کو پناہ نہ دی جائے۔“

1 طبری، تاریخ الامم والملوک (بیروت: دارالقلموس الحدیث) ج ۲، ص ۲۲۱؛ جو لوگ انسانی زندگی اور سماج کی تبدیلیوں کو صرف مادی نظر سے دیکھتے ہیں وہ اسلام سے قریش کی مخالفت کا سبب، اقتصادی مقاصد کو حد سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ درحقیقت مسئلے کے صرف ایک پہلو کو نظر میں رکھتے ہیں۔ بطروشف کی (جو کہ روس کا مشہور اسلام اور ایران شناس اور لنینگراد یونیورسٹی کے شرق شناسی کالج کا پروفیسر ہے، کو اس قسم کے مسئلہ میں فتاویٰ اور تفکر کا ایک نمونہ سمجھا جاسکتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ ”... بزرگان مکہ، رباخو اور غلاموں کی تجارت کرتے تھے اور کھلم کھلا محمدؐ کی تبلیغات کی مخالفت کرتے تھے یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ اس دشمنی کا سبب دینی تعصب تھا بلکہ بت پرستی کے خلاف محمدؐ کی تبلیغات مکہ کے تاجروں کے سیاسی اور تجارتی منافع کے لئے خطرہ بن گئی تھیں، کیونکہ آپ کی دعوت سے ممکن تھا کہ کعبہ اور بتوں کی پرستش ختم ہو جائے اور یہ نہ تنہا زوار کے ہجوم کو کم کرے گا بلکہ مکہ کے بازار کو بھی ماند اور اس شہر کے تجارتی معاملات کو دوسرے علاقوں سے بھی کم کر دے گا بلکہ مکہ کے سیاسی نفوذ کے ختم ہونے کا باعث بنے گا۔ یہی وجہ تھی کہ صنادید مکہ محمدؐ کی دعوت کو اپنے منافع کے لحاظ بہت زیادہ خطرناک سمجھ رہے تھے اور آپ سے نفرت کرتے تھے (اسلام در ایران، ترجمہ کریم کشاورزی، ج ۷، تہران: انتشارات پیام، ۱۳۶۳، ص ۲۶)“ متن میں جو وضاحت ہم نے کی ہے اس سے بطروشف کی نظریہ کا بے بنیاد ہونا ثابت ہو جاتا ہے اور مزید توضیح کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔

2 سورہ قصص، آیت ۵۷۔

3 طبری، مجمع البیان، ج ۷، ص ۲۶۰؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب، (تم: المطبعة العلییہ)، ج ۱، ص ۵۱۔

4 مناقب، ج ۱، ص ۵۹۔

لہذا شاید آپ کے آئین کو قبول کرنا شہنشاہوں کیلئے خوش آئند نہ ہو۔ اور اگر ہم سے، سرزمین عرب میں کوئی غلطی ہو جائے تو وہ قابل چشم پوشی ہے لیکن اس طرح کی غلطیاں ایران کے علاقے میں (کسری کی طرف سے) قابل غفور و بخشش نہیں ہیں۔¹

قبیلہ جاتی رقابت اور حسد

قبائلی ڈھانچے کا ایک اثر یہ ہوا کہ اہم موضوعات پر رقابت اور بے حد فخر و مباہات شروع ہو گئے جس کی وجہ سے اس قبائلی سماج میں ناانصافی ہونا شروع ہو گئی اور چونکہ پیغمبر اسلام قبیلہ بنی ہاشم سے تھے لہذا سارے سرداران قبائل رقابت اور قبائلی حسد کے جذبہ کے تحت آپ کی نبوت کو (جو کہ بنی ہاشم کی شرافت اور فخر و مباہات کا باعث تھی) قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوئے۔ ابو جہل قبیلہ بنی مخزوم سے تھا جو کہ قبائل قریش میں سے ثروتمند ترین اور پر نفوذ ترین قبیلہ تھا اس نے اس بات کو کھل کر بیان کیا:

”ہم نے عبد مناف کے لڑکوں سے شرف و بزرگی کی خاطر جنگ کی، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے لہذا ہم نے بھی لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا وہ لوگوں کے لئے سواری کا انتظام کرتے تھے۔ لہذا ہم نے بھی ایسا کیا وہ لوگوں کو پیسہ دیتے تھے تو ہم نے بھی ایسا کیا۔ یہاں تک ہم دونوں برابر ہو گئے اور دو گھوڑوں کی طرح دونوں میں مسابقت ہو اس وقت وہ کہنے لگے کہ ہم میں سے ایک پیغمبر کے درجہ پر فائز ہوا جس کے اوپر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے لہذا اب ہم کس طرح سے اس مرتبہ میں اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم ہرگز اس پر ایمان نہ لائیں گے اور نہ ہی اس کی تصدیق کریں گے“۔²

امیہ بن ابوالصلت، جو کہ طائف کا بہت بڑا شاعر اور رئیس تھا اور پہلے حنفیہ میں رہتا تھا۔³

اور اسی جذبہ کے تحت اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا کہ وہ برسوں سے پیغمبر موعود کے انتظار میں تھا لیکن وہ خود ایک حد تک امید لگائے بیٹھا ہوا تھا کہ اس درجہ پر فائز ہو گا۔ لہذا اس نے جیسے ہی پیغمبر اسلام کے بعثت کی خبر سنی، آپ کی پیروی سے کنارہ کش ہو گیا اور اس کی وجہ اس نے زنان ثقیف سے حیاء و شرم بتائی اور کہا: ”مدتوں سے ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم پیغمبر موعود بنیں گے اب کس طرح سے یہ برداشت کریں کہ وہ ہم کو عبد مناف کے ایک جوان کا پیرو دیکھیں“۔⁴

1 محمد ابوالفضل ابراہیم (اور ان کے معاونین)، قصص العرب (بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۳۸۲ھ، ق) ج ۲، ص ۲۵۸؛ ابن کثیر، الدایہ والنہایہ (بیروت: مطبعة المعارف، ۱۹۷۷ء) ج ۳، ص ۱۳۴۔

2 ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۳؛ ابن شہر آشوب، ج ۱، ص ۵۰؛ ابن کثیر، السیرۃ النبویہ، تحقیق: مصطفیٰ عبدالواحد (قاہرہ: ۱۳۸۴ھ، ق) ج ۱، ص ۵۰۷۔

3 مراجعہ کریں: اس کتاب کے باب ”جزیرۃ العرب اور اس کے اطراف میں ادیان و مذاہب“ میں (حنفا)

4 ابن کثیر، السیرۃ النبویہ، ج ۱، ص ۱۳۰۔

تیسری فصل

قریش کی مخالفت کے نتائج اور ان کے اقدامات

مسلمانوں پر ظلم و تشدد

مسلمانوں کی روز بروز بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ جناب ابوطالب سے قریش کی گفتگو کرنے کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اور بنی ہاشم پیغمبر اسلام کی حمایت کے لئے کھڑے ہو گئے تو وہ پیغمبر کو جانی نقصان پہنچانے سے ناتواں ہو گئے اور مسلمانوں کو نئی نئی اذیتیں اور سزائیں دینا شروع کر دیں تاکہ اس طرح سے انھیں اسلام کی طرف جانے سے منع کر دیں گے۔¹

قریش کے لئے مشکل یہ تھی کہ نو مسلم افراد صرف ایک دو قبیلہ سے نہیں تھے جن کو آسانی سے روکا جاسکتا ہے بلکہ ہر قبیلہ سے چند افراد اس نئے دین کو اپنائے ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ کے آزار و اذیت سے تنگ آ کر جن مسلمانوں نے ۵ھ میں حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی ان کی فہرست پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں اور مرد مختلف قبائل (جیسے بنی عبد شمس، بنی اسد، بنی عبد الدار، بنی زہرہ، بنی مخزوم، بنی جحج، بنی عدی، بنی حارث، بنی عامر اور بنی امیہ) سے مسلمان ہوئے تھے۔

اس بنا پر مشرکوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہر قبیلہ، اپنے مسلمانوں کو سزائیں دے تاکہ دوسرے قبائل کے افراد کے مداخلہ کرنے سے ان میں تعصب نہ پیدا ہو اور وہ کوئی عکس العمل نہ دکھائیں۔

زیادہ تر تکلیفیں اور سزائیں نو مسلم مستضعفوں کو دی جاتیں تھیں کہ جن کے بارے میں ہم نے بتایا ہے کہ وہ غلام، پردیسی اور بغیر کسی قبیلہ کی حمایت کے رہتے تھے۔² یاسر اور ان کے فرزند عمار، بلال بن رباح، خباب بن ارت، ابو قلیہ، عامر بن فھیر، صہیب بن سنان اور خواتین اور کنیزوں میں سُمیہ، ام عُبَیس، (یا اُم عُنَیْس) زَئیرہ، لُبیبہ (یا لُبْنَبیہ) اور نُمَیہ؛ یہ وہ افراد تھے³ جن کو مختلف مواقع پر بھوک اور پیاس، قید و بند، ضرب و شتم اور مکہ کے پتے ہوئے ریگ زار پر لٹا کر شدید گرمی کے عالم میں سزائیں دی گئیں یا پتے ہوئے صحرا میں آہنی زرہ پہنا کر یا ان کی گردنوں میں رسی باندھ کر بچوں کے ذریعہ پھرایا گیا۔

1 طبری، تاریخ الامم والملوک، (بیروت: دار القاموس الحدیث)، ج ۲، ص ۲۲۱۔

2 بلاذری، انساب الاشراف، تحقیق: ڈاکٹر محمد حمید اللہ (قاہرہ: دار المعارف، ط ۳)، ج ۱، ص ۱۹۷؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، (بیروت: دار صادر)، ج ۲، ص ۶۶۔

3 بلاذری، معزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۹۶-۱۵۶؛ ابن اثیر، معزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۷۰-۶۶۔

حبشہ کی طرف ہجرت

خود پیغمبر اسلام، جناب ابوطالب اور بنی ہاشم کی حمایت کے سایہ میں قریش کے جانی نقصان سے محفوظ تھے۔ لیکن اور دوسرے مسلمانوں کی بے پناہ اذیتوں اور سزاؤں کو دیکھ کر (ایک وقتی راہ حل اور امان کی خاطر) آپ نے ان کو سمجھایا کہ، ملک حبشہ ہجرت کر جائیں اور فرمایا کہ ”وہاں کا بادشاہ انصاف پسند اور وہاں کی سرزمین سچی اور با امن ہے۔“¹

اس زمانہ میں صرف حبشہ مسلمانوں کے ہجرت کے لئے مناسب جگہ تھی۔ ایران و روم یا اس کے زیر اثر دوسرے علاقے جیسے شام اور یمن ہر ایک کے لئے ممکن تھا کہ کسی نہ کسی وجہ سے (قریش کے ورغلانے یا اپنی سیاست کی بنا پر) مسلمانوں کو قبول نہ کریں یا ہجرت کے بعد ان کے لئے مشکلات اور پریشانیاں کھڑی کر دیں۔ اس کے علاوہ حبشہ مسلمانوں کے لئے ایک جانی پہچانی جگہ تھی۔ کیونکہ اہل مکہ تجارت کی غرض سے وہاں آیا جایا کرتے تھے۔²

اس کے علاوہ حبشہ کے لوگ مسیحی تھے۔ خدا پرستی کے عقیدہ میں وہ مسلمانوں کے ساتھ شریک تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حبشہ کے مسیحی ”یعقوبی“ فرقہ سے تعلق رکھتے تھے اور یہ فرقہ خدا کو اکیلی ماہیت (یک اقنوم) جانتا تھا اور تثلیث (یعنی تین خداؤں کا عقیدہ) نہیں رکھتا تھا اور اس لحاظ سے ان کا عقیدہ توحید اسلامی سے قریب تھا۔³

بہر حال پیغمبر کے کہنے پر بعثت کے پانچویں سال،⁴ مسلمانوں کا ایک ۱۵ نفری⁵ گروہ خفیہ طریقے سے مکہ چھوڑ کر، بندر شعبہ کے راستے سے، بحر احمر کو عبور کرتا ہوا حبشہ پہنچا۔ یہ گروہ دو تین مہینے حبشہ میں رہنے کے بعد قریش کے اسلام لانے کی افواہ اور مسلمانوں پر سے اذیتوں اور دباؤ کے ختم ہونے کی خبر سن کر دوبارہ مکہ پلٹ آیا۔⁶

لیکن چونکہ زور و زبردستی اور سزائیں ویسے ہی برقرار تھیں لہذا پھر مسلمانوں کا ایک دوسرا گروہ اسی راستے سے حبشہ پہنچا۔ اس مرتبہ ان کی تعداد (عورت و مرد ملا کر) ایک سو ایک افراد پر مشتمل تھی⁷ اور ان کی سرپرستی جعفر ابن ابی طالب کے ذمہ تھی جب مہاجرین، حبشہ میں امن و سلامتی کے ساتھ رہنے لگے تو ایک مدت کے بعد قریش کو خطرے کا احساس ہوا اور انھوں نے اپنا نمائندہ، نجاشی کے دربار میں بھیجنا کہ وہ

1 ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۱، ص ۳۴۴؛ تاریخ الامم والملوک، ج ۲، ص ۲۲۲؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج ۲، ص ۷۶۔

2 طبری، مغازی حبشہ حوالہ، ص ۲۲۱۔

3 عمر فروخ، تاریخ صدر الاسلام والدولۃ الامویہ (بیروت: دار العلم، المجلدین، ط ۳، ۱۹۷۶ء)، ص ۵۴؛ ڈاکٹر عباس زریاب، سیرۃ رسول اللہ، تہران: سروش، ط ۱، ۱۳۷۰ (۱۹۷۹ء)۔

4 ابن سعد، طبقات الکبریٰ، ج ۱، ص ۲۰۴؛ بلاذری، انساب الاشراف، ج ۱، ص ۲۲۸؛ ابن اثیر، مغازی حبشہ حوالہ، ص ۷۷۔

5 ابن سعد، مغازی حبشہ حوالہ، ص ۲۰۴؛ ابن ہشام، مغازی حبشہ حوالہ، ص ۳۴۴؛ طبری، مغازی حبشہ حوالہ، ص ۲۲۲۔۲۲۱۔

6 بلاذری، مغازی حبشہ حوالہ، ص ۲۲۷۔

7 ابن سعد، سابق، ص ۲۰۷۔ مہاجرین کی تعداد اس سے بھی کم لکھی گئی ہے لیکن مہاجرین کے ناموں کی تعداد جو کہ تاریخ میں درج ہے وہ پہلی تعداد کی تصدیق کرتی ہے۔ مراجعہ کریں: ابن ہشام، سابق، ص ۳۵۳۔۳۴۶؛ ڈاکٹر محمد ابراہیم آیتی، تاریخ، (انتشارات تہران یونیورسٹی، ط ۲، ۱۳۶۱ء) ص ۱۳۲۔۱۳۱۔

بادشاہ سے مطالبہ کرے کہ مہاجرین کو ان کے شہر واپس بھیج دیا جائے۔ ادھر جناب ابوطالب اس سازش سے آگاہ ہو گئے اور انھوں نے ایک خط نجاشی کے پاس لکھا اور اس سے مہاجرین کی حمایت کی درخواست کی۔¹

نجاشی کے دربار میں قریش کے نمائندوں کے دعوے کے بعد، جناب جعفر ابن ابی طالب نے مفصل طریقے سے سنجیدہ الفاظ میں موقع کے لحاظ سے گفتگو فرمائی۔ اور بہت اچھے انداز میں اپنے موقف کا دفاع کیا اور نجاشی کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی نجاشی نے پناہ گزینوں کو قریش کے نمائندوں کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا اور ان کو اپنی حمایت میں رکھا۔²

البتہ تمام مہاجرین کو سزائیں نہیں ملی تھیں ان میں سے کچھ طاقت ور قبیلے کے لوگ بھی تھے اور مشرکین کی مجال نہیں تھی کہ ان کو اذیتیں یا سزائیں دیتے۔ لیکن بہر حال مکہ کا ماحول بہت پر آشوب اور تکلیف دہ ہو گیا تھا اور شاید پیغمبر اسلام کا مقصد یہ بھی رہا ہو کہ مسلمانوں کو ایسے ماحول سے دور رکھ کر حبشہ میں اسلام کی حمایت اور اس کے دین کے مخالفوں کے خلاف ایک مرکز وجود میں آئے۔

جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ حبشہ میں مہاجرین کا بسنا تبلیغی اثرات کے لحاظ سے خالی نہ تھا جیسے کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے اسلام قبول کیا اور پیغمبر اسلام سے روابط برقرار کئے۔³ گویا قریش نے اس اندیشے کے پیش نظر اپنے نمائندے کو بھیجا تھا۔

کچھ ایسے شواہد اور ثبوت ملتے ہیں کہ پیغمبر اسلام مسلسل مہاجرین کے حالات کی خبر گیری فرماتے تھے جیسا کہ بعض کے ارتداد اور عبد اللہ بن جحش (ایک مہاجر) کے مرنے کی خبر آپ کو ملی۔⁴

1 ابن ہشام، سابق، ج ۱، ص ۳۵۷؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۸، ص ۴۱۸؛ نقل طبری کے مطابق جناب ابوطالب نے اپنے خط میں یہ اشعار لکھے تھے :

تعلم ملیک الحبش ان محمداً نبی کموسی والمسیح بن مریم

اتی بالہدی مغل الذی اتیانہ و کل بأمر اللہ یدہی و یعصم

وانکم تتلونہ فی کتابکم یصدق حدیث لاحدیث مرجم

فلاتجعلوا للہ ندّاً و اسلموا فان طریق الحق لیس بمظلم

(اعلام الوری، ص ۴۵)

2 طبری، گزشتہ حوالہ، ص ۴۴-۴۳؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ۳۶۰-۳۵۶؛ ابن اثیر، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۸۱-۷۹۔

3 بعض کتابوں میں نقل ہوا ہے کہ حبشہ سے پلٹتے وقت جعفر ابن ابی طالب کے ہمراہ وہاں کے ستر افراد تھے۔ اور پیغمبر اسلام سے گفتگو کے بعد وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ (مجمع البیان، ج ۳، ص ۲۳۴)

4 ابن سعد، سابق، ص ۲۰۸

اس مرتبہ حبشہ میں مہاجروں کا قیام زیادہ رہا اور اس عرصے میں گیارہ لوگ وہاں فوت ہو گئے، ۳۹۰ افراد رسول خدا کی ہجرت سے پہلے مکہ پلٹ آئے، کچھ عورتیں اور ۲۶ مرد پیغمبر کی ہجرت اور جنگ بدر کے بعد مدینہ پلٹ آئے اور آخری گروہ جعفر ابن ابی طالب کی سرپرستی میں ہجرت کے ساتویں سال واپس ہوا اور جنگ خیبر کے تمام ہو جانے کے بعد اس مقام پر پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچا۔¹

حضرت فاطمہ زہرا کی ولادت

شیعہ مورخین کے درمیان مشہور قول کی بنا پر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بعثت کے پانچویں سال مکہ میں متولد ہوئیں۔² وہ پیغمبر اسلام کی سب سے چھوٹی اولاد تھیں اور آپ کی شریک حیات جناب خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئیں اور ہجرت کے بعد مدینہ میں ان کی شادی علیؑ کے ساتھ ہوئی۔ شہزادی نے اسی کمسنی کے عالم میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ مشرکوں سے جہاد کیا اور طاقت فرسا مشکلات کو برداشت کیا اور اس زمانہ کے مصائب و آلام کو ہمیشہ یاد رکھا۔

اسراء اور معراج

پیغمبر اسلام کا بطور اعجاز راتوں رات مکہ سے بیت المقدس کی طرف سفر کرنا (اسراء) اور وہاں سے خداوند عالم کی قدرت کاملہ کے ذریعہ آسمانوں کا سفر کرنا (معراج) کہلایا اور ان دونوں واقعات کو مکہ کے واقعات میں شامل کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ دونوں واقعات، مکی سوروں میں نقل ہوئے ہیں لیکن وقوع واقعہ کے سال میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

پیغمبر اسلام کے ان دونوں سفر کا مقصد یہ تھا کہ خداوند عالم کی عظمت کی نشانیوں کو اس وسیع و عریض کائنات اور آسمانوں میں آپ مشاہدہ کریں اور فرشتوں اور پیغمبروں کی روحوں سے ملاقات، بہشت و دوزخ کے اندر کا ماحول، اور اہل بہشت اور ان کے درجات وغیرہ کا مشاہدہ فرمائیں جیسا کہ خداوند عالم نے سورہ اسراء میں اس بات کا تذکرہ اس طرح سے کیا ہے۔

”پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے اطراف کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں بیشک وہ پروردگار سب کی سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔“³

پیغمبر اسلام نے اس سفر میں جن مراحل کو طے کیا اس کو بیان کرنے کے بعد ”معراج“ کے بارے میں بھی فرمایا: ”اس نے (پیغمبر) اپنے پروردگار کی کچھ بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔“⁴

1 ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج ۸، ص ۹۷؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ۲۳۸؛ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، (بیروت: مکتبہ المعارف، ۱۹۶۶ء)، ج ۴، ص ۱۳۳؛ آیتی، گزشتہ حوالہ، ص ۱۳۲۔

2 مجلسی، بحار الانوار، ج ۴۳، ص ۷ کے بعد۔ لیکن اہل سنت کے درمیان ان کی ولادت بعثت کے پانچ سال پہلے مشہور ہے۔ (سید جعفر شہدی، زندگی فاطمہ زہراؑ) (تہران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۵ء)، ص ۳۲-۳۴۔

3 سورہ اسراء، آیت ۱۔

4 لقد رای من آیات ربہ الکبریٰ (سورہ نجم، آیت ۱۸)۔

ساتویں امام سے ایک شخص نے سوال کیا کہ جب خدا مکان نہیں رکھتا تو پیغمبرؐ کو آسمانوں پر کیوں لے گیا؛ تو آپؐ نے فرمایا: خداوند عالم زمان و مکان سے مبرا ہے اس نے چاہا کہ پیغمبرؐ کے ذریعے فرشتوں اور آسمانوں کے ساکنوں کو عزیز اور بزرگ قرار دے اور آپ ان کا مشاہدہ کریں اور یہ بھی چاہا کہ آپ کو اپنی عظمت کی نشانیوں کا نظارہ کرائے تاکہ آپ وہاں سے زمین پر آنے کے بعد لوگوں سے سارا ماجرا بیان کریں اور یہ فعل ہرگز اس معنی میں نہیں ہے جس کو فرقہ مشبہ کہتے ہیں اور خداوند عالم، جسم، مادہ اور مکان سے منزہ ہے۔¹

روایات معراج کی تحلیل اور ان کا تجزیہ

پیغمبر اسلامؐ کے آسمانی سفر کے بارے میں بہت ساری روایات نقل ہوئی ہیں جس کو طبرسی (مشہور و معروف مفسر) نے چار حصوں پر تقسیم کیا ہے:

۱۔ وہ روایات جو متواتر ہونے کی بنا پر قطعی اور مسلم ہیں جیسے اصل معراج۔

۲۔ وہ روایات جن میں ایسی باتوں کا تذکرہ ہوا ہے جس کو قبول کرنا عقل کی رو سے قباحت نہیں رکھتا ہے اور جو کسی مسلم دستور کے خلاف نہیں ہیں جیسے آسمانوں میں پیغمبرؐ کا سفر کرنا، پیغمبروں کی زیارت، بہشت و دوزخ وغیرہ کی زیارت۔

۳۔ ایسی حدیثیں جن کا ظاہر، ان مسلم اصولوں کے خلاف نہیں ہے جو آیات یا اسلامی روایات سے ماخوذ ہیں لیکن اس کے باوجود وہ قابل تاویل و توجیہ ہیں اس طرح کی حدیثوں کی ایسی تاویل کرنا چاہیے جو صحیح اعتقاد اور محکم دلیل کے موافق ہو جیسے وہ روایات جو یہ کہتی ہیں کہ پیغمبرؐ نے اہل بہشت کے ایک گروہ کو بہشت میں اور اہل دوزخ کے ایک گروہ کو دوزخ میں دیکھا ہے ان مناظر کے بارے میں کہا جائے کہ یہ ایک طرح سے بہشت اور دوزخ واقعی کی مثال اور صورت تھی۔

۴۔ ایسے مطالب جو ظاہر آقابل قبول نہیں ہیں اور قابل تاویل و توجیہ بھی نہیں ہیں۔ جیسے یہ کہ پیغمبرؐ نے اس سفر میں خدا کو چشم ظاہری سے دیکھا اور اس سے باتیں کیں اور تخت الہی پر اس کے بغل میں بیٹھے۔ اس طرح کی مطالب باطل اور بے بنیاد ہیں۔²

علمائے امامیہ کے عقیدہ کے مطابق پیغمبر اسلامؐ کی معراج جسمانی تھی یعنی وہ اپنے ”جسم“ اور ”روح“ کے ساتھ سفر پر گئے تھے۔³

1 بحرانی، تفسیر البرہان، (قم: دارالکتب العلمیہ، ۱۳۹۳ھ)، ج ۲، ص ۴۰۰۔

2 مجمع البیان، (تہران: شرک المعارف)، ج ۶، ص ۳۹۵، تفسیر آیہ سورہ اسراء۔

3 مجلسی، سابق، ج ۱۸، ص ۲۹۰؛ تفسیر نمونہ، ج ۱۲، ص ۱۷ کے بعد آج کے علمی قوانین کے اعتبار سے واقعہ معراج کا رونما ہونا ممکن ہے رجوع کیجئے: تفسیر نمونہ، ج ۱۲، ص ۳۰-۱۷؛ فروغ ابدیت، ج ۲، ص ۳۹۴۔

اسلامی روایات کی بنیاد پر روزانہ کی پنجگانہ نماز معراج کے سفر میں واجب ہوئی ہے۔¹ اگر معراج سے قبل پیغمبر اسلام یا علیؑ کو نماز پڑھتے دیکھا گیا یا ان سے نماز نقل ہوئی تو وہ نماز غیر واجب یا ایسی نماز تھی جو روزانہ کی پنجگانہ نماز کے شرائط اور خصوصیات کے مطابق نہیں تھی۔²

بنی ہاشم کا سماجی اور اقتصادی بائیکاٹ

جب قریش کے سرداروں کو جناب ابوطالب سے ملنے پر کوئی نتیجہ نہ نکلا اور حبشہ سے مہاجرین کے پلٹانے میں ناکام رہے اور دوسری طرف سے بڑی اور اہم شخصیتیں اسلام قبول کرنے لگیں اور مختلف قبائل سے اسلام کی پیروی کرنے والے افراد میں اضافہ ہونے لگا تو ناچار ہو کر یہ پلان بنایا کہ دباؤ کے نئے طریقوں کو اپنایا جائے اور وہ یہ کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خاندان کو اجتماعی اور اقتصادی طور پر دبائیں تاکہ رسول خداؐ کی حمایت سے ہاتھ اٹھالیں اور ان کو ہمارے سپرد کر دیں۔ اس مشورے کے بعد آپس میں ایک عہد نامہ لکھا گیا کہ بنی ہاشم سے نہ لڑ کی لیں اور نہ ان کو لڑکی دیں اور نہ ہی ان سے خرید و فروخت اور معاملہ کریں۔³

اس سے قبل بیان کر چکے ہیں کہ مکہ کے لوگوں کا ذریعہ معاش صرف تجارت تھا اور اقتصاد و تجارت پر اختیار اور کنٹرول سارا قریش کا تھا۔ لہذا اگر وہ کسی شخص یا گروہ کا بائیکاٹ کر دیتے تھے تو اس کا مطلب، اس کی مکمل محرومیت ہوتی تھی۔ اسی لئے ان کی نظر میں یہ بہت موثر حربہ تھا اور اس بات کی امید تھی کہ بنی ہاشم جلد ہی ان کے سامنے گٹھنٹے ٹیک دیں گے۔

شادی کا بائیکاٹ اور بنی ہاشم کے ساتھ قطع روابط، جس کا کہ بعض کتابوں میں قریش کے عہد نامہ کے ایک بند کے طور پر ذکر ہوا ہے⁴ زیادہ تر اجتماعی پہلو رکھتا تھا گویا وہ لوگ چاہتے تھے کہ بنی ہاشم اس لحاظ سے بھی سخت مشکلات اور دباؤ میں رہیں۔

اس عہد نامہ پر دستخط کے بعد جناب ابوطالب کے مشورے⁵ سے بنی ہاشم کے تمام افراد چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر⁶ (سوائے ابولہب کے)

1 کلیبی، الفروع من الکافی، (تہران: دار الکتب الاسلامیہ) ط ۱۳۶۲، ج ۳، ص ۴۸۷-۴۸۸؛ ابن سعد، طبقات الکبریٰ، ج ۱، ص ۲۱۳؛ صحیح بخاری، تحقیق: الشیخ قاسم الشماعی الرفاعی، (بیروت: دار القلم، ط ۱، ۱۴۰۰ھ، ق)، ج ۵، مناقب الانصار، باب ۱۰۴، ص ۱۳۲-۱۳۳؛ شیخ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعہ، (بیروت: دار احیاء التراث العربی، ط ۴)، ج ۳، کتاب الصلاۃ، ص ۷، حدیث ۵، ص ۳۵، حدیث ۱۴، ص ۶۰، حدیث ۶؛ مجلسی، مگزشتہ حوالہ، ج ۱۸، ص ۳۲۸؛ سید ہاشم بحرانی، مگزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۹۳۳۔

2 علامہ امینی، الغدير، ج ۳، ص ۲۴۲۔

3 ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۱، ص ۷۵؛ طبری، مگزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۲۲۵؛ بلاذری، انساب الاشراف، تحقیق: محمد حمید اللہ (قاہرہ: دار المعارف، ط ۳)، ج ۱، ص ۲۳۴۔

4 بلاذری، مگزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۳۴؛ ابن سعد، طبقات الکبریٰ، ج ۱، ص ۲۰۹؛ ابن ابی الحدید، شرح نہج البلاغہ، ج ۱۴، ص ۵۸۔

5 بلاذری، مگزشتہ حوالہ، ص ۲۳۰؛ ابن شہر آشوب، مگزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۶۳؛ ابن اسحاق، السیر والمغازی، تحقیق: سہیل زکار (بیروت: دار الفکر، ط ۱، ۱۳۹۸ھ)، ص ۱۵۹؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۹، ص ۱۸۔

6 ابن ابی الحدید، شرح نہج البلاغہ، تحقیق: محمد ابو الفضل ابراہیم (قاہرہ: دار احیاء الکتب العربیہ، ۱۹۶۱ء)، ج ۱۴، ص ۶۴؛ قتال نیشاپوری، روضۃ الواعظین (بیروت: موسسۃ العلمی للطبوعات، ط ۱، ۱۴۰۶ھ)، ص ۶۳۔

”شعب ابوطالب¹“ میں جمع ہوئے² اور تین سال تک جب تک بائیکاٹ جاری رہا وہاں گزارے۔

اگرچہ قریش کا پیمانہ اجتماعی اور اقتصادی پہلو رکھتا تھا لیکن چونکہ قریش کو پیغمبر اسلام اور بنی ہاشم سے بہت زیادہ بغض و عناد تھا اور وہ اعلان کر چکے تھے کہ ہم میں اور بنی ہاشم میں حل کا واحد راستہ محمدؐ کا قتل ہے اسی وجہ سے جناب ابوطالب، حضرت رسول خداؐ اور بنی ہاشم کی جان کے بارے میں بہت فکر مند تھے لہذا انھوں نے درہ میں جا کر پناہ لی تاکہ ان کی حفاظت اور نگرانی کرنا آسان رہے۔ اور تاریخ میں بنی ہاشم کے مردوں کی تعداد چالیس افراد⁴ نقل ہوئی ہے جنہیں آپ نے شعب کی نگہبانی کے لئے مقرر کیا تھا اور آپ ہر شب پیغمبرؐ سے کہتے تھے کہ کچھ دیر استراحت کرنے کے بعد اپنی جگہ بدل دیں اور ان کی جگہ اپنے فرزند علیؑ کو لٹا دیتے تھے⁵ تاکہ اس طرح محمدؐ کی جان قریش کے حملہ اور سوء قصد سے محفوظ رہ سکے۔

اس دوران قریش نے شعب میں راشن غلہ کے پہنچنے میں رکاوٹ کھڑی کر دی اور بنی ہاشم، ہر طرح کے لین دین سے محروم اور سخت مشکلات میں گرفتار ہو گئے صرف وہ محرم کے مہینہ میں (حج اور عمرہ کے موسم میں) آذوقہ کی فراہمی کے لئے شہر میں جاتے تھے۔⁶ اس وقت بھی قریش مکہ کی طرف جانے والے تجارتی قافلوں کو خبردار کر دیتے تھے کہ بنی ہاشم کو کوئی چیز فروخت نہ کریں ورنہ ان کے اموال غارت کر دیئے جائیں گے۔⁷ اور اگر بنی ہاشم قریش سے کوئی چیز خریدنا چاہتے تھے تو وہ اس کی قیمت بہت زیادہ بتاتے تھے تاکہ وہ خرید نہ سکیں۔⁸

1 دو پہاڑوں کے بیچ کے درہ اور شکاف کو ”شعب“ کہتے ہیں۔ ”شعب ابوطالب“ جو کہ بعد میں ”ابو یوسف“ کے نام سے مشہور ہوا، عبد المطلب کی وجہ سے قرار پایا ہے۔ جب ان کی آنکھیں ضعیف ہو گئیں تو انھوں نے اس کو اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کر دیا۔ پیغمبر اسلام کو بھی اپنے والد بزرگوار جناب عبد اللہ کا حصہ ملا۔ اس درہ میں بنی ہاشم کے گھر تھے (یا قوت حموی، معجم البلدان، ج ۳، ص ۳۷) جدید تحقیقات کی روشنی میں شعب ابی طالب۔ بعض لوگوں کے تصور کے برخلاف، حجبوں میں جو کہ آج اہل مکہ کے درمیان ”جبة العلاء“ کے نام سے اور ایرانیوں کے درمیان ”قبرستان ابوطالب“ کے نام سے معروف ہے، نہیں ہے، بلکہ مسجد الحرام کے قریب، صفا و مروہ پہاڑی کے بغل اور ابو قتیس پہاڑ کے شمالی حصہ میں واقع ہے۔ پیغمبر اسلام کی ولادت اور جناب خدیجہ کا گھر اسی درہ میں تھا اور پیغمبر اسلام ہجرت کے وقت تک اسی درہ میں رہتے تھے۔ پیغمبر اسلام کے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد، عقیل ابن ابی طالب وہاں رہنے لگے اور ان کے بعد محمد بن یوسف ثقفی، (حجاج کے بھائی) نے اس کو عقیل کے لڑکوں سے خرید اور اپنے گھر میں شامل کر لیا۔ گویا اس کے بعد اس کا نام شعب ابی یوسف پڑ گیا اور بعض قدیمی مورخ اس کو اسی نام سے یاد کرتے ہیں، پیغمبر اسلام کی جائے ولادت اسی خاص جگہ پر ہے اور عبد العزیز کے زمانہ میں، مکہ کے میسر نے اسے لائبریری میں تبدیل کر دیا اور ۱۳۹۹ھ میں عزمہ مکہ کی توسیع میں اسے ختم کر دیا گیا۔ (فصلائے میقات ج ۳، شمارہ ۳، ماہ بہار ۱۳۷۲، مقالہ سید علی قاضی عسکر، شعب ابی طالب کے بارے میں تحقیق، ص ۱۷۱-۱۷۹)۔

2 پہلی محرم سات بعثت (ابن سعد، طبقات الکبریٰ، ج ۱، ص ۲۰۹)۔

3 ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ۲۰۹؛ بلاذری، گزشتہ حوالہ، ص ۲۳۴-۲۳۳؛ ابن واضح، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۲۵؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ (بیروت: دار صادر)، ج ۲، ص ۸۷؛ قتال نیشاپوری، گزشتہ حوالہ، ص ۶۴-۶۳۔

4 ابن شہر آشوب، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۶۳؛ طبری، اعلام الوری (تہران: دار الکتب الاسلامیہ: ط ۳)، ص ۴۹۔

5 قتال نیشاپوری، روضۃ الواعظین، (بیروت: موسسۃ العلمیہ للطبوعات، ط ۱، ۱۴۰۶ھ)، ص ۶۳؛ ابن شہر آشوب، گزشتہ حوالہ، ص ۶۴؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ص ۵۰؛ ابن ابی الحدید، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۶۴؛ رجوع کریں: گزشتہ حوالہ، ص ۱۶۰۔

6 ابن شہر آشوب، گزشتہ حوالہ، ص ۶۵؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ۲۰۹؛ بلاذری، گزشتہ حوالہ، ص ۲۳۴؛ ابن اسحاق، گزشتہ حوالہ، ص ۵۹۔

7 طبری، گزشتہ حوالہ۔

8 مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج ۱۹، ص ۱۹؛ ابن اسحاق، گزشتہ حوالہ، ص ۱۵۹۔

بعض اوقات ابو العاص بن ربیع^۱ اور کبھی حکیم بن حزام^۲ قریش کی نظروں سے بچا کر شعب کے اندر غلہ اور راشن پہنچاتے تھے بنی ہاشم سے حضرت علیؓ راتوں کو چھپ کر شعب سے نکلتے تھے اور کھانے کا سامان فراہم کرتے تھے۔^۳

اس عرصہ میں جناب رسول خداؐ، جناب ابوطالبؓ اور جناب خدیجہ کی دولت تمام ہو گئی اور وہ تہی دست اور مشکلات میں گرفتار ہو گئے۔^۴ خاص طور سے جناب خدیجہ نے اپنی ساری دولت شعب میں پیغمبر اسلامؐ کی راہ میں خرچ کر دی۔^۵

تین سال گزرنے کے بعد جب پیغمبر اسلامؐ نے دیمکوں کے ذریعہ اس عہد نامہ کے کھا جانے کی اطلاع ابوطالبؓ کے ذریعہ قریش کو دی۔^۶ اور دوسری طرف سے عہد نامہ پر دستخط کرنے والے بعض افراد جو بنی ہاشم کی حالت زار پر رنجیدہ تھے۔^۷ وہ اس عہد سے بیزار ہو گئے اور ان کی پیش قدمی سے یہ عہد لغو ہو گیا۔^۸ اور اس طرح بنی ہاشم اپنے گھروں کی طرف پلٹ آئے۔^۹

حضرت علیؓ نے اپنے ایک خط میں معاویہ سے اس مشکل اور پُر رنج دور کا تذکرہ اس طرح سے کیا ہے:

... ”تو ہماری قوم نے ہمارے نبیؐ کو قتل کرنے اور ہماری جڑ اکھاڑ دینے کا ارادہ کر لیا اور ہمارے خلاف کتنے ہی ناپاک عزائم استوار کئے اور کون سی ناشائستہ حرکت ہو گی جس کا ہمیں نشانہ نہ بنایا ہو۔ ہمارا جینا حرام کر دیا اور خوف و ہراس کو ہمارا اوڑھنا بچھونا بنادیا اور ہمیں ایک دشوار گزار پہاڑ (کی گھاٹی) میں سر چھپانے پر مجبور کر دیا اور (آخر کار) ہمارے لئے جنگ کی آگ بھڑکادی (اس برے وقت میں) اللہ تعالیٰ نے ہم (بنی ہاشم) کو (ایسی) ہمت عطا فرمائی کہ ہم نے حریم رسالت کا بچاؤ کیا اور آپؐ کی شان حرمت پر آنچ نہ آنے دی۔ ہمارے مومن یہ خدمات ثواب کی خاطر بجالاتے تھے اور ہمارے کافر خونی قرابت کے پیش نظر حمایت کرتے تھے۔ قریش کے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے وہ ان مصائب سے بچے ہوئے تھے جن میں ہم گرفتار تھے کیونکہ کسی کی حفاظت تو باہمی معاہدہ کر رہا تھا اور کسی کا قبیلہ اس کے بچاؤ کے لئے تیار کھڑا تھا اس لئے اسے قتل ہو جانے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔^{۱۰}

1 ابن شہر آشوب، گزشتہ حوالہ، ص ۶۵؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ص ۵۱۔

2 ابن اسحاق، گزشتہ حوالہ، ص ۱۶۱؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۷۹؛ بلاذری، گزشتہ حوالہ، ص ۲۳۵؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ص ۱۹۔

3 ابن ابی الحدید، شرح نہج البلاغہ، ج ۱۳، ص ۲۵۴۔

4 ابن واضح، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۲۵؛ طبری، اعلام الوری، ص ۵۰۔

5 طبری، ابن شہر آشوب، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۶۳۔

6 ابن اسحاق، گزشتہ حوالہ، ص ۱۶۱؛ بلاذری، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۳۴؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۱۰؛ ابن شہر آشوب، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۶۵۔

7 ابن اسحاق، گزشتہ حوالہ، ص ۱۶۲، ۱۶۵، ۱۶۶؛ بلاذری، گزشتہ حوالہ، ص ۲۳۴؛ ابن ابی الحدید، گزشتہ حوالہ، ج ۱۴، ص ۵۹؛ ابن اثیر، الکامل فی التاريخ، ج ۲، ص ۸۸؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۹، ص ۱۹۔

8 بعثت کے دسویں سال میں (ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۱۰؛ گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۳۶۔

9 طبری، گزشتہ حوالہ، ص ۵۲-۵۱۔

10 نہج البلاغہ، تحقیق: صبحی صالح، مکتوب نمبر ۹۔

جناب ابوطالب اور جناب خدیجہ کی وفات

بعثت کے دسویں سال شعب سے بنی ہاشم کے نکلنے کے کچھ ہی دن بعد پہلے جناب خدیجہ اور اس کے بعد ابوطالب کی وفات ہو گئی۔¹ ان دو بڑی شخصیتوں کا اس دنیا سے اٹھ جانا جناب رسول خداؐ کے لئے بہت بڑی اور جانگداز مصیبت تھی۔² ان دو گہرے دوست اور وفادار ناصر کے رحلت کر جانے کے بعد آنحضرتؐ کے لئے مسلسل سخت اور ناگوار واقعات پیش آئے۔³ اور زندگی آپؐ پر دشوار ہو گئی۔

جناب خدیجہ کا کارنامہ

ان دو بڑی شخصیتوں کے غیر متوقع فقدان کا اثر فطری تھا اس لئے کہ اگرچہ جناب خدیجہ سطح شہر میں جناب ابوطالب جیسا دفاعی کردار نہیں ادا کر سکتی تھیں لیکن گھر کے اندر نہ تنہا پیغمبرؐ کے لئے مہربان جانثار اور دلسوز شریک حیات تھیں بلکہ اسلام کی سچی اور واقعی مددگار تھیں بلکہ مشکلات اور پریشانیوں میں رسول خداؐ کی تسکین قلب اور سکون کا باعث تھیں۔⁴

پیغمبر اسلامؐ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک جناب خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے۔⁵ اور اسلام کے سلسلے میں ان کی پیش قدمی، زحمات اور رنج و الم کو فراموش نہیں کرتے تھے۔ آپؐ نے ایک دن عائشہ سے فرمایا: ”خداوند عالم نے خدیجہ سے بہتر مجھے زوجہ نہیں دی جس وقت سب کافر تھے وہ ہم پر ایمان لائیں۔ جب سب نے مجھے جھٹلایا تو انھوں نے میری تصدیق کی اور جب دوسروں نے مجھے محروم کیا تو اس نے اپنی ساری دولت میرے لئے خرچ کر دی۔ اور خداوند عالم نے مجھے اس سے فرزند عطا کیا ہے۔“⁶

جناب ابوطالب کا کارنامہ!

جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ جناب ابوطالب نہ صرف بچپن اور نوجوانی میں محمدؐ کے سرپرست تھے بلکہ ان کی رسالت کے زمانہ میں بھی بے انتہا ان کے حامی اور پشت پناہ تھے۔ اور مشرکوں کی عداوتوں اور کارشکنیوں کے مقابل میں ایک عظیم دیوار تھے۔

ابوطالب کی حیات کے زمانے میں قریش بہت کم پیغمبرؐ کے جانی آزار و اذیت کی جرأت رکھتے تھے ایک دن بزرگان قریش میں سے کچھ لوگوں نے ایک شخص کو ورغلا یا کہ مسجد الحرام میں جا کر پیغمبرؐ کے جسم پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دے چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا جب جناب ابوطالب کو

1 بلاذری، غزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۳۶؛ ابن اشیر، غزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۹.

2 ابن واضح، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۲۹؛ پیغمبر اسلامؐ نے اس سال کا نام ”عام الحزن“ رکھا۔ (مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۹، ص ۲۵)

3 ابن اسحاق، غزشتہ حوالہ، ص ۲۴۳؛ ابن ہشام، غزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۵۷؛ طبرسی، اعلام الوری، ص ۵۳.

4 وکانت وزیرہ صدق علی الاسلام وکان لیکن الیہا۔ (ابن اسحاق، غزشتہ حوالہ، ص ۲۴۳؛ ابن ہشام، غزشتہ حوالہ.

5 امیر مہنا الخیامی، زوجات النبی واولادہ، (بیروت موسسہ عزالدین، ط ۱۴۱۱ھ) ص ۶۳-۶۲.

6 ابن عبد البر، الاستیعاب (در حاشیہ الاصابہ)، ج ۴، ص ۲۸۷؛ دولابی، غزشتہ حوالہ، ص ۵۱.

واقعہ کی خبر ملی تو آپ نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور ”حمزہ“ کے ہمراہ ان کو ڈھونڈنے کے لئے نکل پڑے اور حمزہ سے کہا کہ یہی اوجھڑی ان میں سے ہر ایک کے جسم پر مل دیں۔¹

ابوطالب کی رحلت کے بعد قریش بہت گستاخ ہو گئے تھے۔ پیغمبر اسلام پر کوڑا پھینکتے تھے۔² خود آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ ”قریش مجھے ضرر نہیں پہنچا سکے یہاں تک کہ ابوطالب کی وفات ہو گئی۔“³

ایمان ابوطالب

تمام شیعہ علماء کا عقیدہ ہے کہ ابوطالب مسلمان اور مومن تھے۔⁴ لیکن پیغمبر اسلام کی حمایت کی خاطر آپ نے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا اور چونکہ اس سماج میں خاندانی تعصب پایا جاتا تھا۔ لہذا ظاہری طور پر آپ نے آنحضرتؐ کی حمایت کی خاطر خاندان کا عنوان دیا تھا۔⁵

”ابوطالب اصحاب کھف کے مانند تھے جو اپنے ایمان کو چھپائے رہے اور ظاہر بہ شرک کرتے تھے اور خدا نے ان کو دواجر عطا کیا ہے۔“⁶

اہل سنت کے ایک گروہ نے جناب ابوطالب کے ایمان کا انکار کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ مرتے دم تک ایمان نہیں لائے اور دنیا سے کفر کی حالت میں گئے۔ لیکن ان کے اس کے دعوے کے برخلاف بے شمار دلیلیں اور شواہد موجود ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آئین اسلام اور نبوت حضرت محمدؐ پر ایمان و اعتقاد رکھتے تھے۔ اختصار کے طور پر ہم صرف دو دلیل پیش کرتے ہیں :

1 کلینی، الاصول من الکافی، (تہران: دار الکتاب الاسلامیہ، ۱۳۸۱ھ)، ج ۱، ص ۴۴۹؛ علامہ ابنی، الغدیر، ج ۷، ص ۳۹۳؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۸، ص ۱۸۷؛ رجوع کریں: الغدیر، ج ۷، ص ۳۵۹، ۳۸۸، ۳۹۳؛ تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۲۰۔

2 ابن سعد، طبقات الکبریٰ، ج ۱، ص ۲۱۱؛ طبری، تاریخ الامم والملوک، ج ۲، ص ۲۲۹؛ بیہقی، دلائل النبوة، ترجمہ، محمود مہدوی دامغانی، (تہران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۱)، ج ۲، ص ۸۰؛ ابن اثیر، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۹۱۔

3 ابن اسحاق، السیر والمغازی، ص ۲۳۹؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۵۸؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ص ۲۲۹؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج ۱، ص ۶۸؛ ابن اثیر، گزشتہ حوالہ، ص ۹۱؛ بیہقی، گزشتہ حوالہ، ص ۸۰؛ سبط ابن جوزی، تذکرۃ الخواص، (نجف: المکتبۃ الحیدریہ، ۱۳۸۳ھ)، ص ۹۔

4 شیخ مفید، اوائل المقالات (قم: مکتبۃ الداعی)، ص ۱۳؛ قتال نیشاپوری، گزشتہ حوالہ، ص ۱۵۵؛ ابن ابی الحدید، شرح نہج البلاغہ، ج ۱۲، ص ۶۵؛ طبری، مجمع البیان، ج ۳، ص ۲۸۷؛ تفسیر آیہ ۲۶ سورۃ النعام؛ علی بن طاووس، الطرائف فی معرفۃ مذاہب الطوائف (قم: مطبعۃ الخیام، ۱۴۰۰ھ)، ص ۲۹۸۔

5 طبری، گزشتہ حوالہ، ج ۷، ص ۳۶۰؛ تفسیر آیہ ۵۶ سورۃ قصص۔

6 کلینی، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۴۴۸؛ صدوق الامالی، (قم: المطبعۃ المحکمہ)، ص ۳۶۶؛ (مجلسی، ۸۹)؛ قتال نیشاپوری، گزشتہ حوالہ، ص ۱۵۶؛ علامہ ابنی، الغدیر، ج ۷، ص ۳۹۰؛ مفید، الاختصاص، (قم: منشورات جماعۃ المدر سین)، ص ۲۴۱۔

۱۔ ان کے اشعار اور اقوال: جناب ابوطالب کے بے شمار اشعار و اقوال جو ہم تک پہنچے ہیں ان میں سے بعض میں آپ نے صراحت کے ساتھ پیغمبر اسلام کی نبوت اور ان کی حقانیت کا ذکر فرمایا ہے۔^۱ اور یہ اشعار و اقوال اسلام کے سلسلہ میں ان کے ایمان اور عقیدہ کا واضح اور روشن ثبوت ہیں۔ ان کے چند اشعار نمونہ کے طور پر یہاں پیش ہیں:

تعلم ملیک الحبش ان محمداً نبی کموسى و المسیح بن مریم
أتى بالهدى مثل الذی اتیابه و کل بامر الله یمهدی و یعصم^۲

(اے حبشہ کے بادشاہ یہ جان لے کہ محمدؐ مانند موسیٰ اور مسیحؑ پیغمبر ہیں وہی نور ہدایت جسے وہ دونوں لے کر آئے تھے وہ بھی لیکر آئے ہیں اور تمام پیغمبر ان الہی خدا کے حکم سے لوگوں کی ہدایت کر کے گناہ سے روکتے ہیں)

الم تعلموا انّا وجدنا محمداً رسولاً کموسى خطّ فی اول الکتاب^۳

(کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم نے محمدؐ کو مانند موسیٰ پیغمبر پایا ہے اور اس کا نام و نشان گزشتہ آسمانی کتابوں میں ذکر ہے)

و لقد علمت ان دین محمدٍ من خیر ادیان البریہ دیناً^۴

(مجھے یقینی طور پر معلوم ہے کہ دین محمدؐ دنیا کے بہترین ادیان میں سے ہے)

۲۔ پیغمبر اسلام سے ابوطالب کی حمایتیں: پیغمبر اسلام کے لئے جناب ابوطالب کی بے انتہا پشت پناہی اور حمایتیں جو تقریباً سات سال تک بغیر کسی وقفہ اور سستی کے جاری رہیں اور اس مدت میں قریش کے مقابل میں مقاومت اور بے شمار مصائب اور مشکلات کو برداشت کرنا آپ کے ایمان اور عقیدے کے سلسلے میں دوسرا واضح ثبوت ہے۔ آپ کے ایمان کے منکر یہ تصور کرتے ہیں کہ آپ نے یہ ساری مشکلات اور پریشانیاں خاندانی جذبہ کے تحت سہیں۔ جبکہ خاندانی روابط انسان کو اس طرح کی طاقت فرما سازجتموں اور قربانیوں اور طرح طرح کے خطرات

۱ ابوطالب کے شعر کا ایک دیوان ہے جس کو ابو نعیم علی بن حمزہ بصری تمیمی لغوی (م ۷۵۷ھ ق سسیل میں) نے جمع کیا ہے اور شیخ آغا بزرگ تهرانی نے اس کا ایک نسخہ بغداد میں آل سید عیسیٰ عطار کی لائبریری میں دیکھا ہے۔ (الذریعہ، ج ۹، قسم اول، ص ۴۳-۴۲) اور اسی طرح قبیلہ بنی مہرم سے ابوہفان عبد اللہ بن احمد عبدی (جو کہ ایک شیعہ شاعر، مشہور ادیب اور بصرہ کے رہنے والے تھے) کے پاس ایک کتاب، شعر ابی طالب بن عبد المطلب و اخبارہ، کے نام سے تھی (رجال نجاشی، تحقیق: محمد جواد النائینی، بیروت، ط ۱۴۰۸ھ) ج ۲، ص ۱۶، نمبر ۵۶۸) مرحوم شیخ آغا بزرگ تهرانی نے اس کا ایک نسخہ بغداد میں آل سید عطار کی لائبریری میں دیکھا ہے جس میں پانچ سو (۵۰۰) سے زیادہ اشعار تھے اور ۱۳۵۶ھ میں نجف میں شائع ہوا۔ (الذریعہ، ج ۱۳، ص ۱۹۵) امیر المومنین علیؑ چاہتے تھے کہ ابوطالب کے اشعار نقل اور جمع اور ہوں اور آپ نے فرمایا: ”ان کو یاد کرو اور اپنی اولاد کو بھی یاد کرو“ ابوطالب دین خدا کے پیرو تھے اور ان اشعار میں بے شمار علوم پائے جاتے ہیں۔“ (الغدير، ج ۷، ص ۳۹۳)۔

۲ طبری، اعلام الوری، ص ۴۵، مجمع البیان، ج ۴، ص ۲۸۸؛ علامہ امینی، الغدير، ج ۷، ص ۳۳۱۔

۳ کلینی، معز شتہ حوالہ، ج ۱، ص ۴۲۹؛ طبری، مجمع البیان، ج ۴، ص ۲۸۷؛ ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۱، ص ۷۷؛ ابن ابی الحدید، معز شتہ حوالہ، ج ۱۳، ص ۱۸۱؛ شیخ ابوالفتح الکراچی، کنز الفوائد، تحقیق: الشیخ عبد اللہ نعمہ (قم: دار الذخائر، ط ۱۴۱۵ھ) ج ۱، ص ۱۸۱؛ امینی، الغدير، ج ۷، ص ۳۳۲۔

۴ ابن ابی الحدید، معز شتہ حوالہ، ص ۵۵؛ امینی، معز شتہ حوالہ، ص ۳۳۴؛ عسقلانی، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، (بیروت: دار احیاء التراث العربی)، ج ۴، ص ۱۱۶؛ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، (بیروت: مکتبۃ المعارف، ط ۲، ۱۹۷۷م) ج ۳، ص ۴۲۔

مول لینے پر ہرگز آمادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی قربانیوں کے لئے ہمیشہ ایمانی اور اعتقادی جذبہ ضروری ہے۔ اگر جناب ابوطالب کا جذبہ صرف خاندانی روابط تھا تو حضرت محمدؐ کے دوسرے چچاؤں نے جیسے عباس اور ابولہب نے ایسا کام کیوں نہیں کیا؟¹

محققین کے ایک گروہ کی نظر میں، بعض لوگوں نے جو کوشش کی ہے کہ جناب ابوطالب کے کفر کو ثابت کریں یہ سیاسی جذبہ اور بعض تعصبات کی بنا پر ہے کیونکہ پیغمبرؐ کے بڑے اصحاب (جو کہ بعد میں علیؑ کے سیاسی رقیب بنے) عام طور پر پہلے بت پرست تھے۔ صرف علیؑ تھے جو سابقہ بت پرستی نہیں رکھتے تھے اور بچنے سے پیغمبرؐ کے مکتب میں پرورش پائی۔ جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ علیؑ کے مقام اور مرتبہ کو کم کریں اور نیچے دکھائیں تاکہ آئندہ ان کے برابر ہو سکیں، مجبوری کی بنا پر ان کی پوری کوشش تھی کہ وہ ان کے والد بزرگوار کے کفر کو ثابت کریں تاکہ ان کا بت پرست ہونا ثابت ہو سکے۔ درحقیقت ابوطالب کا اس کے علاوہ کوئی جرم نہیں تھا کہ وہ علیؑ کے باپ تھے اگر علیؑ جیسے فرزند نہ رکھتے تو ایسے اتہامات ان پر نہ لگائے جاتے!۔

ان حق پامالیوں اور عباسی اور اموی کوششوں کو بھی، نظر انداز نہیں کرنا چاہئے کیونکہ ان میں سے کسی ایک کے جد، اس مرتبہ پر فائز نہیں ہوئے تھے۔ اور اسلام میں پہل نہیں رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ کوشش کرتے تھے کہ ان کے باپ کے کفر کو ثابت کریں تاکہ اس طریقہ سے ان کے مقام اور مرتبہ کو کم کر سکیں!۔

جو اتہام جناب ابوطالب پر لگایا گیا وہ آپ کی بہ نسبت عباس بن عبدالمطلب (پیغمبر اسلامؐ اور حضرت علیؑ کے چچا اور سلسلہ خلفاء عباسی کے جد) سے زیادہ مناسبت رکھتا تھا، کیونکہ عباس، فتح مکہ ۸ھ تک کفر کی حالت میں مکہ میں رہے اور جنگ بدر میں مشرکوں کے لشکر کے ساتھ اسیر ہوئے اور فدیہ دیکر آزاد ہوئے۔ فتح مکہ کے واقعہ پر مکہ کے راستے میں آپ لشکر اسلام تک گئے اور پھر مکہ واپس پلٹ آئے اور بہت ہی کوششوں کے بعد پیغمبرؐ سے ابوسفیان (مشرکوں کا سرغنہ) کے لئے امان لی! اس کے باوجود کسی نے نہیں کہا کہ عباس کافر تھے! کیا اس طرح کا فیصلہ ان دو لوگوں کے بارے میں فطری اور عقلی نظر آتا ہے؟ اس اعتبار سے محققین جناب ابوطالب کے کفر کے سلسلے میں پائی جانے والی حدیثوں کو جعلی سمجھتے ہیں۔²

ازواج پیغمبر اسلام

جب تک جناب خدیجہ زندہ رہیں پیغمبر اسلامؐ نے کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی³ ان کے انتقال کے بعد آنحضرتؐ نے دوسری خواتین سے شادی کی جن میں حضرت عائشہ کے علاوہ سب بیوہ تھیں۔ ان میں سے پہلی سودہ اور ان کے شوہر سکران بن عمرو حبشہ کے مہاجرین میں سے تھے جو وہاں انتقال کر گئے تھے اور وہ بغیر سرپرست کے ہو گئی تھیں۔

1 ایمان ابوطالب کے بارے میں متعدد کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ جن میں سے کچھ کا تذکرہ شیخ غازی رگ تہرانی نے اپنی کتاب الذریعہ میں، ج ۲، ص ۵۱۰ سے ۵۱۳ پر کیا ہے۔ اور مرحوم علامہ امینیؒ نے بھی کتاب الغدیر میں، ج ۷، ص ۳۳۰ سے ۴۰۳ تک تفصیلی طور پر بحث کی ہے اور انہیں کتابیں جو کہ اسلام کے جید علماء کے ذریعہ ایمان ابوطالب کے اثبات اور ان کے حسن عاقبت کے سلسلے میں لکھی گئی ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اور چالیس حدیثیں ان کے ایمان کے اثبات میں نقل کی ہیں۔ اور جلد ہشتم کے آغاز میں بھی اس سلسلے میں مخالفوں کے اعتراضات اور شبہات کا جواب دیا ہے۔

2 ڈاکٹر عباس زریاب، سیرہ رسول خداؐ (تہران: سروش، ج ۱، ص ۱۳۷)، ص ۷۸، ۷۹، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱

بعض مستشرقین نے پیغمبر اسلام کی شادیوں کے بارے میں بزدلانہ تہمتوں کو دستاویز بنا کر اس کو ہوس بازی اور شہوت پرستی سے تفسیر کیا ہے۔¹

جبکہ مسئلہ کی منصفانہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شادیاں معمولاً عام جذبہ کے تحت نہیں ہوئیں تھیں بلکہ سیاسی، سماجی اور اسلام کی مصلحتوں کے پیش نظر ہوئی تھیں ان میں سے بعض خواتین بے سرپرست اور بیوہ تھیں اور پیغمبرؐ نے ان سے شادی کر کے ان کو اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا اور بعض دوسرے بڑے خاندان یا قبائل سے تعلق رکھتی تھیں اور پیغمبرؐ کا مقصد ان قبائل یا خاندان کی حمایت حاصل کرنا تھا۔ اور بعض وقت شادی کا مقصد جاہلی رسم و رواج کو مٹانے کی خاطر تھا۔ اس مطالب کی وضاحت کے لئے کچھ قرائن اور شواہد پیش ہیں۔

۱۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ پیغمبر اسلامؐ نے پچیس سال کی عمر میں یعنی مکمل جوانی کے عالم میں جناب خدیجہ کے ساتھ شادی کی جن کی عمر بر بنائے مشہور آپ سے زیادہ تھی اور ان کے جوانی کا دور گزر چکا تھا۔ ۲۵ سال تک ان کے ساتھ زندگی گزاری۔

۲۔ جب تک جناب خدیجہ زندہ رہیں کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ جبکہ اس دور کے سماج میں متعدد ازواج کا ہونا ایک عام رسم تھی۔

۳۔ پیغمبر اسلامؐ کی بعد کی شادیاں ۵۰ سال کے بعد (ہجرت سے پہلے کم، اور ہجرت کے بعد زیادہ) ہوئی تھیں۔ ایک طرف سے پیری کا زمانہ اور دوسری طرف سے سیاسی، سماجی اور نظامی مشکلات اور پریشانیوں کے عروج کا زمانہ تھا ایسے حالات میں کیا یہ باور کیا جاسکتا ہے کہ کوئی شہوت پرستی کی فکر میں لگا ہوگا؟ کیا اصولی طور پر پیغمبرؐ مدینہ میں اس طرح کے کاموں کی فرصت رکھتے تھے؟

۴۔ کیا ایسی عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا عیش و شہوت پرستی کی خاطر تھا جو مختلف طرح کے سلیقے اور اخلاق رکھتی ہوں اور ان میں سے بعض نے اپنے برے اخلاق و اطوار اور زنانہ حسادت کی وجہ سے پیغمبرؐ کو رنجیدہ اور ملول کیا ہو۔²

۵۔ پیغمبر اسلامؐ کی ازواج میں سے ہر ایک، الگ الگ قبیلہ سے تعلق رکھتی تھیں اور ان میں آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ کیا پیغمبرؐ کا مختلف قبائل سے تعلق رکھنا اتفاقی مسئلہ تھا؟

۶۔ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد اسلام وہاں تیزی سے پھیلنے لگا تھا اور لوگوں کے دلوں میں پیغمبرؐ کے معنوی نفوذ کے علاوہ آپ کی اجتماعی اور سیاسی قدرت بھی زیادہ ہو گئی تھی لہذا قبائل عرب کے رؤسا اپنے لئے افتخار سمجھتے تھے کہ پیغمبرؐ ان کی لڑکی سے شادی کریں لیکن آنحضرتؐ نے جن خواتین کو شادی کے لئے چنا تھا وہ عموماً ضعیف اور بیوہ اور لاوارث تھیں جبکہ خود آنحضرتؐ مردوں کو کنواری لڑکیوں سے شادی کرنے کے لئے تشویق کرتے تھے۔ ہم یہاں پر پیغمبرؐ کی ازواج میں سے چند کا تذکرہ بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔

ام حبیبہ: وہ اسلام کے کٹر دشمن ابوسفیان کی لڑکی تھیں وہ اپنے شوہر عبید اللہ بن جحش (رسول خداؐ کی پھوپھی کے لڑکے) کے ساتھ حبشہ چلی گئیں تھیں۔ عبید اللہ وہاں جا کر مرتد اور مسیحی ہو گئے اور شراب نوشی میں افراط کی وجہ سے کفر کی حالت میں دنیا سے گئے۔³

1 محمد حسین ہیکل، حیات محمدؐ (قاہرہ: مکتبۃ النہضۃ المصریہ، ط ۸، ۱۹۶۳ء)، ص ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۲۵۔

2 اس بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لئے سورہ تحریم کی آیت اسے ۵ تک مراجعہ کریں۔

3 محمد بن سعد، طبقات الکبریٰ، (بیروت: دار صادر)، ج ۷، ص ۹۷؛ شیخ عباس قمی، سفینۃ البحار، ج ۱، لفظ حب، ص ۲۰۴۔

جب پیغمبر اسلام کو اس واقعہ کی خبر ملی تو آپ نے ۶ھ میں عمرو بن امیہ ضمیری کو حبشہ نجاشی کے پاس بھیجا اور ان سے درخواست کی کہ ام حبیبہ کا عقد ان سے کر دیا جائے۔ نجاشی نے ام حبیبہ کی شادی پیغمبر سے کر دی۔ اس کے بعد وہ ایک سال تک حبشہ میں رہیں اور ۸ھ میں مہاجرین کے آخری گروہ کے ساتھ مدینہ پلٹ آئیں۔² اس وقت ان کی عمر ۳۰ سے ۴۰ سال کے بیچ تھی۔³

ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام کا یہ اقدام اس نو مسلم خاتون سے دلجوئی کی خاطر تھا۔ کیونکہ وہ اپنے باپ اور خاندان والوں سے الگ ہو کر اپنے مسلمان شوہر کے ساتھ حبشہ چلی گئی تھیں اور پھر عالم غربت میں شوہر کا سایہ بھی اٹھ گیا تھا لہذا ان کے ساتھ اس سے بہتر کیا اقدام ہو سکتا تھا کہ انھیں پیغمبر کی زوجہ ہونے کا شرف ملے؟

جن اسباب کا دعویٰ مستحکم مورخین نے کیا ہے اگر اس کو فرض کر لیا جائے تو یہ کس طرح سے معقول ہو گا کہ ایک شخص ایسی خاتون سے شادی کرے جو دوسرے ملک میں رہ رہی ہو اور اس کے پلٹنے کی کوئی امید نہ ہو؟!

۲۔ ام سلمہ : ام سلمہ (ہند) ابی امیہ مخزومی کی لڑکی تھیں ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ (عبداللہ) مخزومی⁴ رسول خدا کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔⁵ ان سے چار لڑکے ہوئے جن میں سے ایک کا نام سلمہ تھا اسی کی مناسبت سے انھیں ”ام سلمہ“ اور ”ابو سلمہ“ کہا جانے لگا۔⁶

ابو سلمہ جنگ احد میں زخمی ہوئے اور اسی زخم کے اثر سے جمادی الثانی ۳ھ میں شہادت کے درجے پر فائز ہوئے گویا ام سلمہ اور ان کے شوہر (بنی مخزوم) کے قبیلہ اور خاندان سے مدینہ میں کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ اس لئے کہ وہ کہتی ہیں کہ جس وقت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں بہت غمگین ہوئی اور اپنے آپ سے کہا: عالم غربت میں! میں اس طرح سے گریہ کروں گی کہ ہر جگہ میرے گریہ کا ند کرہ ہو گا۔⁸

پیغمبر اسلام نے ۴ھ میں ان سے شادی کی⁹ اس وقت وہ بڑھاپے اور ضعیفی کی منزلوں میں قدم رکھ چکی تھیں۔¹⁰ اور ان کا سب سے چھوٹا بچہ شیر خوار تھا۔¹¹

واضح رہے کہ پیغمبر اسلام کا اس شادی سے مقصد یہ تھا کہ اس کی اور اس کے یتیم بچوں کی سرپرستی کر سکیں۔ کیا ایک بیوہ اور سن رسیدہ خاتون سے شادی کرنا اور اس کے چار یتیم بچوں کی کفالت اور نگہداشت کرنا اپنی جگہ پر ایک ریاضت نہ تھی؟!

1 ابن اثیر، اسد الغابہ، ج ۵، ص ۴۵۸؛ مسعودی، مروج الذهب، (بیروت: دار الاندلس)، ج ۲، ص ۲۸۹؛ حمد اللہ متوفی، تاریخ خلاصہ تاریخ، بہ اہتمام عبدالحسین نوالی (تہران: امیر کبیر ۱۳۶۲)، ص ۱۶۱۔

2 ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ج ۴، ص ۱۴۴؛ حمد اللہ مستوفی، گزشتہ حوالہ، ص ۱۶۱۔

3 ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ۹۹؛ شیخ عباس قمی، گزشتہ حوالہ، ص ۲۰۴۔

4 عسقلانی، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ج ۴، ص ۴۵۸؛ ابن اثیر، اسد الغابہ، ج ۵، ص ۵۸۸۔

5 ابن اثیر، گزشتہ حوالہ، ص ۲۱۸۔

6 گزشتہ حوالہ، ص ۵۸۸؛ ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۴، ص ۲۹۴؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج ۵، ص ۵۸۸۔

7 ابن عبد البر، الاستیعاب، ج ۴، ص ۸۲۔

8 امیر مہنا النبی، زوجات النبی او اولادہ (بیروت: موسسہ عزالدین ط ۱۴۱۱ھ)، ص ۱۹۹۔

9 ابن حجر، گزشتہ حوالہ، ص ۴۵۸؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج ۸، ص ۸۷۔

10 ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ۹۰؛ محمد بن حبیب، المحبر (بیروت: دار الافاق الجدیدہ)، ص ۸۴۔

11 ابن حجر، گزشتہ حوالہ، ص ۴۵۸؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ۹۱۔

ام سلمہ زہد و تقویٰ اور فضیلت کے لحاظ سے حضرت خدیجہ کے بعد رسول خدا کی ازواج میں سے سرفہرست تھیں¹ انھیں خاندان امامت سے خاص تعلق اور انسیت تھی اور وہ بارہا خاندان اہل بیت کی طرف سے علوم و اسرار ولایت کی امانتوں کی محافظ رہی ہیں۔²

۳۔ زینب بنت جحش: زینب، رسول خدا کی پھوپھی کی لڑکی تھیں اور اس سے قبل (پیغمبر کے منہ بولے بیٹے) زید بن حارثہ کی زوجہ تھیں۔³ اور زید سے جدائی کے بعد پیغمبر کے عقد میں آگئیں۔

زید پہلے حضرت خدیجہ کے غلام تھے انھوں نے حضرت محمدؐ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد زید کو اپنے شوہر حضرت محمدؐ کے حوالے کر دیا۔ آنحضرتؐ نے بعثت سے قبل اس کو آزاد کر دیا اور پھر اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا۔ اس دن سے اس کو ”زید بن محمدؐ“ کہا جانے لگا۔⁴

بعثت کے بعد خداوند عالم نے منہ بولے بیٹے کی رسم کو باطل اور بے اعتبار قرار دیا۔

”اللہ نے نہ تمہاری منہ بولی اولاد کو اولاد قرار نہیں دیا یہ سب تمہاری زبانی باتیں ہیں اور اللہ تو صرف حق کی بات کہتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔“

ان بچوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو کہ یہی خدا کی نظر میں انصاف سے قریب تر ہے اور اگر ان کے باپ کو نہیں جانتے ہو تو یہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں اور تمہارے لئے اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے جو تم سے غلطی ہو گئی ہے۔ البتہ تم اس بات کے ضرور ذمہ دار ہو جو تمہارے دلوں نے قصد انجام دیا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔⁵

پیغمبر اسلامؐ نے ان آیات کے نزول کے بعد زید سے فرمایا: تم زید بن حارثہ ہو اور اس دن سے وہ پیغمبر کا آزاد کردہ (مولیٰ رسول اللہ) کہا جانے لگا۔⁶

رسول خداؐ نے اس سے زینب کی شادی کرنا چاہی۔ زینب جو کہ عبدالمطلب کی نواسی اور جن کا تعلق قریش کے مشہور قبیلہ سے تھا پہلے راضی نہیں ہوئیں کیونکہ زید نہ صرف قریش سے تعلق نہیں رکھتے تھے بلکہ ایک آزاد شدہ غلام تھے لیکن چونکہ پیغمبر اسلامؐ نے اس کی شادی کے بارے میں زیادہ تاکید فرمائی لہذا زینب راضی ہو گئیں یہ شادی نسلی اور طبقاتی امتیازات کے خاتمہ کا ایک نمونہ تھی اور پیغمبرؐ کے اصرار کا راز بھی یہی تھا۔

طرفین میں بدسلوکی اور بد خلقی کی وجہ سے کچھ دن میں اس جوڑے کی مشترک زندگی کی بنیادیں ہلنے لگیں اور جدائی کے قریب پہنچ گئیں۔ چند مرتبہ زید نے چاہا کہ اس کو طلاق دیدیں لیکن پیغمبرؐ نے اس سے مصالحت کرنے کے لئے کہا اور فرمایا: اپنی زوجہ کو رکھو!۔⁷

1 مامقانی، تنقیح المقال، ج ۳، (فصل النساء)، ص ۷۲۔

2 مامقانی، غزشتہ حوالہ، شیخ محمد تقی التستری، قاموس الرجال (تہران: مرکز نشر الکتاب، ۱۳۷۹ھ)، ج ۱۰، ص ۳۹۶۔

3 ابن سعد، غزشتہ حوالہ، ج ۸، ص ۱۰۱؛ ابن اثیر، اسد الغابہ، ج ۲، ص ۲۲۶؛ ابن حجر، الاصابہ، ج ۴، ص ۵۶۳۔

4 ابن سعد، غزشتہ حوالہ، ابن اثیر، غزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۲۲۴؛ ابن حجر، غزشتہ حوالہ، ص ۵۶۳۔

5 سورۃ احزاب، آیت ۴، ۵۔

6 آلوسی، تفسیر روح المعانی، (بیروت: دار احیاء التراث العربی)، ج ۲۱، ص ۱۷۔

7 ابن سعد، غزشتہ حوالہ، ج ۸، ص ۱۰۳۔

آخر کار زید نے اس کو طلاق دیدی، جدائی کے بعد پیغمبر اسلام خدا کی طرف سے مامور ہوئے کہ زینب کے ساتھ شادی کریں تاکہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ کے ساتھ شادی کرنا مسلمانوں کے لئے دشوار نہ ہو اور غلط رسم و رواج جو کہ زمانہ جاہلیت سے لوگوں کے درمیان رائج تھا۔ عملی طور سے اسے ختم کر دیں۔ کیونکہ عرب منہ بولے بیٹے کو ہر لحاظ سے اپنا واقعی بیٹا سمجھتے تھے۔ لہذا اس کی زوجہ کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں جانتے تھے قرآن مجید نے اس شادی کے مقصد اور سبب کو اس طرح سے بیان کیا ہے :

”اور اس وقت کو یاد کرو جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے بھی نعمت نازل کی اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی زوجہ کو روک کر رکھو، اور اللہ سے ڈرو اور تم اپنے دل میں اس بات کو چھپائے ہوئے تھے جسے خدا ظاہر کرنے والا تھا¹ اور تمہیں لوگوں کے طعنوں کا خوف تھا حالانکہ خدا زیادہ حق دار ہے کہ اس سے ڈرا جائے اس کے بعد جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس عورت کا عقد تم سے کر دیا تاکہ مومنین کے لئے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے عقد کرنے میں کوئی حرج نہ رہے جب وہ لوگ اپنی ضرورت پوری کر چکیں اور اللہ کا حکم بہر حال نافذ ہو کر رہتا ہے“²

منافقوں نے پیغمبر پر تہمت اور بدگوئی کے لئے اس شادی کو دلیل اور بہانہ بنایا کہ محمدؐ نے اپنے لڑکے کی زوجہ (بہو) کے ساتھ شادی کی ہے۔³

خداوند عالم ان کے جواب میں فرماتا ہے :

”محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور سلسلہ انبیاء کے خاتم ہیں اور اللہ ہر شی کو خوب جاننے والا ہے۔“⁴

1 مفسروں کے عقیدہ کے مطابق جو کچھ پیغمبرؐ کے دل میں تھا وہ یہ تھا کہ خداوند عالم نے ان کو باخبر کر دیا تھا کہ زید اپنی زوجہ کو طلاق دے گا اور وہ اس کے ساتھ شادی کریں گے تاکہ اس جاہلانہ رسم کو توڑیں لیکن پیغمبر اسلامؐ نے لوگوں کے ڈر سے اس کا اظہار نہیں کیا۔ یہ مطلب چوتھے امام سے نقل ہوا ہے (آلوسی ہگزشتہ حوالہ، ج ۲۲، ص ۲۴؛ طبرسی، مجمع البیان، ج ۸، ص ۳۶۰)۔

2 سورہ احزاب، آیت ۳۷۔

3 ابن اثیر ہگزشتہ حوالہ، ج ۷، ص ۴۹۴؛ طبرسی، مجمع البیان، ج ۸، ص ۳۳۸؛ قسطلانی، المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ، تحقیق: صالح احمد الشامی، (بیروت: المکتبہ الاسلامیہ، ۱۴۱۲ھ) ج ۲، ص ۸۷۔

4 سورہ احزاب، آیت ۴۰۔

بعض مسیحی مورخین نے اس شادی کو ایک عشقیہ داستان کی صورت میں پیش کیا ہے اور اس کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے۔¹ لیکن ان کا یہ دعوا، پیغمبر اسلام کی نبوت اور عصمت کی شان کے مطابق نہیں ہے اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ مسئلہ کچھ اور تھا جو تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے اور قرآن نے بھی اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔

ایسا لگتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی ازواج میں سے ان چند کا تذکرہ آنحضرتؐ کے متعدد ازواج کے ہونے کے مقصد کو واضح کر دیتا ہے اور بقیہ کے حالات بھی تقریباً انھیں کے مثل ہیں لہذا ان کے تذکرہ کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے۔

قرآن کی جاذبیت

پیغمبر اسلام لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے میں بہت کم اپنی طرف سے کچھ کہتے تھے۔ ان کی دعوت کا بہترین وسیلہ قرآن کی آیات ہوا کرتی تھیں جو عربوں کی سماعتوں کو سحر انگیز کشش میں بدل دیتی تھیں۔

حضرت محمدؐ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے جو فصاحت و بلاغت، الفاظ و کلمات، جملوں کی ترکیب، انتخاب الفاظ اور آیات قرآن کی ایک خاص صدا کے لحاظ سے معجزہ ہے جس میں بے انتہا زیبائی، دلکشی اور جذباتیت پائی جاتی ہے کہ جس کا مثل پیش کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید ”چیلنج“ کرتا ہے اور منکروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو اس کے ایک سورہ کا جواب لے آؤ۔²

حجاز کے عرب، شاعر اور شعر شناس تھے، قرآن کی آیات کی فصاحت و بلاغت اور زیبائی کو دیکھ کر وہ اس کے شیدائی اور اس میں مجذوب ہو جاتے تھے۔ وحی کے کلمات، ان کی سماعتوں میں دلکش نغموں اور دلنشین صداؤں سے زیادہ، لذت بخش محسوس ہوتے تھے اور کبھی تو شدت تاثیر سے قرآن کی آیات ان کے وجود کی تہوں تک اس قدر نفوذ کر جاتی تھیں کہ کافی دیر تک اپنی جگہ پر لذت و کشش میں غرق کھڑے رہتے تھے!۔

1 دائرۃ المعارف الاسلامیہ، عربی ترجمہ احمد السنتناوی (اور اس کے معاونین)، ج ۱۱، ص ۲۹، کلر زینب؛ محمد حسین ہیکل، حیات محمدؐ، ص ۳۲۳-۳۱۶۔ مغربی مورخین کے کہنے کے مطابق پیغمبر اسلام ایک دن زید کے گھر گئے اور وہاں اچانک ان کی نظر زینب پر پڑی اور وہ اس کے حسن و خوبصورتی کے عاشق ہو گئے جب زید کو اس بات کی خبر لگی تو اس نے زینب کو طلاق دیدی! اور... جبکہ زینب پیغمبرؐ کے رشتہ داروں میں سے تھی اور حجاب اس زمانہ میں معمول نہیں تھا اور وہ پیغمبرؐ کے لئے کوئی نئی فرد نہیں تھیں۔ عام طور سے ایک خاندان کے لوگ ایک دوسرے سے آگاہ رہتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد دہانی کرانی چاہئے کہ اس طرح کے کچھ واقعات جو مغربی مورخین کے سوء استفادہ کا باعث بنے ہیں وہ غیر معتبر اور بے بنیاد روایتوں سے ماخوذ ہیں جو بعض تاریخ اسلام (جیسے تاریخ طبری، ج ۲، ص ۴۲، طبقات الکبریٰ، ج ۸، ص ۱۰۱) میں نقل ہوئے ہیں اور دوسرے مؤلفین نے بھی بغیر توجہ کے ان سے نقل کیا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ قرآن نے بھی اس واقعہ کو وضاحت کے ساتھ دوسرے انداز میں بیان کیا ہے اور علمائے اسلام نے بھی ان روایات کو غیر قابل قبول قرار دیا ہے ان میں سے سید مرتضیٰ علم الہدی، شیعوں کے نامور عالم دین (م: ۱۳۳۶ھ) نے اس روایت کو ”روایت خبیثہ“ کہا ہے۔ (تذریۃ الانبیاء، ص ۱۱۴) اور آلوسی بغدادی نے اس کو واقعہ نگاروں کی ناقابل قبول بات کہی اور شارح موافق سے نقل ہوا ہے اس نے کہا ہے کہ پیغمبرؐ کو اس ناروا نسبت سے مبرا سمجھنا چاہئے (روح المعانی، ج ۲۲، ص ۲۵-۲۴)

2 سورہ بقرہ، آیت ۲۳۔

ایک شب قریش کے کچھ سردار جیسے ابوسفیان اور ابو جہل ایک دوسرے سے بے خبر حضرت محمدؐ کے گھر کے اطراف میں چھپ گئے اور صبح تک قرآن کی آیات کو سنتے رہے جو آپ نماز شب میں تلاوت فرماتے تھے اور صبح سویرے پلٹتے وقت جب ایک نے دوسرے کو دیکھا تو ایک دوسرے کی ملامت کرنے لگے اور کہا: پھر ایسی حرکت نہیں کریں گے کیونکہ اگر امتوں نے ہمیں دیکھ لیا تو ہمارے بارے میں کچھ اور سوچیں گے (سوچیں گے کہ ہم مسلمان ہو گئے) لیکن اس کے باوجود یہ حرکت کئی دوسری راتوں میں پھر انجام دی اور ہر مرتبہ یہ طے کرتے تھے کہ دوبارہ اس طرح کی بے احتیاطیاں نہیں کریں گے۔¹

جادو گری کا الزام

حج کا موسم پیغمبر اسلامؐ کی تبلیغ اور دعوت کے لئے مناسب موقع ہوا کرتا تھا کیونکہ عرب کے مختلف قبیلوں کے لوگ اعمال حج بجالانے کے لئے مکہ میں آیا کرتے تھے، لہذا اس موقع پر حضرت محمدؐ کے لئے صدائے توحید کو جزیرۃ العرب کے تمام رہنے والوں تک پہنچانا آسان کام تھا۔ لہذا اس لحاظ سے حج کا موسم سرداران قریش کے لئے خطرناک بن گیا تھا اور وہ اس سے خوف زدہ رہتے تھے لہذا موسم حج کے شروع ہوتے ہی بزرگان قریش کا ایک گروہ، ولید بن مغیرہ (جو کہ ایک سن رسیدہ شخص اور قبیلہ بنی مخزوم کا سردار تھا) کے پاس جمع ہوا، اس نے کہا کہ حج کا موسم آگیا ہے لوگ ہر طرف سے تمہارے شہر میں آرہے ہیں اور انہوں نے محمدؐ کے بارے میں سن رکھا ہے۔ لہذا تم سب اس کے بارے میں ایک ہی بات کہو، مختلف باتیں کہہ کر ایک دوسرے کو جھٹلاؤ نہیں۔

ان لوگوں نے کہا: جو کچھ تم کہو وہی ہم بھی کہیں گے۔

اس نے کہا: تم لوگ کہو، میں سنتا ہوں۔

ہم اسے کاہن کہیں گے۔

نہیں، خدا کی قسم وہ کاہن نہیں ہے ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے وہ نہ کاہنوں کی طرح پڑھتا ہے اور نہ مسیح کلام کرتا ہے۔

ہم اسے دیوانہ کہیں گے۔

نہیں وہ دیوانہ بھی نہیں ہے۔ ہم نے دیوانگی کو دیکھا ہے اور اس کے آثار کو بھی جانتے ہیں نہ اس کا جسم غیر ارادی طور پر لرزتا ہے اور نہ ہی دیو اس میں وسوسہ کرتا ہے۔

ہم اسے شاعر کہیں!

شاعر بھی نہیں ہے۔ ہم شعر کی قسموں کو پہچانتے ہیں جو وہ کہتا ہے وہ شعر نہیں ہے۔

ہم اسے ساحر اور جادو گر کہیں۔

1 ابن ہشام، 'الشیخۃ النبویہ'، ج ۱، ص ۳۳۔

نہیں وہ ساحر بھی نہیں ہے۔ ہم نے ساحروں کے سحر کو دیکھا ہے کہ کس طرح وہ رسیوں کو پھونکتے اور ان کو گرہ لگاتے ہیں۔! اس کا کام سحر نہیں ہے۔

پھر ہم اسے کیا کہیں؟

خدا کی قسم اس کا کلام شیریں اور دلنشین ہے اور اس کا درخت شاداب اور اس کی ٹہنیاں پر ثمر ہیں اس طرح کی جتنی باتیں اس کے بارے میں کہو گے، اس کا غلط ہونا واضح ہو جائے گا۔ لہذا تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ ہم اسے جادو گر کہیں۔ کیونکہ وہ اپنے سحر آمیز کلمات کے ذریعہ باپ بیٹے، بھائی بھائی، عورت مرد اور ایک قبیلہ کے افراد میں جدائی ڈال دیتا ہے۔!

لہذا قریش کے سردار، اس ارادہ سے متفرق ہو گئے اور اس دن سے حاجیوں کے راستے میں بیٹھتے تھے اور ان کو ہوشیار کرتے تھے کہ رسول خدا سے ملاقات نہ کریں۔¹

قریش کی اعلیٰ کمیٹی نے رسول کے جس کلام کو ”جادو“ کہا وہ قرآن مجید کی دلنشین آیات تھیں کہ جس کو سننے کے بعد ہر شخص متاثر ہو جاتا تھا اور اس کو قرآن کا گرویدہ اور عاشق بنا دیتا تھا۔ قرآن کی آیات سننے پر پابندی اس حد تک لگائی کہ قریش کے سردار، بڑی شخصیتوں سے جیسے اسعد بن زرارہ جو کہ مدینہ سے مکہ آیا ہوا تھا اس سے جا کر کہا کہ طواف کے وقت اپنے کان میں روئی لگالیں تاکہ محمد کے سحر کے خطرہ سے محفوظ رہیں!!²

طائف کا تبلیغی سفر

طائف مکہ سے ۱۲ فرسخ (تقریباً ۷۲ کلومیٹر) کے فاصلہ پر واقع ہے یہ علاقہ اور یہاں کی آب و ہوا بہترین اور موسم خوش گوار ہے۔ اس زمانہ میں طائف کے باغوں کے انگور مشہور تھے۔³

قریش کے بعض ثروتمندوں کے باغ اور زمینیں وہاں تھیں۔ خود طائف کے لوگ بھی دولت مند تھے اور رباخوری میں مشہور تھے اور طائف میں اس وقت ایک قدرت مند قبیلہ ”ثقیف“ رہا کرتا تھا۔

جناب خدیجہ اور جناب ابوطالب کی رحلت کے بعد قریش کی جانب سے حضرت محمد پر دباؤ اور اذیتیں بڑھ گئیں اور مکہ میں تبلیغی کام دشوار ہو گیا اور دوسری طرف سے یہ بھی ضروری تھا کہ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کا کام نہ رکے، لہذا پیغمبر نے ارادہ کیا کہ طائف جائیں

1 ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ۲۸۹-۲۸۸.

2 طبری، اعلام الوری، ص ۵۶.

3 یاقوت حموی، معجم البلدان، ج ۴، ص ۹.

اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں، شاید وہاں پر ان کا کوئی ناصر و مددگار پیدا ہو جائے اس سفر میں زید ابن حارثہ¹ اور حضرت علیؓ آپ کے ساتھ تھے۔

آنحضرتؐ نے طائف میں قبیلہ ثقیف کے تین افراد سے، جن میں ایک کی زوجہ، قبیلہ قریش ”خاندان بنی جمح“³ سے تھی ملاقات کی اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دی اور ان سے مدد چاہی۔ لیکن انھوں نے آپ کی بات قبول نہیں کی اور آپ کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے۔ پیغمبرؐ نے ان سے درخواست کی کہ وہ اس بات کو چھپالیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز مکہ تک پہنچ جائے اور قریش کی دشمنیاں اور گستاخیاں ہم سے زیادہ نہ بڑھ جائیں۔ لیکن ان لوگوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔

رسول خداؐ دوسرے بزرگان طائف کے پاس بھی گئے لیکن ان لوگوں نے بھی آپ کی بات قبول نہیں کی اور اپنے جوانوں کے بارے میں ڈرے کہ کہیں وہ نئے دین کے گرویدہ نہ ہو جائیں۔⁴

طائف کے بزرگوں نے، اوباشوں کمینوں پست لوگوں اور غلاموں کو ورغلا یا اور ان لوگوں نے آنحضرتؐ کا ہلڑ، ہنگامہ اور گالم گلوچ کرتے ہوئے پیچھا کیا اور آنحضرتؐ پر پتھر برسائے جس سے پیغمبرؐ کے دونوں پیر اور زید کا سر زخمی ہو گیا۔

پیغمبرؐ ایک انگور کے باغ میں جو عتبہ اور شیبہ (قریش کے سرمایہ دار) کا تھا وہاں چلے گئے اور ایک انگور کے درخت کے سایہ میں پناہ لی اور وہاں بیٹھ کر خدا سے مناجات کی۔

عتبہ اور شیبہ جو انگور کے باغ کے اندر سے آنحضرتؐ کے تعاقب اور اذیت کا منظر دیکھ رہے تھے ان کو آنحضرتؐ کی حالت زار پر ترس آیا۔ لہذا کچھ انگور اپنے مسیحی غلام ”عداس“ (جو کہ نبیؐ کا رہنے والا تھا) کے ذریعہ آنحضرتؐ کے پاس بھیجا۔

پیغمبرؐ نے اس کو نوش فرماتے وقت ”بسم اللہ“ کہی یہ دیکھ کر ”عداس“ کے اندر تحقیق و جستجو کا جذبہ بھڑک اٹھا۔ اور پھر اس نے آنحضرتؐ سے مختصر گفتگو کے بعد کہ جس میں آپ نے اپنی رسالت کا تذکرہ کیا۔ آپ کے قدموں پر گر پڑا اور آپ کے ہاتھ پیر اور سر کا بوسہ لینے لگا⁵ اور مسلمان ہو گیا۔⁶

1 طبری، تاریخ الامم والملوک (بیروت: دار القاموس الحدیث) ج ۲، ص ۲۳۰؛ بلاذری، انساب الاشراف۔ تحقیق: محمد حمید اللہ (قاہرہ: دار المعارف) ج ۱، ص ۲۳۷۔

2 ابن ابی الحدید، شرح نہج البلاغہ، تحقیق: محمد ابو الفضل ابراہیم، (قاہرہ: دار احیاء الکتب العربیہ، ۱۹۶۱ء) ج ۱۲، ص ۹۷ و ج ۴، ص ۱۲۸-۱۲۷؛ مدائنی کی نقل کے مطابق۔

3 طبری، گزشتہ حوالہ، ص ۲۳۰؛ ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۲، ص ۶۰۔

4 ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ۲۱۲۔

5 طبری، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۲۳۰؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۶۲۔

6 ابن واضح، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۳۰۔

پیغمبر اسلام دس دن طائف میں¹ رہنے کے بعد ثقیف کی عدم حمایت اور ان کے اسلام نہ قبول کرنے پر مایوس ہو کر دوبارہ مکہ واپس آ گئے۔

کیا پیغمبر نے کسی سے پناہ مانگی؟

کہا جاتا ہے کہ آنحضرتؐ نے مکہ میں دوبارہ پلٹنے کے بعد مطعم بن عدی سے پناہ مانگی اور اس کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے لیکن اس سلسلے میں جو قرائن اور شواہد ملتے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد یہ بات بالکل بعید نظر آتی ہے۔ ان میں سے کچھ شواہد یہ ہیں:

۱۔ یہ بات کس طرح سے قبول کی جاسکتی ہے کہ پیغمبر اسلامؐ نے دس سال تبلیغ و دعوت اور بت پرستوں سے مقابلہ کرنے کے بعد پناہدگی کی ذلت و خواری کو قبول کیا ہو؟ جبکہ اپنی ساری عمر میں کسی کے احسان مند نہیں ہوئے۔

۲۔ اگرچہ جناب ابوطالبؓ اس وقت دنیا سے رحلت فرما گئے تھے لیکن بقیہ بنی ہاشم وہاں موجود تھے اور ان کے درمیان بہادر افراد جیسے جناب حمزہؓ موجود تھے جن سے قریش کو ڈر تھا کہ کہیں وہ انتقام نہ لیں جیسا کہ شب ہجرت کے واقعہ میں بھی سردار ان قریش نے پیغمبرؐ کے قتل کی سازش میں بنی ہاشم کے خون خواہی اور انتقام کے خوف سے چند قبیلوں کو اپنے ساتھ کر لیا تھا۔

۳۔ بعض تاریخی کتابوں میں نقل ہوا ہے کہ زیدؓ آنحضرتؐ کے ہمراہ تھے اور بعض مورخین کی نقل کے مطابق حضرت علیؓ بھی آپ کے ہمراہ تھے (اصولی طور پر یہ بعید ہے کہ حضرت علیؓ ایسے سفر میں پیغمبرؐ کے ہمراہ نہ رہے ہوں) لہذا تین افراد کا ایک گروہ موجود تھا جو اپنا دفاع کر سکتا تھا۔ لہذا پناہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔

۴۔ پیغمبر اسلامؐ عرب کے بہادروں میں سے تھے لہذا ان کو ایک کمزور اور ضعیف انسان نہیں سمجھنا چاہئے کہ جو بھی چاہے انھیں ضرر پہنچا دے۔ جیسا کہ حضرت علیؓ نے میدان جنگ میں ان کی شجاعت کی تعریف اس طرح کی ہے:

”جس وقت جنگ کی آگ شدید شعلہ ور ہوتی تھی تو ہم رسول خداؐ کے پاس پناہ مانگتے تھے اور اس وقت ہم میں سے کوئی بھی ان سے زیادہ دشمن سے نزدیک نہیں ہوتا تھا“²۔

۵۔ پیغمبر اسلامؐ نے قبیلہ جاتی نظام سے جو کہ بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں کی جڑ تھی ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ آنحضرتؐ پناہدگی کی رسم جو کہ قبیلہ جاتی نظام کا ایک حصہ تھی اس کا سہارا لیتے اور اس کی تائید فرماتے۔

1 ابن سعد، مغازی، ج ۱، ص ۲۱۲؛ ابن ابی الحدید، مغازی، ج ۱، ص ۹۱؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۹، ص ۲۲؛ طائف میں پیغمبرؐ کے قیام کی مدت اس سے بھی زیادہ لکھی گئی ہے۔

2 کنا اذا احمر البأس اتقینا برسول اللہ فلم یکن احد منا اقرب الی العدو منه (نہج البلاغہ، تحقیق: صبحی صالح، ص ۵۳۰؛ غریب کلامہ، نمبر ۹۰)۔

۶۔ بلاذری^۱ اور ابن سعد^۲ کی خبر میں بیان ہوا ہے کہ آنحضرتؐ کا طائف کی طرف سفر شوال کے آخری دنوں میں ہوا تھا اگر اس خبر کو صحیح مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پیغمبر اسلامؐ کا طائف میں قیام اور پھر مکہ واپسی، حرام مہینے میں ہوئی تھی اور حرام مہینوں میں عام طور سے لڑائی جھگڑا اور خون ریزی بند ہو جاتی تھی اسی بنا پر آنحضرتؐ کو کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا تا کہ پناہندگی کا مسئلہ پیدا ہوتا۔

ان قرآن کو دیکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ آنحضرتؐ طائف سے واپس ہونے کے بعد (کہتے ہیں کہ ایک شب آپؐ نے ”نخلہ“^۳ میں قیام کیا اور وہاں جنّات کے ایک گروہ نے قرآن کی آیات کو سنا) ”وادی نخلہ کے راستے سے مکہ آگئے۔“^۵

عرب قبائل کو اسلام کی دعوت

پیغمبر اسلامؐ نے مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والے قبائل عرب کو اسلام کی طرف دعوت دی جیسا کہ آپؐ کلب، بنی حنیفہ اور بنی عامر بن صعصعہ، قبیلے کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ ابولہب بھی آپؐ کے پیچھے گیا اور لوگوں کو آپؐ کی پیروی کرنے سے منع کیا۔^۶

جس وقت پیغمبر اسلامؐ نے بنی عامر سے گفتگو کی، ان کے بزرگوں میں سے ایک شخص جس کا نام بحیرہ بن فراس تھا، اس نے کہا: ”اگر ہم آپؐ کی بیعت کریں اور دعوت کو قبول کریں اور خدا آپؐ کو آپ کے دشمنوں پر کامیاب کرے تو کیا آپؐ وعدہ کرتے ہیں کہ آپؐ کا جانشین ہم میں سے ہوگا؟“

آنحضرتؐ نے فرمایا: ”یہ کام خدا سے مربوط ہے وہ اس امر کو جہاں چاہے گا وہاں قرار دے گا۔“^۷

اس نے تعجب اور انکار کے عالم میں جواب دیا: ہم آپؐ کی راہ میں قبائل عرب سے مقابلہ کریں اور آپؐ سینہ سپر بنیں اور جب خدا آپؐ کو کامیاب کر دے تو مسئلہ دوسرے کے ہاتھ میں چلا جائے؟ ہم کو آپؐ کے دین کی ضرورت نہیں ہے۔^۸

1 انسب الاشراف، ج ۱، ص ۲۳۷۔

2 طبقات الکبریٰ، ج ۱، ص ۲۱۰۔

3 طائف اور مکہ کے درمیان ایک محلہ ہے جس کی دوری ایک رات میں طے ہوتی ہے۔ (السیرۃ النبویہ، ج ۲، ص ۶۳)

4 طبری، مگزشتہ حوالہ، ص ۲۳۱؛ ابن ہشام، مگزشتہ حوالہ، ص ۶۳۔

5 مراجعہ کریں: ۱۔ الصحیح من سیرۃ النبی الاعظم، ج ۲، ص ۱۶۸-۱۶۷۔

6 ابن ہشام، مگزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۶۶-۶۵؛ طبری، تاریخ الامم والملوک (بیروت: دار القاموس الحدیث)، ج ۲، ص ۲۳۳؛ بلاذری، انسب الاشراف، ج ۱، ص ۲۳۸-۲۳۷؛ ابن اسحاق، السیر والمغازی، تحقیق: سہیل زکار، ص ۲۳۲؛ نیز قبائل: بنی فزارہ، غسان، بنی مرہ، بنی سلیم، بنی عبس، بنی حارث، بنی عذرہ، حضارمہ، بنی نصر اور بنی بکاء میں سے ہر ایک کو دعوت دی لیکن کسی نے قبول نہیں کیا۔ (ابن سعد، طبقات الکبریٰ) (بیروت: دار صادر، ج ۱، ص ۲۱۷-۲۱۶)

7 الامر للہ [الی اللہ] یضع حیث یشاء۔

8 ابن ہشام، مگزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۶۶؛ حلبی، السیرۃ الحلبیہ، (بیروت: دار المعرفہ)، ج ۲، ص ۱۵۴؛ ذینی دحلان، السیرۃ النبویہ والاثار المحمدیہ، (بیروت: دار المعرفہ، ط ۲)، ج ۱، ص ۱۴۷؛ سید جعفر مرتضیٰ العالی، الصحیح من سیرۃ النبی، ج ۲، ص ۱۷۶-۱۷۵۔

منقول ہے کہ ایسی پیش کش قبیلہ کندہ کی طرف سے بھی ہوئی اور پیغمبرؐ کا جواب بھی وہی تھا۔¹

پیغمبرؐ کا یہ جواب اور رد عمل دو اعتبار سے قابل توجہ ہے :

اول : یہ کہ پیغمبر اسلامؐ کا تاکید فرمانا کہ ان کی جانشینی کا مسئلہ خدا سے مربوط ہے، خود آنحضرتؐ کی جانشینی کے انتصابی ہونے پر گواہ ہے یعنی یہ منصب ایک الہی منصب ہے اور اس سلسلے میں انتخاب، خدا کی طرف سے انجام پاتا ہے نہ لوگوں کی طرف سے۔

دوسرا: سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلامؐ نے انسانی حکمرانوں کے برخلاف جو کہ اپنے مقصد کے حصول کے لئے ہر طرح کی چال چلتے تھے اور اس کی توجیہ و تاویل کرتے تھے، امر تبلیغ میں غیر اخلاقی روش اختیار نہیں کی۔ جبکہ اس زمانہ میں ایک بہت بڑے قبیلہ کا مسلمان ہو جانا بہت اہمیت رکھتا تھا لیکن (اس کے باوجود بھی آپ تیار نہیں ہوئے کہ لوگوں سے ایسے وعدے کریں جس کا پورا کرنا آپ کے بس سے باہر ہو)۔

بہر حال حج و عمرہ کے موسم میں، اور حرام مہینوں کے احترام میں، امنیت پیدا ہوئی اور بہت سے گروہ مختلف علاقوں سے مکہ اور منیٰ یامکہ کے اطراف میں لگنے والی بازاروں جیسے موسمی بازار عکاظ، مجنہ اور ذی الجاز میں جاتے تھے² اور پیغمبرؐ وہاں پر اپنے تبلیغی مشن کو جاری رکھتے اور اس کو اور توسیع دیتے تھے۔

آپ بزرگان قبائل کے پاس جاتے تھے اور ان کو تبلیغ کرتے اور اگر مکہ کے مسافر اور زائر خود مسلمان نہیں ہوتے تھے تو کم از کم آپ کے بعثت کی خبر اپنے علاقہ میں پھیلاتے تھے اور یہ کام آپ کی کامیابی کی راہ میں ایک قدم تھا۔

1 ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، (میرات: مکتبۃ المعارف، ط ۱۹۶۶ء)، ج ۳، ص ۱۴۰

2 ابن سعد، معز شتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۱۶.

چوتھا حصہ

- ہجرت سے عالمی تبلیغ تک
- پہلی فصل: مدینہ کی طرف ہجرت
- دوسری فصل: مدینہ میں پیغمبر اسلام کے بنیادی اقدامات
- تیسری فصل: یہودیوں کی سازشیں
- چوتھی فصل: اسلامی فوج کی تشکیل

پہلی فصل

مدینہ کی طرف ہجرت

مدینہ میں اسلام کے نفوذ کا ماحول

وادی القریٰ ایک بڑا درّہ ہے جہاں سے، یمن کے تاجروں کا شام جانے کا راستہ مکہ کے اطراف سے ہوتا ہوا گزرتا ہے اس درّے کی لمبائی شمال سے جنوب تک ہے اور اس میں چند ایسی زمینیں بھی تھیں جو آب و گیاہ سے مالا مال اور کھیتی باڑی کے لائق تھیں۔¹ اور وہاں سے قافلے گزرتے وقت اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ مکہ کے شمال میں ۵۰۰ کلومیٹر کے فاصلہ پر انھیں زمینوں میں سے ایک زمین میں قدیمی شہر ”مدینہ“ پڑتا تھا جو ہجرت رسول خدا کے بعد ”مدینۃ الرسول“ اور پھر ”مدینہ“ کہا جانے لگا۔

اس شہر کے لوگوں کا پیشہ اہل مکہ کے برخلاف کھیتی باڑی اور باغبانی تھا۔ مدینہ کے اجتماعی حالات اور آبادی کا تناسب بھی مکہ سے بالکل الگ تھا۔ اس شہر میں یہودیوں کے تین بڑے قبیلے ”بنی نضیر“، ”بنی قینقاع“ اور ”بنی قریظہ“ رہتے تھے۔ دو مشہور قبیلہ ”اوس اور خزرج“ بھی جن کی اصالت یمنی (قطانی) تھی مازب بند ٹوٹنے کے بعد² جنوب سے ہجرت کر کے اس شہر میں یہودیوں کے بغل میں آکر رہنے لگے تھے۔

جس زمانے میں پیغمبر اسلام مکہ میں تبلیغ الہی میں سرگرم تھے مدینہ میں ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے جن سے ہجرت پیغمبر کا ماحول ہموار ہو رہا تھا اور پھر یہ شہر اسلام کے پیغام اور تبلیغی مرکز میں تبدیل ہو گیا ان واقعات میں سے چند یہ ہیں۔

۱۔ یہودیوں کے پاس شہر کے اطراف میں زرخیز زمینیں تھیں اور ان میں انھوں نے کھجور کے باغات لگا رکھے تھے جن سے ان کی مالی حالت اچھی ہو گئی تھی³ کبھی کبھار ان کے اور اوس و خزرج کے درمیان نوک جھوک ہو جایا کرتی تھی۔ یہودی ان سے کہتے تھے کہ عنقریب ایک پیغمبر آنے والا ہے ہم اس کی پیروی کریں گے اور اس کی مدد سے تم کو قوم عاد و ارم کی طرح نابود کر دیں گے۔⁴

1 یا قوت حموی، معجم البلدان، (بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۳۹۹ھ) ج ۴، ص ۳۳۸۔

2 وہی مصنف، ج ۵، ص ۳۶، مازب بند ٹوٹنے کا تذکرہ ہم اس کتاب کے پہلے حصہ میں کر چکے ہیں۔

3 موننگری واٹ، محمد فی المدینہ، تعریف: شعبان برکات (بیروت: منشورات المكتبة العصرية) ص ۲۹۴ پر کہتے ہیں کہ اوس و خزرج کے مدینہ آنے سے قبل، قبائل عرب ۱۳ قلعوں اور کالونیوں کے مقابلے میں یہودیوں کے پاس ۵۹ قلعے تھے (گزشتہ حوالہ، ۲۹۳؛ وفاء الوفاء، ج ۱، ص ۱۶۵)۔ اس سے دونوں کی زندگی کے معیار اور فاصلہ کا پتہ چلتا ہے۔

4 ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۷۰؛ طبری، ج ۲، ص ۲۳۴؛ بیہقی، دلائل، ترجمہ محمود مہدوی دامغانی (تہران، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۱) ج ۲، ص ۱۲۸۔ مراجعہ کریں: ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج ۱، ص ۵۱؛ طبری، اعلام الوری، ص ۵۶۔

جو یہودی بعثت پیغمبر اسلام کے بارے میں اس طرح پیشین گوئی کرتے تھے، وہی بعثت پیغمبر کے بعد ان سے دشمنی کے لئے کھڑے ہو گئے۔ اس وجہ سے قرآن ان سے اس طرح سے معترض ہوا ”اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے کتاب آئی ہے جو ان کی توریت وغیرہ کی تصدیق بھی کرنے والی ہے اور اس کے پہلے وہ دشمنوں کے مقابلہ میں اسی کے ذریعہ طلب فتح بھی کرتے تھے لیکن اس کے آتے ہی منکر ہو گئے حالانکہ اسے پہچانتے بھی تھے تو اب ان کافروں پر خدا کی لعنت ہو۔“

چونکہ یہودیوں کے کلچر کا معیار بلند تھا اور بت پرست انھیں احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ لہذا اس سلسلے میں ان کی باتوں کو باور کرتے تھے اور چونکہ یہ دھمکیاں کئی بار دی گئیں تھیں لہذا مسئلہ مکمل طور سے اوس و خزرج کے ذہن میں جاگزیں ہو گیا تھا اور ذہنی طور پر مدینہ والے ظہور پیغمبر اسلام کے لئے آمادہ ہو گئے تھے۔

۲۔ برسوں پہلے سے اوس و خزرج کے درمیان کئی مرتبہ جنگ و خونریزی ہو چکی تھی ان میں سے آخری جنگ ”بعثت“ تھی جس کے نتیجے میں بے انتہا جانی نقصانات اور بربادیاں دونوں طرف ہوئی تھیں اور دونوں گروہ نادام و پشیمان ہو کر صلح کرنا چاہتے تھے لیکن کوئی معتبر اور بے طرف شخص نہیں مل رہا تھا جو ان کے درمیان صلح کرا سکے۔ عبد اللہ بن ابی جو خزرج کے بزرگوں میں سے تھا جنگ بعثت میں بے طرف ہو گیا اور چاہتا تھا کہ دونوں گروہ میں صلح کرا کے ان پر حکومت کرے اور اس کی تاج پوشی کے اسباب بھی مہیا ہو چکے تھے۔¹ لیکن مکہ میں پیغمبر اسلام سے اوس و خزرج کی ملاقاتوں نے (جن کا عنقریب ذکر کریں گے) واقعات کا رخ یکسر بدل دیا۔ اور عبد اللہ بن ابی اپنا مقام کھو بیٹھا۔

مدینہ کے مسلمانوں کا پہلا گروہ

مکہ میں پیغمبر اسلام کے ظاہری پیغام کے ابتدائی سالوں میں مدینہ کے لوگ مکہ کے مسافروں اور زائروں کے ذریعہ آنحضرت کی بعثت سے آگاہ ہو گئے تھے اور ان میں سے کچھ آنحضرت کی زیارت سے مشرف ہو کر مسلمان ہو گئے لیکن کچھ ہی دنوں بعد وہ رحلت کر گئے یا قتل کر دیئے گئے تھے۔² بہر حال وہ لوگوں کو اسلام کی طرف نہیں بلا سکے تھے۔

بعثت کے گیارہویں سال پیغمبر نے بزرگان خزرج میں سے چھ لوگوں کو حج کے موسم میں منیٰ میں دیکھا اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دی ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: جان لو! یہ وہی پیغمبر ہے جس کی بعثت سے یہودی ہمیں ڈراتے ہیں۔ لہذا ایسی صورت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے پہلے اس کے دین کو قبول کر لیں۔ لہذا وہ سب اسلام لے آئے اور پیغمبر سے کہا:

ہم اپنی قوم کو دشمنی اور ٹکراؤ کی بدترین حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ خداوند متعال آپ کے ذریعہ ان میں الفت ڈال دے گا۔ اب ہم مدینہ واپس جا رہے ہیں اور ان کو اس دین کی طرف بلائیں گے۔ اگر ان لوگوں نے بھی اس دین کو قبول کر لیا تو کوئی بھی ہماری نظروں میں آپ سے زیادہ عزیز و محترم نہ ہو گا۔

اس گروہ نے مدینہ واپس جانے کے بعد لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی۔

1 طبری ہیگزشتہ حوالہ ص ۵۸۰۔

2 ابن ہشام ہیگزشتہ حوالہ ص ۷۰-۶۷؛ طبری ہیگزشتہ حوالہ ص ۲۳۳؛ بلاذری، انساب الاشراف، ج ۱ ص ۲۳۸؛ بیہقی ہیگزشتہ حوالہ ج ۲ ص ۱۱۸۔

ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ نغمہ اسلام پورے یثرب میں پھیل گیا اور کوئی گھرا یا نہیں بچا جہاں پیغمبر اسلام کی باتیں نہ ہوتی ہوں۔¹

عقبہ کا پہلا معاہدہ

بعثت کے بارہویں سال مدینہ کے بارہ لوگوں نے حج کے موسم میں ”عقبہ منیٰ“² کے کنارے رسول خدا کی بیعت کی۔ اس گروہ میں دس خزرجی اور دو اوسی تھے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں قبیلے گزشتہ کدورتوں کو بھول کر ایک دوسرے کے دوش بدوش اسلام کے پرچم تلے جمع ہو گئے تھے۔

گزشتہ سال، بیعت کرنے والے ۵ افراد تھے جن میں ۷ افراد کا اور اضافہ ہوا اور بیعت کی تھی کہ کسی کو خدا کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری اور زنا نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گے، ایک دوسرے پر تہمت (زنا کا الزام) نہیں لگائیں گے نیک کاموں میں پیغمبر کے حکم کی مخالفت نہیں کریں گے۔³

پیغمبر اسلام نے اس عہد کی پابندی کرنے والوں سے، اس کے عوض میں بہشت کا وعدہ کیا۔⁴

وہ موسم حج کے بعد مدینہ آگئے اور پیغمبر سے تقاضا کیا کہ ایک شخص کو ان کے شہر میں بھیجیں تاکہ وہ مدینہ کے لوگوں کو اسلام اور قرآن کی تعلیم دے۔ رسول خدا نے مصعب بن عمیر کو بھیجا۔⁵

مصعب کی تبلیغ اور کوششوں سے مسلمانوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ مکہ کے اہم اور خاص لوگ اسلام کی مخالفت کے لئے کمر بستہ ہو گئے تھے مگر جوانوں اور مستضعفوں نے آپ کا استقبال کیا۔ لیکن مدینہ میں تقریباً اس کے بالکل برعکس ماحول تھا یعنی اہم اور خاص لوگ پیش قدم اور آگے تھے اور عوام ان کے پیچھے چل رہی تھی یہ ایک ایسا سبب تھا جس کی وجہ سے اسلام تیزی کے ساتھ اس شہر میں پھیلا۔

1 ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ۷۳-۷۰؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ص ۲۳۵-۲۳۴؛ بیہقی، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۱۲۸؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۹، ص ۲۵.

2 ”عقبہ“

3 چونکہ اس عہد میں جنگ و جہاد کی بات نہیں ہوئی۔ لہذا اس کو ”بیعت النساء“ کہا گیا جیسا کہ پیغمبر اسلام نے اس کے بعد فتح مکہ میں اس شہر کی مسلمان عورتوں سے اسی طرح کا عہد و پیمان کیا جس کا ذکر سورہ ممتحنہ کی آیت ۱۲ میں ہوا ہے

4 وہی حوالہ؛ ابن طہقات الکبریٰ، ج ۱، ص ۲۲۰

5 مصعب، قریش کے ایک جوان اور قبیلہ بنی عبددار کے ایک ثروتمند اور مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے والدین ان سے بہت محبت کرتے تھے لیکن مسلمان ہو جانے کی وجہ سے انھیں گھر سے نکال دیا اور مال و ثروت سے محروم کر دیا، وہ ایک حقیقی اور انقلابی مسلمان تھے اور دوبار حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے (ابن اثیر، اسد الغابہ، ج ۴، ص ۷۰-۳۶۸)

عقبہ کا دوسرا معاہدہ

بعثت کے تیرہویں سال حج کے موسم میں ۷۵ افراد جن میں سے گیارہ افراد اوسی (اور بقیہ خزرجی) اور دو خاتون تھیں قافلہ حج کے ساتھ مدینہ سے مکہ آئے اور ۱۲ ذی الحجہ کو ”عقبہ منیٰ“ کے کنارے دوسرا عہد شب کی تاریکی میں (مخفی صورت میں) پیغمبرؐ کے ساتھ کیا۔ اس عہد میں انھوں نے عہد کیا کہ اگر پیغمبرؐ نے ان کے شہر کی طرف ہجرت کی تو وہ اسی طرح ان کی حمایت کریں گے جیسے وہ اپنی ناموس اور اولاد کی حمایت کرتے ہیں اور جن لوگوں سے پیغمبرؐ جنگ کریں گے ان سے وہ لڑیں گے۔ اس اعتبار سے اس بیعت کو ”بیت الحرب“ بھی کہا گیا ہے۔

عہد کے بعد پیغمبرؐ کے حکم سے بارہ افراد نمائندے کے طور پر (نقیب) انتخاب ہوئے (مرکزی کمیٹی) تاکہ مدینہ پلٹنے کے بعد ہجرت رسول خداؐ کے زمانے تک ان کے امور کی سرپرستی کر سکیں۔¹

اور یہ پیغمبر اسلامؐ کی کارکردگی کا ایک طریقہ تھا اور موجودہ افراد کو منظم کرنے میں آپ کی سعی و کوشش تھی۔

عہد نامہ کے تمام ممبران کے نام تاریخ اسلام کی مفصل کتابوں میں تحریر ہیں۔

مدینہ کی طرف ہجرت کا آغاز

تمام مخفیانہ امور کے باوجود جو کہ پیغمبرؐ اور مدینہ والوں کے درمیان انجام پائے تھے، قریش اس بیعت سے آگاہ ہو کر بیعت کرنے والوں کی گرفتاری میں لگ گئے۔ مگر انھوں نے اتنی تیزی سے کام کیا کہ فوراً مکہ کو ترک کر دیا اور صرف ایک شخص کے علاوہ کوئی گرفتار نہ ہوا۔

اہل مدینہ کے کوچ کر جانے کے بعد قریش سمجھ گئے کہ پیغمبر اسلامؐ نے لوگوں کو اپنا حامی اور مدینہ میں اپنا ایک مرکز بنالیا ہے لہذا انھوں نے مسلمانوں کے ساتھ اور زیادہ سختی کرنا شروع کر دی۔ اور حد سے زیادہ انھیں برا بھلا کہنے لگے اور اس قدر انھیں تکلیفیں پہنچائیں کہ ایک بار پھر (حبشہ کی ہجرت سے پہلے کی طرح) مکہ میں زندگی گزارنا دشوار ہو گیا۔²

اس بنا پر پیغمبر اسلامؐ نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دیدی اور فرمایا: مدینہ کی طرف کوچ کرو خداوند متعال نے انھیں تمہارا بھائی اور جائے امن قرار دیا ہے۔³

مسلمانوں نے ڈھائی مہینے کے اندر (نصف ذی الحجہ سے آخری صفر تک) آہستہ آہستہ ان تمام مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود جو قریش نے سر راہ کھڑی کر رکھی تھیں، مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور مکہ میں پیغمبرؐ، علیؓ، ابو بکر اور چند افراد کے علاوہ کوئی مسلمان باقی نہ بچا۔

1 یہ بھی گزشتہ حوالہ، ص ۱۴۰-۱۳۲؛ ابن ہشام گزشتہ حوالہ، ص ۸۱-۹۰؛ بلاذری گزشتہ حوالہ، ص ۲۵۴-۲۴۰؛ ابن سعد گزشتہ حوالہ، ص ۲۲۳-۲۲۱؛ گزشتہ حوالہ، ص ۲۳۷؛ طبری، اعلام الوری، ص ۵۹-۶۰؛ مجلسی گزشتہ حوالہ، ج ۱۹، ص ۲۶-۲۵۔

2 بلاذری گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۵۷؛ طبری گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۲۴۱-۲۴۰؛ ابن سعد گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۲۶؛ مجلسی گزشتہ حوالہ، ص ۲۶۔

3 ان اللہ عزوجل قد جعل لکم اخوانا وداراً آمنون بہا (ابن ہشام گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۱۱۱؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج ۱، ص ۱۸۲؛ ابن کثیر، البدایہ و النہایہ، ج ۳، ص ۱۶۹۔ حلبی، السیرۃ الحلبیہ، (انسان العیون) بیروت: دار المعرفہ، ج ۲، ص ۱۸۹۔

انصار کی تاریخ میں جو افراد مکہ سے مدینہ گئے ”مہاجرین“ اور مدینہ کے مسلمان جنہوں نے پیغمبرؐ کی مدد کی ”انصار“ کہلائے۔

پیغمبرؐ کے قتل کی سازش

مکہ کے مسلمانوں نے ہجرت کے بعد مدینہ میں قیام کیا، ادھر قریش کے سردار سمجھ گئے کہ مدینہ رسول خداؐ اور ان کے چاہنے والوں کے لئے ایک مرکز اور پناہ گاہ بن چکا ہے اور وہاں کے لوگ رسولؐ کے دشمن سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہیں اس وجہ سے وہ پیغمبرؐ کی ہجرت سے ڈرے کیونکہ اس چیز نے قریش کو چند خطرات سے رو برو کر دیا تھا۔

۱۔ مسلمان ان کی دسترس سے باہر ہو چکے تھے نئی صورت حال کے پیش نظر، حالات کے بارے میں پیش بینی اور حوادث کی راہ میں تاثیر گزاری قریش کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔

۲۔ چونکہ اہل مدینہ پیغمبرؐ سے جنگ میں حمایت کا عہد کر چکے تھے لہذا اس بات کا امکان تھا کہ آنحضرتؐ انتقام کی خاطر ان کی مدد سے کہیں مکہ پر حملہ نہ کر دیں۔¹

۳۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ جنگ نہیں ہوئی پھر بھی ان کے لئے ایک بڑا خطرہ لاحق تھا۔

کیونکہ مدینہ، قریش کے تاجروں کے لئے مناسب بازار تھا اور اس شہر سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے بعد، بہت بڑا اقتصادی نقصان ان کو ہونے والا تھا۔

۴۔ مدینہ، مکہ سے شام کے تجارتی راستہ کے کنارے پر پڑتا تھا اور مسلمان اس راستے کو ناامن بنا کر کاروبار تجارت میں خلل ڈال سکتے تھے۔

یہ فکریں اور الجھنیں باعث بنیں کہ سرداران قریش ”دار الندوہ“ (قریش کے سازشوں کا اڈہ اور قصی کی نشانی) میں اکٹھا ہوئے اور چارہ جوئی میں لگ گئے۔

کچھ نے مشورہ دیا کہ حضرت محمدؐ کو شہر بدر یا قید کر لیا جائے لیکن یہ دو مشورے بعض دلیلوں کی بنیاد پر رد ہو گئے۔ آخر کار یہ طے پایا کہ محمدؐ کو قتل کر دیا جائے لیکن ان کو قتل کرنا آسان کام نہیں تھا کیونکہ اس کے بعد بنی ہاشم سکون سے نہ بیٹھتے اور خون خواہی کے لئے کھڑے ہو جاتے اس بنا پر طے کیا کہ ہر قبیلہ سے ایک جوان تیار ہو، تاکہ راتوں رات سب ملکر محمدؐ پر حملہ کر دیں اور ان کو بستر خواب پر ہی قتل کر دیں۔

ایسی صورت میں قاتل ایک شخص نہیں ہو گا اور بنی ہاشم بھی خون خواہی کے لئے کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے لئے ان تمام قبیلوں سے جو اس قتل میں شریک تھے، جنگ کرنی ناممکن ہوگی، لہذا وہ مجبور ہو کر خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ماجرا اسی پر تمام ہو جائے گا۔ قریش نے اپنی سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لئے ربیع الاول کی پہلی شب کا انتخاب کیا۔ خداوند عالم ان کی سازش کو اس طرح سے بیان کرتا ہے:

”اور پیغمبر آپ اس وقت کو یاد کریں جب کفار تدبیریں کرتے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا شہر بدر کر دیں یا قتل کر دیں اور ان کی تدبیروں کے ساتھ ساتھ خدا بھی اس کے خلاف انتظام کر رہا تھا اور وہ بہترین انتظام کرنے والا ہے۔“¹

پیغمبر اسلام کی ہجرت

پیغمبر اسلام وحی کے ذریعہ ”دار الندوہ“ کی سازش سے آگاہ ہوئے اور حکم خدا ہوا کہ مکہ سے باہر چلے جائیں۔ رسول خداؐ نے اپنی ماموریت سے علیؑ کو آگاہ کیا اور فرمایا: ”آج کی شب میرے بستر پر سو جاؤ اور میری سبز چادر اوڑھ لو“ علیؑ نے بے خوف و خطر اس ذمہ داری کو قبول کیا۔

پیغمبرؐ اس شب ابو بکر کے ساتھ ”غار ثور“ میں چلے گئے جو مکہ کے جنوبی علاقے (مدینہ کے مخالف سمت) میں واقع تھا۔ اور تین روز غار میں رہے تاکہ قریش ان کو پانے سے ناامید ہو جائیں اور راستہ پر امن ہو جائے اور آپ ہجرت کو جاری رکھ سکیں، خداوند عالم نے قرآن مجید میں پیغمبرؐ کی تنہائی اور بے یاروی کا ذکر فرمایا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک نصر کے علاوہ کوئی دوسرا نہ تھا اور وہ بھی اضطراب و پریشانی کا شکار ہو گیا تھا۔ لیکن قریش اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود خدا کی قدرت سے پیغمبرؐ تک نہیں پہنچ سکے۔

”اگر تم پیغمبرؐ کی مدد نہ کرو گے تو ان کی مدد خدا نے کی ہے اس وقت جب کفار نے انھیں وطن سے باہر نکال دیا اور وہ ایک شخص کے ساتھ نکلے اور دونوں غار میں تھے تو وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ رنج نہ کرو خدا ہمارے ساتھ ہے پھر خدا نے اپنی طرف سے اپنے پیغمبرؐ پر سکون نازل کر دیا اور ان کی تائید ان لشکروں سے کر دی جنہیں تم نہ دیکھ سکے اور اللہ ہی نے کفار کے کلمہ کو پست بنایا ہے اور اللہ کا کلمہ درحقیقت بہت بلند ہے۔ کہ وہ صاحب عزت و غلبہ بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔“²

عظیم قربانی

حضرت علیؑ اس شب پیغمبرؐ کے بستر پر سوئے اور قریش کے مسلح افراد نے رات کی تاریکی میں پیغمبرؐ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور صبح سویرے ننگی تلواروں کے ساتھ گھر کے اندر گھس گئے، اسی عالم میں علیؑ بستر سے اٹھ گئے اس وقت تک وہ لوگ اپنے منصوبے کو سو فیصد درست اور کامیاب سمجھ رہے تھے لیکن علیؑ کو دیکھتے ہی انھیں سخت حیرت ہوئی اور وہ ان کی طرف لپکے، یہ دیکھ کر علیؑ نے اپنی تلوار کھینچ لی اور مقابلہ کے لئے تیار ہو گئے جب انھوں نے پیغمبرؐ کے مخفی ہونے کی جگہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے بتانے سے انکار کر دیا۔³

۱ واذ یحکمر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر اللہ و اللہ خیر الماکرین“ سورۃ انفال، آیت ۳۰۔

2 سورۃ توبہ، آیت ۴۰۔

3 دار الندوہ اور لیلیۃ الحبیب کا واقعہ الفاظ اور عبارتوں کے فرق کے ساتھ اختصار و تفصیل سے مندرجہ ذیل کتابوں میں نقل ہوا ہے۔ تاریخ الامم والملوک، ج ۲، ص ۲۴۵-۲۴۲؛ السیرۃ النبویہ، ج ۲، ص ۱۲۸-۱۲۴؛ طبقات الکبریٰ، ج ۱، ص ۲۲۸-۲۲۷؛ دلائل النبوة، ج ۲، ص ۱۴۹-۱۴۷؛ انساب الاشراف، ج ۱، ص ۲۶۰-۲۵۹؛ الکامل فی التاريخ، ج ۲، ص ۱۰۳-۱۰۱؛ تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۳۲؛ اعلام الوری، ص ۶۱؛ ابالی شیخ طوسی، ص ۴۴-۴۳؛ مناقب ابن شہر آشوب، ج ۱، ص ۱۸۳-۱۸۲؛ مناقب خوارزمی، ص ۷۳؛ کنز الفوائد کراچی، ج ۲، ص ۵۵؛ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ج ۳، ص ۱۸۰-۱۷۵؛ السیرۃ النبویہ، ج ۲، ص ۲۰۶-۱۸۹؛ تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۱۹۲-۱۹۱؛ بحار الانوار، ج ۱۹، ص ۶۵-۶۷۔

اس رات جو شخص بھی پیغمبر کے بستر پر سوتا اس کے بچنے کی امید نہیں تھی لیکن حضرت علیؑ شعب ابوطالب میں بھی اکثر راتوں میں پیغمبر کی جگہ سوتے تھے اور اپنے کو سپر قرار دیتے تھے اور خطرہ مول لیتے تھے تاکہ پیغمبر اکرمؐ کی جان محفوظ رہ سکے خداوند عالم نے ان کی اس قربانی کو اس طرح بیان کیا ہے:

”اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لئے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔“¹

مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علیؑ کی عظیم قربانی کے سلسلے میں ”لیلة المبیت“ میں نازل ہوئی۔²

حضرت علیؑ نے اپنے ایک بیان میں قریش کی سازش کو ذکر کرنے کے بعد اس خطرناک رات میں اپنی حالت کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے:

... ”پیغمبر نے مجھ سے فرمایا کہ ان کے بستر پر سو جاؤں اور اپنی جان کو ان کے لئے سپر قرار دوں۔ بے خوف اس ماموریت کو میں نے قبول کیا، میں خوش تھا کہ آپ کی راہ میں قتل کیا جاؤں۔ پیغمبر ہجرت کر گئے اور میں ان کے بستر پر لیٹا رہا۔ قریش کے مسلح افراد کو اس بات کا یقین تھا کہ پیغمبر کو قتل کر دیں گے لہذا وہ گھر میں گھس گئے اور جب وہاں پہنچے جہاں میں لیٹا تھا تو میں نے یہ دیکھ کر اور تلوار ہاتھ میں لے لی اور اپنا اس طرح دفاع کیا کہ خدا جانتا ہے اور لوگ بھی اس سے آگاہ ہیں۔“³

قبائیں پیغمبر کا داخلہ

رسول خداؐ نے علیؑ سے فرمایا کہ میری ہجرت کے بعد اپنے مکہ ترک کرنے سے پہلے، لوگوں کی جو امانتیں ان کے پاس ہیں اسے لوگوں کو واپس کر دیں۔⁴ اور ان کی دختر فاطمہ اور بنی ہاشم کے دوسرے چند افراد جو اس وقت تک ہجرت نہیں کر سکے تھے ان کی ہجرت کے مقدمات فراہم کریں۔⁵

1 سورۃ بقرہ، آیت ۲۰۷۔

2 قتال نیشاپوری، روضۃ الواعظین (بیروت: موسسۃ العلمی للمطبوعات، ط ۱، ۱۴۰۶ھ، ق) ص ۱۱۷؛ ابن اثیر، اسد الغابہ، ج ۴، ص ۲۵؛ مومن شبلنجی، نور الابصار (قاہرہ: مکتبۃ المشد الحسینی)، ص ۸۶؛ طبری، مجمع البیان، ج ۱، ص ۳۰۱؛ ابن ابی الحدید، شرح نہج البلاغہ، تحقیق: محمد ابو الفضل ابراہیم (قاہرہ: دار احیاء الکتب العربیہ، ۱۹۶۱)، ج ۱۳، ص ۲۶۲؛ سیوطی، تذکرۃ الخواص (نجف: المکتبۃ الحیدریہ، ۱۳۸۳ھ، ق)، ص ۳۵؛ تقی الدین ابو بکر حموی، ثمرات الاوراق (حاشیہ المستطرف میں)، ص ۲۰؛ عبدالحسین امینی، الغدیر، ج ۲، ص ۸۰؛ مرحوم مظفر نے اہل سنت کے نامور علماء اور مفسرین جیسے ثعلبی، قدوسی، حاکم نیشاپوری، احمد ابن حنبل، ابوالسعادت، غزالی، فخر رازی، اور ذہبی سے نقل کیا ہے کہ سبھی نے کہا ہے کہ یہ آیت حضرت علیؑ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔

3 صدوق، الفضائل (قم: منشورات جامعہ المدر سین)، ج ۲، ص ۳۶۷؛ باب السبع، مفید، الاختصاص (قم: منشورات جامعہ المدر سین)، ص ۱۶۵۔

4 ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۲، ص ۱۲۹؛ طبری، غزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۲۷۷؛ بلاذری، انساب الاشراف، ج ۱، ص ۲۶۱؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج ۱، ص ۱۸۳۔

5 شیخ طوسی، الامالی (قم: دارالافتاء، ط ۱، ۱۴۱۳ھ، ق)، ص ۴۶۸؛ رجوع کریں: مفید، الاختصاص، ص ۱۷۷؛ تاریخ الخلفاء، ص ۱۶۶؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۹، ص ۶۲۔

حضرت محمدؐ نے چوتھی ربیع الاول (بعثت کے چودھویں سال) غارِ کو مدینہ کے ارادہ سے ترک کیا¹ اور اسی مہینے کی بارہویں تاریخ کو مدینہ کے باہر محلہ ”قبا“ میں قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے رہنے کی جگہ پہنچے² اور چند روز علیؑ کے انتظار میں وہاں ٹھہرے رہے³ اور اس دوران ایک مسجد وہاں پر تعمیر کی۔⁴

پیغمبرؐ کی ہجرت کے بعد علیؑ تین دن مکہ میں ٹھہرے رہے اور اپنے فریضے کو بہ حسن و خوبی انجام دیا⁵ پھر اپنی والدہ گرامی فاطمہ بنت اسدؓ، فاطمہ زہراؓ دختر پیغمبرؐ اور فاطمہ دختر زبیر بن عبدالمطلب کو دوسرے افراد کے ہمراہ لے کر قبائیں پیغمبرؐ سے جا ملے۔⁶

پیغمبرؐ کا مدینہ میں داخلہ

حضرت علیؑ کے قبائیں پہنچنے کے بعد پیغمبر اکرمؐ بنی نجار (عبدالمطلب کے مادری رشتہ دار) کے ایک گروہ کے ساتھ مدینہ گئے۔ راستہ میں قبیلہ بنی سالم بن عوف کے محلہ میں پہلی نماز جمعہ پڑھی۔ شہر میں داخل ہوتے وقت لوگوں نے بہت ہی پر جوش انداز میں آپؐ کا استقبال کیا۔ قبائل کے سرداروں اور بڑی شخصیتوں نے ناٹھ پیغمبر اکرمؐ کی زمام کو پکڑ کر آنحضرتؐ سے درخواست کی کہ ان کے محلہ میں تشریف لے چلیں۔ پیغمبرؐ نے فرمایا: ناقہ کے راستہ کو خالی کر دو اسے خدا کی جانب سے حکم ملا ہے وہ جہاں بیٹھے گا میں وہیں اتر جاؤں گا۔

گویا رسول خداؐ اپنی تدبیر اور حکمت عملی کے ذریعہ چاہتے تھے کہ (حجر اسود کے نصب کے فیصلہ کی طرح) ان کی میزبانی کا شرف و افتخار کسی خاص قبیلہ یا خاندان کو حاصل نہ ہو اور آئندہ سماج میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔

آخر کار آنحضرتؐ کا اونٹ محلہ بنی نجار میں ابویوب انصاری خالد بن خزرجی کے گھر کے قریب بیٹھ گیا اس وقت (ایسی جگہ پر بیٹھا جو دو یتیموں کی تھی جہاں بعد میں مسجد النبیؐ بنی)۔

پیغمبر اکرمؐ کے چاروں طرف بے شمار لوگ اکٹھا ہو گئے ہر ایک کی آرزو تھی کہ آنحضرتؐ کے میزبان ہم بنیں۔ ابویوب انصاریؓ آنحضرتؐ کے سامان سفر کو اپنے گھر لے گئے اور ساتھ میں آنحضرتؐ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اور اس وقت تک وہاں آپؐ نے قیام کیا جب تک مسجد النبیؐ اور اس کے ساتھ ہی آپؐ کی رہائش کے لئے حجرہ نہ بن گیا۔⁷

1 محمد بن سعد، طبقات الکبریٰ، ج ۱، ص ۲۳۲؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۹، ص ۸۷۔

2 ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ۱۳؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ص ۲۳۸؛ طبری، اعلام الوری، ص ۶۴؛ بلاذری، گزشتہ حوالہ، ص ۲۶۳؛ بیہقی، دلائل النبوة، ترجمہ: محمود مہدوی دامغانی (تہران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۱)، ج ۲، ص ۱۷۲۔

3 رسول اسلامؐ نے مدت میں اختلاف ہے۔

4 ابن شہر آشوب، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۸۵؛ بیہقی، گزشتہ حوالہ، ص ۱۷۲ و ۱۷۱؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۲۴۹۔

5 ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ۱۳۸؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ص ۲۴۹۔

6 ابن شہر آشوب، گزشتہ حوالہ، ص ۱۸۳؛ رجوع کریں: اعلام الوری، ص ۶۶؛ تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۳۴۔

7 گزشتہ حوالہ۔

ہجری تاریخ کا آغاز

ہجرت بڑی تبدیلیوں کی شروعات اور اسلام کی پیش رفت میں ایک اہم موڑ کا نام ہے کیونکہ اسی کے سایہ میں مسلمانوں نے گھٹن اور دشواریوں کے ماحول سے نکل کر آزاد ماحول میں قدم رکھا اور آزادی کے ساتھ ایک نقطہ پر متمرکز ہو گئے اور ایسے حالات میں یہ چیز ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اگر ہجرت انجام نہ پاتی تو مکہ میں اسلام گھٹ گھٹ کر دم توڑ دیتا اور ہرگز اسے ترقی نہ ملتی۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں نے سیاسی اور نظامی سرگرمیاں شروع کر دیں اور اسلام جزیرۃ العرب میں پھیل گیا۔

اس بنا پر ہجرت، اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز قرار پائی لیکن کس شخص نے پہلی مرتبہ اس تاریخ کی بنیاد ڈالی؟ اور کس وقت سے یہ تاریخ رائج ہوئی؟ مورخین اسلام کے درمیان مشہور یہ ہے کہ یہ کام عمر بن خطاب کے زمانہ میں، اس کے ذریعہ سے اصحاب پیغمبرؐ کے مشورہ سے انجام پایا۔¹

لیکن محققین اور تاریخ اسلام کے تجزیہ نگاروں کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ اس امر کے بانی خود پیغمبر اسلام تھے۔ اسلام کے بڑے مورخین کے ایک گروہ نے لکھا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ماہ ربیع الاول میں حکم دیا کہ اسی مہینہ سے تاریخ لکھی جائے۔² اس مطلب کے گواہ پیغمبرؐ کے کچھ خطوط، مکاتبات اور تاریخی دستاویزات ہیں جو تاریخی کتابوں سے ہم تک پہنچی ہیں اور ان کی تاریخ نگارش آغاز ہجرت سے ذکر ہوئی ہے اس کے دو نمونہ یہاں پیش ہیں :

۱۔ پیغمبر اسلامؐ نے مقلنا کے یہودیوں سے ایک عہد و پیمان کیا اور اس پر آپؐ نے دستخط فرمائی اس کے آخر میں یہ لکھا ہے کہ اس عہد نامہ کو علی بن ابی طالبؓ نے ۹ھ میں تحریر کیا ہے۔³

۲۔ پیغمبر اسلامؐ نے نجران کے مسیحیوں کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا اس میں بھی یہ ذکر ہوا ہے کہ پیغمبرؐ نے علیؓ کو حکم دیا کہ اس میں لکھو کہ یہ پیمان ۵ھ میں لکھا گیا ہے۔⁴

بعض قرائن اور شواہد کی بناء پر ۵ھ تک ہجرت کو اصل اور بنیاد بنا کر واقعات اور روداد و حوادث کو مہینوں کی تعداد کے لحاظ سے لکھا جاتا تھا۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں :

1 ابن واضح، تاریخ یعقوبی، (نصف: المکتبۃ الحیدریہ، ۱۳۸۴ھ، ق) ۲، ص ۱۳۵؛ مسعودی، التنبیہ والاشراف (قاہرہ: دار الصاوی للطبع والنشر، ص ۲۵۲؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ (بیروت: دار صادر)، ج ۱، ص ۱۰؛ الشیخ عبدالقادر بدران، تہذیب تاریخ دمشق (تالیف حافظ ابن عساکر) (بیروت: دار احیاء التراث العربی، ط ۳، ۱۴۰۷ھ، ق) ۱، ص ۲۴-۲۳۔

2 طبری، تاریخ الامم والملوک، (بیروت: دار القاموس الحدیث)، ج ۲، ص ۲۵۲؛ نور الدین السمودی، وفاء الوفاء باخبار دار المصطفیٰ، (بیروت: دار احیاء التراث العربی، ط ۳، ۱۴۰۱ھ، ق) ۱، ص ۲۸۸؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۴۰، ص ۲۱۸؛ ابن شہر آشوب کی نقل کے مطابق۔

3 بلاذری، فتوح البلدان (بیروت: دار الکتب العلمیہ، ۱۳۹۸ھ، ق) ۲، ص ۷۲-۷۱؛ اس سند کے اصل متن میں علی بن ابی طالب (واؤ کے ساتھ) لکھا ہوا ہے جس کی وجہ تاریخ کی کتابوں میں بتائی گئی ہیں۔ رجوع کریں: الصحیح من سیرۃ النبی الاعظم، ج ۳، ص ۳۸-۴۶۔

4 الشیخ عبدالملک النکاتی، الترتیب الاداریہ (بیروت: دار احیاء التراث العربی)، ج ۱، ص ۱۸۱۔

- ۱۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں: ”ماہ رمضان کا روزہ تغیر قبلہ کے ایک ماہ بعد، ہجرت کے اٹھارویں مہینہ میں واجب ہوا ہے۔“¹
- ۲۔ سفیان بن خالد سے جنگ کے لئے بھیجے ہوئے لشکر کا کمانڈر عبداللہ بن اُنیس کہتا ہے کہ میں پیر کے دن پانچ محرم کو ہجرت کے پچاسویں مہینے میں مدینے سے نکلا۔²
- ۳۔ محمد بن مسلمہ قبیلہ قرطاً³ سے جنگ کے بارے میں لکھتا ہے: میں دس محرم کو مدینہ سے باہر گیا اور انیس دن کے بعد محرم کی آخری رات، ہجرت کے ۵۵ ویں مہینے میں، مدینہ واپس آیا۔⁴
- اس بنا پر ہجری، تاریخ کے بانی پیغمبر اسلام ہی تھے۔ لیکن شاید خلافت عمر کے دور تک اسے بہت زیادہ شدت اور عمومیت نہیں مل سکی تھی۔⁵ اور چونکہ عمر کے دور میں زمان حوادث اور بعض دستاویزات اور مطالبات کی تاریخ میں اختلاف کی کچھ صورتیں پیش آئیں۔⁶ لہذا انھوں نے اس مسئلے کو ۶۱ھ میں قانونی شکل دی اور ربیع الاول (مدینے میں پیغمبر کے داخلے کا مہینہ) کے بجائے ماہ محرم کو ہجری سال کا آغاز قرار دیا۔⁷

- 1 الشیخ حسن الدیار بکری، تاریخ الخلفاء، (بیروت: مؤسسة شعبان)، ج ۱، ص ۳۶۸۔
- 2 واقدی، المغازی، تحقیق: مارسڈن جانس (بیروت: مؤسسة الاعلیٰ للطبوعات)، ج ۲، ص ۵۳۱۔
- 3 بنی بکر کا ایک خاندان ہے۔
- 4 واقدی، غزشتہ حوالہ، ص ۵۳۴۔
- 5 سید جعفر مرتضیٰ عالمی، الصیغ من سیرۃ النبی الاعظم، ج ۳، ص ۵۵۔
- 6 طبری، غزشتہ حوالہ، ص ۲۵۲؛ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ (بیروت: مکتبۃ المعارف ط ۲، ۱۳۹۴ھ، ق)، ج ۷، ص ۷۴-۷۳؛ ابن ابی الحدید، شرح نہج البلاغہ، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراہیم (قاہرہ: دار احیاء الکتب العربیہ، ۱۹۶۱م)، ج ۱۲، ص ۷۴؛ ابن کثیر، الکامل فی التاریخ، ج ۱، ص ۱۱-۱۰۔
- 7 ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج ۱، ص ۱۷۵؛ الصیغ من سیرۃ النبی الاعظم، ج ۳، ص ۳۵؛ مزید معلومات کے لئے رجوع کریں: الصیغ من سیرۃ النبی الاعظم، ج ۳، ص ۵۶-۳۲۔

دوسری فصل

مدینہ میں پیغمبر اسلام کے سیاسی اقدامات

مسجد کی تعمیر

پیغمبر اسلام نے مدینہ میں¹ قیام کے بعد یہ ضرورت محسوس کی کہ ایک مسجد بنائی جائے جو مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا سینٹر اور نماز جمعہ اور جماعت کے وقت جمع ہونے کی جگہ قرار پائے۔ اس وجہ سے آپؐ نے اس زمین کو جہاں پہلے دن آپ کا اونٹ بیٹھا تھا اور وہ دو یتیموں کی تھی ان کے اولیاء سے خریدی اور مسلمانوں کی مدد سے وہاں ایک مسجد تعمیر کی² جو آپ کے نام یعنی ”مسجد النبی“ کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہجرت کے بعد آنحضرتؐ کا یہ پہلا اجتماعی اقدام تھا۔ مسجد کی تکمیل کے بعد، اس کے پہلو میں دو کمرے آنحضرتؐ اور آپ کی ازواج کے رہنے کے لئے بنائے گئے۔³ اس کے بعد آنحضرتؐ ابویوب کے گھر سے وہاں چلے گئے۔⁴ اور آخری عمر تک اسی کمرے میں زندگی بسر کی۔

اصحاب صفہ

مسلمانوں کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، انصار نے مہاجر مسلمانوں کو جہاں تک ہو سکا اپنے گھروں میں ٹھہرایا اور ان کے لئے زندگی کی سہولتیں فراہم کیں۔⁵

لیکن اصحاب صفہ جو ایک فقیر، مسافر بے گھر اور ہر لحاظ سے محروم طبقہ تھا ان کے رہنے کے لئے مسجد کے آخر میں وقتی طور پر ایک سائبان بنادیا گیا تھا۔

1 یا قوت حموی، معجم البلدان (بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۳۹۹ھ، ق)، ج ۵، ص ۴۳۰، (لغت: بیروب)

2 محمد بن سعد، طبقات الکبریٰ (بیروت: دار صادر)، ج ۱، ص ۲۳۹، طبری، تاریخ الامم والملوک (بیروت: دار القاموس الحدیث)، ج ۲، ص ۲۵۶، بیہقی، دلائل النبوة، ترجمہ محمود مہدی دامغانی (تہران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۱)، ج ۲، ص ۱۸۷، ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب (قم: المطبعة العلمیہ)، ج ۱، ص ۱۸۵، ابن کثیر، البدایہ والنہایہ (بیروت: مکتبۃ المعارف، ط ۲، ۱۹۷۷)، ج ۳، ص ۲۱۵، الدین الحلبي، السیرۃ الحلبيہ (انسان العیون) (بیروت: دار المعرفہ، ج ۲، ص ۲۵۲، مجلسی، بحار الانوار (تہران: دار الکتب الاسلامیہ)، ج ۱۹، ص ۱۲۴۔

3 ایک کمرہ سودہ اور ایک کمرہ عائشہ کے لئے بنایا گیا (محمد بن سعد، سابق، ص ۲۴۰، حلبی، سابق، ص ۲۷۳)

4 ابن ہشام، السیرۃ النبویہ (قاہرہ: مطبعة المصطفیٰ البابی الحلبي، ۱۳۵۵ھ، ق)، ج ۲، ص ۱۴۳، ابن شہر آشوب، معز شتہ حوالہ، ص ۱۸۶۔

5 ابن واضح، تاریخ یعقوبی (نجف: المکتبۃ الحیدریہ، ۱۳۸۴ھ، ق)، ج ۲، ص ۳۴۔

پیغمبر اسلام ان کی خبر گیری فرماتے تھے اور جہاں تک ہو سکتا، ان کے لئے کھانے کی چیزیں فراہم کرتے تھے اور انصار کے سرمایہ داروں کو ان کی مدد کے لئے تشویق کرتے تھے۔

مسلمانوں کا یہ طبقہ جو انقلابی، مومن اور خوبیوں کا مالک تھا ”اصحاب الصفہ“ کے نام سے معروف ہوا۔¹

اس گروہ کی تعداد ہمیشہ گھٹتی بڑھتی رہتی تھی۔ جن کے رہنے کا انتظام ہو جاتا تھا وہاں سے چلے جاتے تھے اور دوسرے نئے افراد آکر ان میں شامل ہو جاتے تھے۔²

عام معاہدہ

پیغمبر اسلام نے مدینہ میں قیام کے بعد ضرورت محسوس کی کہ لوگوں کی اجتماعی حالت کو منظم کریں؛ کیونکہ آپ کے بلند اہداف کی تکمیل کے لئے شہر کی تنظیم ضروری تھی جبکہ اس وقت مدینہ کی آبادی کی ترکیب غیر مناسب تھی۔ عرب کے متعدد گروہ اس شہر میں رہتے تھے اور ان میں سے ہر فرد دو بڑے قبیلہ اوس و خزرج میں سے کسی ایک سے تعلق رکھتا تھا۔

یہودی بھی اسی شہر میں ان کے اطراف میں بسے ہوئے تھے اور ان سے تعلقات رکھتے تھے اور اب مکہ کے مسلمان بھی ان میں اکثر بڑھ گئے تھے اس عالم میں ممکن تھا کہ کوئی حادثہ پیش آجائے اسی وجہ سے پیغمبر اسلام کی تدبیر سے ایک بیان نامہ لکھا گیا جسے اسلام میں ”پہلا اساسی قانون“ یا سب سے بڑی قرارداد اور تاریخی دستاویز کہا گیا۔

اس قرارداد نے مدینہ میں رہنے والے مختلف گروہوں کے حقوق معین کئے اور یہ قانون شہری آبادی میں مسالمت آمیز زندگی اور ان کے درمیان نظم و عدالت کو برقرار رکھنے کا ضامن بنا اور ہر طرح کے ہنگامے اور اختلاف کے جنم لینے سے مانع بنا۔ اس عہد نامہ کے چند اہم بند یہ تھے:

۱۔ مسلمان اور یہودی³ ایک امت ہیں۔

۲۔ مسلمان اور یہودی اپنے دین کی پیروی میں آزاد ہیں۔

1 ابن سعد، مغازی، ج ۱، ص ۲۵۵؛ نور الدین السمودی، وفاء الوفاء، باخبار دار المصطفیٰ (بیروت: دار احیاء التراث العربی، ط ۳، ۱۴۰۱ھ، ق)، ج ۲، ص ۴۵۸-۴۵۳؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۱، ص ۸۱؛ ج ۲، ص ۶۶، ۱۱۸، ۳۱۰، ۴۰، ص ۱۲۹-۱۲۸، ج ۲، ص ۳۸؛ رجوع کریں: مجمع البیان، ج ۲، ص ۳۸۶، تفسیر آیہ: ”للفقراء الذین احصوا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضرباً فی الارض...“ (سورہ بقرہ، آیت ۲۷۳) و عبدالحلیم، التراتیب الاداریہ، ج ۱، ص ۴۸۰-۴۷۳۔
2 ابو نعیم اصفہانی، حلیۃ الاولیاء (بیروت: دار الکتب العربی، ط ۲، ۱۳۸۷ھ، ق)، ج ۱، ص ۳۴۰-۳۳۹؛ ابو نعیم نے اصحاب صفہ کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ (حلیۃ الاولیاء، ج ۱، ص ۳۸۵-۳۴۴) اس نے اس گروہ کی تعداد ۵۱ افراد بتائی ہے اور ان میں سے ہر ایک کا ذکر کیا ہے۔ (ان میں کچھ عورتوں کے نام بھی ملتے ہیں)۔ لیکن ان میں سے کچھ کو اصحاب صفہ میں شمار نہیں کیا ہے۔ جن افراد کو ابو نعیم نے اس گروہ میں شمار کیا ہے۔ وہ یہ ہیں: بلال، براء بن مالک، جندب بن جنادہ، حذیفہ بن یمان، جناب بن الارت، ذوالجین، (عبداللہ) سلمان، سعید بن ابی وقاص، سعد بن مالک، (ابو سعید خدری) سالم (مولا ابی حذیفہ) اور عبداللہ بن مسعود۔

3 یہاں پر یہودی سے مراد، بنی عمرو بن عوف اور مدینہ کے تمام مقامی یہودی ہیں لیکن یہودیوں کے تین قبیلے، بنی قینقاع، بنی نضیر، اور بنی قریظہ سے پیغمبر اسلام نے الگ بیان کیا تھا جس کی تفصیل آئندہ بیان ہوگی۔

۳۔ قریش کے مہاجرین، اسلام سے قبل اپنی سابق رسم (یعنی خون بہا دینے) پر باقی رہیں گے اگر ان کا کوئی فرد کسی کو قتل کرے یا اسیر ہو تو عدالت اور خیر خواہی کے جذبہ کے تحت سب مل کر اس کا خون بہادیں اور فدیہ دے کر اسے آزاد کرائیں۔

۴۔ بنی عمرو بن عوف (انصار کا ایک قبیلہ) اور تمام دوسرے قبیلہ بھی خون بہا اور فدیہ کے سلسلہ میں اسی طرح عمل کریں۔

۵۔ کوئی یہ حق نہیں رکھتا ہے کہ کسی کے غلام، فرزند یا خاندان کے کسی دوسرے فرد کو بغیر اس کی اجازت کے پناہ دے۔

۶۔ اس عہد نامہ پر دستخط کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ سب مل کر شہر مدینہ کا دفاع کریں۔

۷۔ مدینہ ایک مقدس شہر ہے اس میں ہر طرح کا خون خرابہ حرام ہوگا۔

۸۔ اس عہد نامہ پر دستخط کرنے والوں میں اگر کبھی اختلاف پیدا ہوا تو اس اختلاف کو دور کرنے والے محمدؐ ہوں گے۔¹

سلسلہ حوادث کا تجزیہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیان (جو پیغمبرؐ کے مدینہ آنے کے ابتدائی مہینوں میں انجام پایا تھا)² شہر کے امن و سکون میں موثر ثابت ہوا؛ کیونکہ ۲ھ تک یعنی جنگ بدر کے بعد تک ”بنی قینقاع“ کی فتنہ پردازیوں کی بنا پر اس قبیلہ سے جو جنگ ہوئی، کوئی کشیدگی اہل مدینہ کے درمیان نقل نہیں ہوئی ہے۔

مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارگی کا معاہدہ

ہجرت کے پہلے سال³ پیغمبر اکرمؐ نے دوسرا اہم اجتماعی اقدام یہ کیا کہ مہاجرین و انصار کے درمیان رشتہ اخوت و برادری برقرار کیا۔ ماضی میں مسلمانوں کے ان دو گروہوں میں پیشہ اور نسل کے لحاظ سے تفاوت اور کشمکش پائی جاتی تھی؛ کیونکہ انصار، جنوب (یمین) سے ہجرت کر کے آئے تھے اور ان کا تعلق ”قحطانی“ نسل سے تھا۔ اور مہاجرین، عرب کے شمالی حصہ سے آئے اور ان کا تعلق ”عدنانی“ نسل سے تھا اور دور جاہلیت میں، ان دونوں کے درمیان نسلی کشمکش پائی جاتی تھی۔

دوسری طرف سے انصار کا مشغلہ کاشتکاری اور باغبانی تھا۔ جبکہ مکہ کے عرب، تاجر تھے اور کاشتکاری کو ایک پست مشغلہ سمجھتے تھے۔ اس سے قطع نظر یہ دونوں گروہ دو الگ ماحول کے پروردہ تھے اور اب نور اسلام کے سبب آپس میں دینی بھائی ہو گئے تھے۔⁴ اور ایک ساتھ مدینہ میں رہتے تھے۔ لہذا اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں قدیمی عصبیت نہ بھڑک اٹھے کیونکہ مسلمانوں کے ان دو گروہوں میں گزشتہ افکار و خیالات اور

1 ابن ہشام، سابق، ج ۲، ص ۱۵۰۔ ۱۳۷: اس عہد نامہ کے بندوں سے تفصیلی آگاہی کے لئے رجوع کریں: فروغ ابدیت، ج ۱، ص ۴۶۵۔ ۱۶۲

2 اسلامی مورخین نے اس عہد و بیان کی تنظیم مدینہ میں پیغمبر اکرمؐ کے پہلے خطبہ کے بعد نقل کی ہے لہذا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلامؐ کا مدینہ میں اس عہد و بیان کا منعقد کرنا آپ کے ابتدائی اقدامات کا جز تھا۔

3 ہجرت کے پانچ یا آٹھ مہینے بعد (سمودی گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۶۸؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۹، ص ۱۳۰، حاشیہ مقریزی کے نقل کے مطابق)

4 ”انما المؤمنون اخوة“ سورہ حجرات، آیت ۱۰۔

کچھر کے اثرات ابھی بعض لوگوں کے ذہنوں میں باقی رہ گئے تھے۔ لہذا پیغمبر اسلام نے ان دو گروہوں کے درمیان رشتہ اخوت و برادری برقرار کیا اور ہر مہاجر کو، انصار میں سے کسی ایک کا بھائی¹ بنایا اور علی کو اپنا بھائی بنایا۔²

البتہ مہاجرین و انصار کے درمیان رشتہ اخوت و برادری برقرار کرنے میں ایمان و فضیلت کے لحاظ سے ایک طرح کے تناسب اور برابری کا لحاظ رکھا گیا³ اور پیغمبر اسلام کا رشتہ اخوت علی سے قائم ہوا جبکہ دونوں مہاجر تھے لہذا اس زاویہ نظر سے یہ بات قابل توجیہ و تاویل ہے۔

یہ عہد و پیمان مہاجروں اور انصار کے درمیان مزید اتحاد و اتفاق کا باعث بنا جیسا کہ انصار نے پہلے سے زیادہ، مہاجروں کی مالی امداد کے لئے تیار ہو گئے۔ اور مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر ”بنی نضیر“ نے مہاجروں کی خاطر اپنے حق کو نظر انداز کر دیا۔⁴ اور بارگاہ پیغمبرؐ میں مہاجروں کی طرف سے ان کی کوششوں کا شکریہ، پیغمبرؐ کے لئے حیرت آور تھا۔⁵ خداوند عالم نے اس موقع پر انصار کی ایثار گری کو اس طرح سراہا ہے۔

”یہ مال ان مہاجر فقراء کے لئے بھی ہے جنہیں ان کے اموال سے محروم اور گھروں سے نکال باہر کر دیا گیا ہے اور وہ صرف خدا کے فضل اور اس کی مرضی کے طلبگار ہیں اور خدا اور رسول کی مدد کرنے والے ہیں کہ یہی لوگ دعوائے ایمان میں سچے ہیں۔ اور جن لوگوں نے دارالہجرت اور ایمان کو ان سے پہلے اختیار کیا تھا وہ ہجرت کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں اور جو کچھ انھیں دیا گیا ہے اپنے دلوں میں اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں اور اپنے نفوس پر دوسروں کو مقدم کرتے ہیں، چاہے انہیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ اور جسے بھی اس کے نفس کی حرص سے بچا لیا جائے وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔“⁶

صحرا نشینوں کا مزاج دو طریقے کا تھا ایک طریقہ ان کا یہ تھا کہ وہ اپنے قبیلہ کے اندر اپنے اعزاء و اقرباء کی مدد و نصرت کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے ان کی اس خصوصیت کو اسلامی وحدت اور اتفاق کی راہ میں استعمال کیا (کہ مہاجروں کے ساتھ انصار کی ایثار و قربانی اس کا ایک جلوہ ہے)

1 ابن ہشامؒ، مغازتہ حوالہ، ج ۲، ص ۱۵۰؛ ابن سعدؒ، مغازتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۳۸؛ حلبیؒ، مغازتہ حوالہ، ج ۲، ص ۲۹۲؛ مجلسیؒ، مغازتہ حوالہ، ج ۱۹، ص ۱۳۰؛ یہ دینی برادری اور دینی تعاون کی بنیاد پر تھی جیسا کہ روایت میں بیان ہوا ہے کہ اخي رسول اللہ بين الانصار والمهاجرين اخوة الدين (طوسیؒ، امالیؒ، قم: دارالافتاء، ۱۴۱۲ھ، ق) ص ۵۸۷۔

2 ابن ہشام ہگزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۱۵۰؛ عسقلانی، الاصابہ تمییز الصحابہ (بیروت: دار احیاء التراث العربی، ط ۱۳۲۸ھ، ق) ج ۲، ص ۵۰۷؛ الشیخ سلیمان القدوری الخفنی، ینایع المودۃ (بیروت: مؤسسۃ العلمی المطبوعات)، ج ۱، باب ۹، ص ۵۵؛ سبط ابن الجوزی، تذکرۃ النحواص (نجف: المطبعۃ الحیدریہ، ۱۳۸۳ھ، ق) ص ۲۰، ۲۲ اور کتاب فضال میں احمد ابن حنبل کی نقل کے مطابق؛ ابن عبدالبر، الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب (الاصابہ کے حاشیہ) ج ۳، ص ۳۵؛ حلبی ہگزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۲۹۲؛ سمہودی ہگزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۶۸؛ المظفر، دلائل الصدق (قم: مکتبۃ بصیری) ج ۲، ص ۲۷۱-۲۶۸۔

3 شیخ سلیمان قندوزی مگزشتہ حوالہ، ج ۱، باب ۹، ص ۵۵ احمد حنبل کے نقل کے مطابق؛ ابینی، الغدير، ج ۳، ص ۱۱۲، مرتضى العالمی، ۱، الصحیح من سيرة النبی الاعظم، ۱۴۰۳ھ. (ق.) ج ۳، ص ۶۰؛ طوسی، الامالی، ص ۵۸۔ وہ حدیثیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ اس عہد و پیمان میں حضرت علیؑ کی اخوت رسول خداؐ کے ساتھ برقرار ہوئی ہے وہ حدیث شناسی کے معیار کے مطابق قابل انکار نہیں ہیں۔ اس بنا پر ابن تیمیہ اور ابن کثیر کی باتیں اس سلسلہ میں ان کے خاص جذبہ اور فکر کی دین ہے اور علمی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ رجوع کریں: الغدير، ج ۳، ص ۱۲۵-۱۱۲، ۱۴۷-۲۲۷، وج ۷، ص ۳۳۶۔

4 وادئى المغازى، تحقيق: مارسدن جانس، (بيروت: مؤسسة الاعلمى للمطبوعات)، ج ١، ص ٤٩٣؛ ابن شبه، تاريخ المدينة المنورة، تحقيق: فهد محمد شلتوت (قم: دار الفكر، ١٤١٠هـ. ق)، ج ٢، ص ٢٨٩.

5 مسند احمد، ج ۳، ص ۲۰۴؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۲۹۲؛ ابن کثیر، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۲۲۸؛ ابن شہہ، گزشتہ حوالہ، ص ۲۹۰۔

6 سورة حشر، آیت ۹-۸۔

اور ان کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ان کے مزاج میں بیگانہ افراد سے جنگ و جدال کرنا تھا۔ پیغمبر اکرمؐ نے ان کے اس جذبہ کو دشمنان اسلام سے جنگ کرنے میں اور ان کے حملوں کا دفاع کرنے میں استعمال کیا۔^۱

یہودیوں کے تین قبیلوں کے ساتھ امن معاہدہ

پیغمبر اسلامؐ نے عمومی عہد و پیمان کے علاوہ، (جس میں اوس و خزرج کے علاوہ یہودیوں کے یہ دو قبیلے بھی شریک تھے) یہودیوں کے تینوں قبیلوں بنی قینقاع، بنی نضیر اور بنی قریظہ میں سے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ عہد و پیمان کیا کہ جس کو ”پیمان عدم تجاوز“ کا نام دیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ اس سے قبل بیان کر چکے ہیں کہ یہ تینوں قبیلے مدینہ اور اس کے اطراف میں زندگی بسر کرتے تھے اور یہ لوگ اس پیمان میں پابند ہوئے تھے کہ مندرجہ ذیل چیزوں پر عمل کریں گے:

۱۔ مسلمانوں کے دشمن کی مدد نہیں کریں گے اور ان کو اسلحہ، سواری اور جنگی وسائل نہیں دیں گے۔

۱ ”محمد رسول اللہ و الذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم“ (سورۃ فتح، آیت ۲۹)

یہودیوں کے ان تین قبیلوں کے اصلی وطن اور نسب کے بارے میں مورخین کے درمیان اتفاق نظر نہیں پایا جاتا اس سلسلہ میں تاریخی اخبار و اسناد کی آشفتگی اور تناقض کے باعث، حقیقت کی تعیین بہت مشکل و دشوار ہو گئی ہے۔ مشہور یہ ہے کہ جب شام میں یہودیوں کے اوپر، شہنشاہ روم کی جانب سے سختی اور دباؤ بڑھا تو وہ جزیرۃ العرب کی سمت مدینہ میں چلے گئے اور وہاں جا کر بس گئے۔ (معجم البلدان، ج ۵، ص ۸۴، لغت مدینہ، وفاء الوفاء، ج ۱، ص ۱۶۰) فخطانی (اوس و خزرج) مارب بند ٹوٹنے کے بعد وہاں گئے اور اس کے کنارے جا کر بس گئے۔

معجم البلدان، ج ۱، ص ۳۶؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، (بیروت: دار صادر، ج ۱، ص ۶۵۶) اور جیسا کہ اس سے قبل ہم بیان کر چکے ہیں کہ ان دو گروہوں کے درمیان آپس میں کشمکش پائی جاتی تھی۔ لیکن کچھ مورخین کا عقیدہ ہے کہ وہ جزیرۃ العرب کے مقامی عرب تھے اور یہودیوں کی تبلیغات کے نتیجہ میں اس دین کو انھوں نے اپنالیا تھا۔ (احمد سوسہ، مفصل العرب والیہود فی التاریخ، (وزارۃ الثقافۃ و الاعلام العراقیہ، ط ۵، ۱۹۸۱ عیسوی) ص ۶۲۹-۶۲۹) اور بعض دوسرے مورخین کا کہنا ہے کہ مدینہ میں یہودیوں کے بسنے کی تاریخ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں بتائی گئی ہے جو ایک افسانہ اور من گڑھت قصہ ہے (معجم البلدان، ج ۵، ص ۸۴، وفاء الوفاء، ج ۱، ص ۱۵۷) اور بعض تاریخی کتابوں و نیز کچھ روایات میں یہ نقل ہوا ہے کہ ان کو پیغمبرؐ کی نشانیوں کے سلسلہ میں جو آگاہی تھی اس کی بنا پر وہ آپ کے محل ہجرت کی تلاش میں، فدک، خیبر، تہاء اور یثرب (مدینہ) گئے اور وہاں جا کر بس گئے۔ (معجم البلدان، ج ۵، ص ۸۴، وفاء الوفاء، ج ۱، ص ۱۶۰؛ کلینی، الروضۃ من الکافی، ص ۳۰۹؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۵، ص ۲۲۶) یہ مفہوم، پہلے نظریہ کے مطابق اور اس کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ بات ممکن ہے کہ وہ لوگ روم کے دباؤ کے بعد، پیغمبر اسلامؐ کے عنقریب مبعوث ہونے کے سلسلہ میں جو خبریں رکھتے تھے) اس کی بنا پر وہ اس علاقہ کی طرف چلے گئے ہوں اور روایتیں بھی اس مطلب کی تائید کرتی ہیں۔ (عبد القادر بدران، تہذیب تاریخ دمشق، تالیف ابن عساکر، (بیروت: دار احیاء التراث العربی، ط ۳، ۱۴۰۷ھ، ج ۱، ص ۳۵۱؛ وفاء الوفاء، ج ۱، ص ۱۶۰) یہودیوں کے ان تین قبیلوں کے نسب کے بارے میں بھی (گزشتہ حاشیہ کا بقیہ)۔ اختلاف نظر پایا جاتا ہے کہ کیا یہ بنی اسرائیل کے یہودیوں میں سے تھے یا عرب نسل کے تھے؟ کچھ لوگ دوسرے نظریہ پر زور دیتے ہیں۔ (احمد سوسہ، گزشتہ حوالہ، ص ۶۲۷)۔ یعقوبی بھی قبیلہ بنی نضیر اور بنی قریظہ کو، نسل عرب سے قرار دیتا ہے۔ (تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۴۲-۴۰: رجوع کریں: وفاء الوفاء، ج ۱، ص ۱۶۲) شاید یہ کہا جاسکتا ہے۔ قرآن کی متعدد آیات میں یہودیوں کو ”بنی اسرائیل“ کے عنوان سے خطاب کیا گیا ہے جو کہ جزیرۃ العرب کے یہودیوں پر بھی صادق آتا تھا اور نیز پیغمبر اسلامؐ سے یہودیوں کی مخالفت اس نسلی جذبہ کے تحت کہ وہ بنی اسرائیل سے نہیں ہیں اور اسی طرح عرب کے علمائے نسب کی جانب سے ان کے نسب کو بیان نہ کیا جانا (جبکہ ان کا سارا دار و مدار قبائل عرب کے نسب کی حفاظت پر تھا) ایسا قرینہ ہے جو پہلے نظریہ کے درست ہونے کو بتاتا ہے۔ بہر حال چونکہ اس سلسلہ میں مزید تنقید و تحقیق اس کتاب کے دائرہ سے باہر ہے لہذا اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔

۲۔ پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے ضرر میں کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اور علی الاعلان اور چھپ کر کسی طرح سے انھیں ضرر نہیں پہنچائیں گے۔

۳۔ اگر اس معاہدہ کے برخلاف انھوں نے عمل کیا تو پیغمبر اسلام کو ہر طرح کی سزا دینے کا حق ہے چاہے وہ ان کو قتل کریں یا ان کی عورتوں اور بچوں کو اسیر کریں یا ان کی جائیداد ضبط کر لیں۔

اس معاہدہ پر ترتیب وار تینوں قبیلوں کے سرداروں نے یعنی ”مخیر بقی“ حنی بن اخطب، اور کعب ابن اسد“ نے دستخط کئے۔¹

گویا اس وقت یہودیوں کو مسلمانوں کی طرف سے خطرے کا احساس نہیں تھا۔ یا اپنے لئے بے طرفی بہتر سمجھتے تھے اور سوچتے تھے کہ اسلام کے دوسرے دشمن، مسلمانوں کی شکست کے لئے کافی ہیں۔ لہذا اس طرح کے عہد و پیمان کے کرنے میں وہ پیش قدم تھے۔²

ان اقدامات کی وجہ سے مدینہ اور اس کے اطراف کا ماحول پر امن ہو گیا تھا اور پیغمبر اسلام فتنہ و آشوب سے بے فکر ہو گئے تھے۔ اور وقت اس بات کا آ گیا تھا کہ قریش کے خطرے سے مقابلہ کرنے کے لئے کوئی چارہ اور تدبیر اپنائیں اور ایک نئے معاشرے کی بنیاد کے مقدمات فراہم کریں۔

منافقین

یہودیوں کے گروہ کے علاوہ دوسرے گروہ بھی پیغمبر کی ہجرت کے بعد مدینہ میں وجود میں آئے کہ قرآن نے ان کو ”منافقین“ کہا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو بظاہر اپنے کو مسلمان کہتے تھے لیکن درحقیقت یہ بت پرست³ اور ان میں بعض یہودی⁴ تھے۔

ان لوگوں نے جب اسلام کی روز بروز بڑھتی ہوئی قدرت کو دیکھا اور علی الاعلان مقابلہ کرنے سے عاجز ہو گئے تو بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر خود کو مسلمانوں کی صفوں میں داخل کر دیا۔

1 طبری، اعلام الوری باعلام الہدیٰ (تہران: دار الکتب الاسلامیہ، ط ۳)، ص ۶۹؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۹، ص ۱۱۱۔ ۱۱۰؛ رجوع کریں: واقفی، مغازی، ج ۱، ص ۱۷۶، ۳۶۵، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰

منافقین، یہودیوں سے راز و نیاز رکھتے تھے اور چھپ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ ان کا سرغنہ اور لیڈر عبد اللہ ابن ابی تھا جس کے بارے میں ہم کہہ چکے ہیں کہ مدینہ میں اس کی رہبری کے مقدمات فراہم ہو چکے تھے لیکن پیغمبر اسلام کے تشریف لانے سے مدینہ کے سیاسی حالات بدل گئے اور وہ اس مقام پر پہنچنے سے محروم ہو گیا۔ اور اس کے دل میں پیغمبر کے لئے کینہ و حسد پیدا ہو گیا۔¹

منافقین کی تخریب کاریاں اس قدر زیادہ تھیں کہ قرآن نے مختلف سوروں میں جیسے، بقرہ، آل عمران، توبہ، نساء، مائدہ، انفال، عنکبوت، احزاب، فتح، حدید، منافقون، حشر و تحریم میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، لہذا پیغمبر کی لڑائی اس گروہ سے، مشرکوں اور یہودیوں سے زیادہ مشکل اور سخت تھی۔ کیونکہ وہ مسلمانوں کے سامنے، اپنے کو مسلمان بتاتے تھے لہذا پیغمبر اکرم اسلام کے ظاہری حکم کے تحت ان سے جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ اسلام کے خلاف اس گروہ کی خراب کاریاں، منظم طریقے سے ایک گروپ کی شکل میں، عبد اللہ ابن ابی کی موت (۹ھ)² تک اسی طرح جاری رہیں۔ لیکن اس کے بعد سست اور بہت کم ہو گئیں۔

1 ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۲۳۸-۲۳۷؛ بیہقی، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۱۶۵؛ نویری، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۳۸؛ ابن شبہ، تاریخ المدینۃ المنورۃ، تحقیق: فہیم محمد شلتوت (تم: دار الفکر، ۱۴۱۰ھ ق)، ج ۱، ص ۳۵۷؛ احمد زینی دحلان، السیرۃ النبویہ والآثار المحمدیہ (بیروت: دار المعرفہ، ۲۰۰۲)، ج ۱، ص ۱۸۴۔
2 مسعودی، التنبیہ والاشراف (قاہرہ: دار الصاوی للطبع والنشر)، ص ۲۳۔

تیسری فصل

یہودیوں کی سازشیں

یہودیوں کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزیاں

یہودی (مسیحیوں کی طرح) پیغمبر کے عنقریب، مبعوث ہونے سے آگاہ تھے۔ قرآن مجید کے بقول ”اہل کتاب“ پیغمبر اسلام کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے تھے¹ اور انھوں نے جن اوصاف اور نشانیوں کو توریت اور انجیل میں پڑھ رکھا تھا، ان کو آنحضرتؐ کے اندر منطبق پاتے تھے۔²

اس بنا پر امید یہ تھی کہ یہ لوگ اوس و خزرج سے پہلے مسلمان ہو جائیں گے کیونکہ جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ اسلام کی طرف ان دو قبیلوں کے رجحانات کا ایک سبب یہ تھا کہ یہودیوں نے پیغمبر اسلام کی بعثت کے بارے میں جو پیشین گوئیاں کر رکھی تھیں وہ ”وارثت“ کی صورت میں تھیں۔ لیکن ان میں سے صرف چند افراد نے اسلام قبول کیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دین پر قائم تھے، ہجرت کے ابتدائی سالوں میں ان کے روابط مسلمانوں سے ٹھیک تھے اور اس چیز پر شاہد: ان کا وہ معاہدہ ہے جو ”عدم تجاوز“ کے عنوان سے پیغمبر اسلام کے ساتھ کیا گیا تھا۔ لیکن ابھی کچھ دن نہیں گزرے تھے کہ انھوں نے اپنا رویہ بدل دیا اور مخالفت پر اتر آئے ان کی ایک شرارت یہ تھی کہ پیغمبر اسلام کے صفات کو چھپاتے یا بدل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں پیغمبر کے صفات اپنی کتابوں میں نہیں ملے ہیں اور اس کے صفات، اس پیغمبر کے صفات نہیں ہیں جو آنے والا ہے۔³

قرآن نے ان کے اس رویہ اور طرز عمل کی مذمت کی ہے :

”اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے کتاب آئی جو ان کے توریت وغیرہ کی تصدیق بھی کرنے والی ہے اور اس کے پہلے وہ دشمنوں کے مقابلے میں اسی کے ذریعہ طلب فتح بھی کرتے تھے لیکن اس کے آتے ہی منکر ہو گئے حالانکہ اسے پہچانتے بھی تھے تو اب کافروں پر خدا کی لعنت ہے۔“⁴

1 سورہ بقرہ، آیت ۱۲۶؛ سورہ انعام، آیت ۲۰.

2 سورہ اعراف، آیت ۱۵۷؛ سورہ آل عمران، آیت ۸۱؛ سورہ انعام، آیت ۱۱۴؛ سورہ قصص، آیت ۵۲.

3 حلبی، غزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۲۰؛ بیہقی، ج ۲، ص ۱۸۶؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب (قم: المطبعة العلمیہ)، ج ۱، ص ۵۱؛ واقدی، المغازی، ج ۱، ص ۳۶۷.

4 سورہ بقرہ، آیت ۸۹.

یہودی مختلف طریقے سے مخالفت اور شرارتیں کرتے تھے ان میں سے کچھ یہ ہیں :

- ۱۔ نامعقول اور غیر منطقی چیزوں کی فرمائش کرتے تھے جیسے وہ مطالبہ کرتے تھے کہ ان کیلئے آسمان سے کوئی کتاب یا (نامہ) نازل ہو۔¹
- ۲۔ الٹے سیدھے اور پیچیدہ دینی سوالات کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کے ذہن پریشان اور چکرا جائیں۔ اگرچہ تمام جگہوں پر پیغمبر اسلام نے متقن اور واضح جوابات دیئے لیکن اس کا نتیجہ وہ برعکس نکالتے تھے۔
- ۳۔ مسلمانوں کی ایمانی اور اعتقادی بنیادوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے تھے جیسا کہ وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے : (جاؤ اور بظاہر) جو کچھ مومنوں پر نازل ہوا ہے اس پر صبح کو ایمان لے آؤ اور شام کو انکار کر دو (اور پلٹ آؤ) شاید اس طرح وہ لوگ بھی پلٹ جائیں۔³
- ۴۔ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالنے کی کوشش کرتے تھے جیسا کہ ان میں سے ایک شخص جس کا نام شائس بن قیس تھا وہ چاہتا تھا کہ اوس و خزرج کے درمیان پرانے کینہ و حسد کو جگا کر لڑائی جھگڑے اور جنگ کی آگ کو شعلہ ور کر دے لیکن پیغمبر اسلام کے بروقت اقدام سے یہ سازش ناکام ہو گئی۔⁴

یہودیوں کی مخالفت کے اسباب

- یہودی دراصل ایک منافع پرست، لالچی⁵، ہٹ دھرم اور بہانہ باز لوگ تھے۔ قرآن مجید نے یہودیوں اور مشرکوں کو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے۔⁶ کیونکہ یہ دونوں گروہ، صاحب منطق اور استدلال نہیں تھے۔ اپنی کینہ توزی کے باعث ہر طرح کی مخالفت اور خلاف ورزی سے باز نہیں آتے تھے یہودیوں کی اسلام سے مخالفت کے اسباب و علل کو چند چیزوں میں خلاصہ کیا جاسکتا ہے :
- ۱۔ یہودیوں کی متعصب فکریں پیغمبر اسلام پر رشک کرتی تھیں لہذا وہ کسی ایسے کی پیغمبری کو قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھے جو ان کی نسل سے نہ ہو۔⁷

1 سورہ نساء، آیت ۱۵۳؛ سورہ آل عمران، آیت ۱۸۳۔

2 ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۱۶۰؛ ابن شہر آشوب، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۵۴؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۲۲-۳۲۱؛ زینی دحلان، السیرۃ النبویہ والاثار المحمدیہ (بیروت: دار المعرفہ)، ج ۱، ص ۱۸۰-۱۷۸۔

3 سورہ آل عمران، آیت ۷۲۔

4 ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۲۰۴؛ گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۳۲۰-۳۱۹۔

5 ”ولتجدنہم احرص الناس علی حیوۃ...“ (سورہ بقرہ، آیت ۹۶)

6 سورہ مائدہ، آیت ۸۲۔

7 سورہ بقرہ، آیت ۱۰۹؛ سورہ نساء، آیت ۵۴؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۱۶۰؛ زینی دحلان، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۷۶؛ واقفی، المغازی، ج ۱، ص ۳۶۵۔

۲۔ وہ لوگ (یہودی) نفوذ اسلام سے قبل مدینہ میں اقتصادی اور سماجی لحاظ سے اچھی پوزیشن رکھتے تھے کیونکہ وہ کاروبار، صنعت، کاشتکاری¹ اور رہائشی² کے ذریعہ شہر کے اقتصاد کو اپنے کنٹرول میں لئے ہوئے تھے۔

دوسری طرف سے اوس و خزرج کے درمیان اختلافات ڈال کر ان کی قدرت و طاقت کو کمزور کر دیا تھا۔ اور بنی قینقاع، خزرجیوں کے ساتھ رہ کر، اور بنی نضیر اور بنی قریظہ، اوسیوں کے ساتھ رہ کر اختلافات اور قبائلی جنگ کی آگ ان کے درمیان بھڑکا چکے تھے۔³

ہجرت کے بعد اوس و خزرج پرچم اسلام کے زیر سایہ اکٹھا ہو گئے اور اسلام کی روز بروز بڑھتی ہوئی قدرت و طاقت کا وہ احساس کرنے لگے اور تصور کرتے تھے کہ بہت جلد علاقہ پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے گی اور وہ اپنا مقام کھو بیٹھیں گے اور یہ چیز ان کے تحمل سے باہر تھی۔

۳۔ علمائے یہود وہاں کے سماج میں اپنا ایک بڑا مقام اور درجہ رکھتے تھے اور عام لوگ بغیر قید و شرط کے ان کی پیروی اور اطاعت کرتے تھے۔ یہاں تک جو احکام وہ خدا کے حکم کے برخلاف کہتے تھے اسے بھی آنکھ بند کر کے وہ قبول کر لیتے تھے۔⁴ اور اس سے قطع نظر، ان کے آمدنی کا ذریعہ تھے تحائف اور خیرات وغیرہ تھیں جسے عام یہودی توریت کی پاسداری اور محافظت کے عنوان سے دیتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ ڈرتے تھے کہ اگر یہودیوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو یہ آمدنی ختم ہو جائے گی۔⁵

۴۔ وہ لوگ، جناب جبرئیل کے ساتھ (جو کہ خدا کا پیغام لے کر پیغمبر اسلام پر نازل ہوتے تھے) دشمنی کرتے تھے⁶ اور اس بات کو بہانہ قرار دیکر آنحضرتؐ کی مخالفت کرتے تھے۔

۵۔ قرآن مجید یہودیوں کے بہت سارے عقائد و اعمال اور توریت کی تعلیمات کو باطل قرار دیتا ہے⁷ اور بہت سارے احکام اور پروگراموں میں یہودیوں کی مخالفت کرتا ہے۔⁸

1 بنی قینقاع زرگری (زیورات) کا کام کرتے تھے (مونٹ گری واٹ، محمد فی المدینہ، تعریب: شعبان برکات، بیروت: المكتبة العصرية) اور ایک بازار ان کے نام کا مدینہ میں موجود تھا (ابن شہبہ، تاریخ المدینہ المنورہ، تحقیق: فہیم محمد شلتوت، قم: دار الفکر، ج ۱، ص ۳۰۶، یا قوت حموی، معجم البلدان، ج ۴، ص ۴۲۴، اور بنی نضیر اور بنی قریظہ نے اطراف مدینہ میں قلعے اور کالونیاں بنا رکھی تھیں و کاشت کاری اور باغ داری کا کام کرتے تھے۔ (یا قوت حموی، گزشتہ حوالہ، ج ۱، کلمہ بنی نضیر اور بطان، نور الدین السمودی، وفاء الوفاء، باخبردار المصطفیٰ، (بیروت: دار احیاء التراث العربی، ط ۳، ۱۴۰۱ھ، ق) ج ۱، ص ۱۶۱)۔

2 سورہ نساء، آیت ۱۶۱۔

3 سورہ نساء، آیت ۱۶۱۔

4 سورہ توبہ، آیت ۳۱۔

5 سورہ بقرہ، آیت ۷۹؛ سورہ آل عمران، آیت ۱۸۷؛ سورہ توبہ، آیت ۳۴؛ بیہقی، دلائل النبوة، ترجمہ: محمود مہدوی دامغانی (تہران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۱) ج ۲، ص ۱۸۷-۱۸۶۔

6 سورہ بقرہ، آیت ۹۸؛ ابن سعد، طبقات الکبریٰ، (بیروت: دار صادر) ج ۱، ص ۱۷۵؛ حلبی، السیرۃ الخلیبیہ، (انسان العیون) (بیروت: دار المعرفہ) ج ۱، ص ۳۲۹۔

7 سورہ نساء، آیت ۳۶-۱۵۸-۱۵۵؛ سورہ توبہ، آیت ۳۰۔

8 مرتضیٰ العالی، الصیحیح من سیرۃ النبی الاعظم، ۱۴۰۳ھ، ق) ج ۳، ص ۱۰۶؛ رجوع کریں:

صحیح بخاری، شرح و تحقیق: الشیخ قاسم الشامی الرفاعی (بیروت: دار القلم، ط ۱، ۱۴۰۷ھ، ق) ط ۷، باب ۴۸۶، حدیث ۱۱۸۸؛ صحیح مسلم، بشرح النووی، ج ۱۴، ص ۸۰۔

اس موضوع کا تعلق گزشتہ زمانہ سے ہے؛ ظہور اسلام سے قبل، اہل کتاب، ثقافتی لحاظ سے بت پرستوں کے مقابلے میں بلند درجہ رکھتے تھے اور مشرکین ان کو احترام کی نظروں سے دیکھتے تھے۔¹

ظہور اسلام کے بعد بھی یہ ذہنیت کم و بیش باقی تھی۔ اس بنا پر مدینہ کے مسلمان کبھی دینی مسائل کے بارے میں ان سے سوالات کر لیتے تھے اور وہ توریت کی باتوں کو عربی میں مسلمانوں کے لئے تفسیر کرتے تھے۔ جبکہ ان کی مذہبی معلومات زیادہ غلط اور تحریف شدہ ہوتی تھیں۔ اس وجہ سے پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی کہ اہل کتاب کی باتوں کی تصدیق نہ کریں۔²

آنحضرتؐ نے ایک دن عمر بن خطاب سے فرمایا: اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر خود حضرت موسیٰؑ زندہ ہوتے تو وہ میری پیروی کرتے³ اس طرح کے مسائل نے یہودیوں کی دشمنی کو بڑھا دیا تھا۔ لہذا وہ کہتے تھے کہ یہ شخص ہمارے تمام پروگراموں کی مخالفت کرنا چاہتا ہے۔⁴

قبلہ کی تبدیلی

پیغمبر اسلامؐ مکہ میں اپنی مدت اقامت کے دوران اور ہجرت کے بعد کچھ عرصے تک حکم خدا سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہودیوں نے اپنی دشمنی کو آشکار کرنے کے بعد، اس موضوع کو پیغمبرؐ کے خلاف تبلیغ اور زہر چھڑکنے کے لئے دستاویز قرار دیا اور کہتے تھے: وہ اپنے دین میں استقلال نہیں رکھتا اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے وہ لوگ اس بات پر زیادہ زور دیتے تھے۔

پیغمبر اسلامؐ اس صورت حال سے آسودہ خاطر تھے اور راتوں کو آسمان کی طرف نگاہ کر کے نزول وحی کے منتظر رہتے تھے تاکہ نئے فرمان کے پہنچنے کے ساتھ یہودیوں کی تبلیغات ختم ہو جائیں۔⁵

1 مرتضیٰ العالیؒ گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۷۶-۱۷۵۔

2 صحیح بخاریؒ گزشتہ طبع، ج ۹، باب ۱۱۹۰، ص ۷۷۲۔

3 حلبیؒ گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۷۲: رجوع کریں: ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج ۱، ص ۵۲۔

4 حلبیؒ گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۳۳۲۔

5 ابن واضح، تاریخ یعقوبی، (نجف: المکتبۃ الحیدریہ، ۱۳۸۴ھ، ق) ج ۲، ص ۳۴: محمد بن سعدؒ گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۴۲: الشیخ للمحرر العالی، وسائل الشیعہ، ط ۴، ۱۳۹۱ھ، ق) ج ۳، کتاب الصلوٰۃ، ابواب القبۃ، باب ۲، حدیث ۳، ص ۲۱۶: طباطبائی، المیزان، (بیروت: مؤسسۃ العلمی للمطبوعات، ط ۳، ۱۳۹۳ھ، ق) ج ۱، ص ۳۳۱۔ قبلہ کی تبدیلی کی تاریخ، ہجرت کے بعد سات مہینے سے سترہ مہینے نقل ہوئی ہے۔ (وفاء الوفاء، ج ۱، ص ۳۶۴-۳۶۱: بحار الانوار، ج ۱۹، ص ۱۱۳) لیکن علامہ طباطبائیؒ ۱۷ مہینے کی تائید فرماتے ہیں۔ (وہی حوالہ)

ہجرت کے سترہ مہینے کے بعد جس وقت پیغمبر اسلامؐ مسلمانوں کے ساتھ ظہر کی دو رکعت نماز ”بیت المقدس“ کی طرف پڑھ چکے تھے فرشتہ وحی نازل ہوا اور قبلہ کی تبدیلی کا حکم سنایا اور پیغمبرؐ کو کعبہ کی طرف موڑ دیا اور پیغمبرؐ نے بعد کی دو رکعت نماز کعبہ¹ کی جانب رخ کر کے پڑھی۔ خدا نے اس چیز کا تذکرہ اس طرح سے فرمایا ہے:

”اے رسول! ہم آپ کی توجہ کو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ہم عنقریب آپ کو اس قبلہ کی طرف موڑ دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں لہذا آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑ لیجئے اور جہاں بھی رہیئے اسی طرف رخ کیجئے۔ اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ خدا کی طرف سے یہی برحق ہے اور اللہ ان لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔“²

قبلہ کی تبدیلی سے مسلمانوں کا استقلال پورا ہو گیا اور یہ یہودیوں کے لئے بہت ہی گراں حادثہ تھا۔ لہذا انھوں نے اب دوسرے طریقے سے کہنا شروع کر دیا کہ کیوں مسلمانوں نے اپنے قدیمی قبلہ سے منہ پھیر لیا؟ خداوند عالم نے قبلہ کی تبدیلی سے پہلے ہی یہودیوں کی حرکت سے پیغمبرؐ کو آگاہ کر دیا تھا اور اس کے جواب کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔ کہ مشرق و مغرب اور روئے زمین کا ہر حصہ خدا کا ہے وہ جدھر نماز پڑھنے کا حکم دے، اُدھر نماز پڑھنا چاہئے اور زمین کا کوئی حصہ اپنی جگہ پر ذاتی کمال نہیں رکھتا۔“

”عنقریب احمق لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اس قبلہ سے کس نے موڑ دیا ہے جس پر پہلے قائم تھے تو اے پیغمبرؐ! کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب سب خدا کے ہیں وہ جسے چاہتا ہے صراطِ مستقیم کی ہدایت کر دیتا ہے۔“³

اس جواب کے بعد پھر یہودیوں کے پاس منفی تبلیغ کا کوئی بہانہ نہیں رہ گیا تھا اور قبلہ کی تبدیلی کے ساتھ دو نئے اور پرانے آئین کے پیروں کے درمیان مشترک رابطہ ختم ہو گیا اور یہ دو گروہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور ان کے درمیان روابط میں خلل پڑ گیا۔ ”آپ ان اہل کتاب کے لئے کوئی بھی آیت اور دلیل پیش کر دیں یہ آپ کے قبلہ کو ہرگز نہ مانیں گے اور آپ بھی ان کے قبلہ کو نہ مانیں گے اور یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کو نہیں مانتے اور اپنے اور اے پیغمبرؐ! آپ علم کے آجانے کے بعد اگر ان کے خواہشات کا اتباع کر لیں گے تو آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔“⁴

قرآن مجید کی آیات سے اس طرح استفادہ ہوتا ہے کہ قبلہ کی تغیر میں خداوند عالم کی طرف سے یہودیوں پر انتقاد کے علاوہ مومنین کا امتحان بھی لیا گیا ہے کہ کس حد تک وہ ایمان و اخلاص رکھتے ہیں اور خدا کے حکم کے سامنے تسلیم ہیں۔

1 مورخین کے ایک گروہ کے کہنے کے مطابق یہ واقعہ قبیلہ بنی سلمہ کی ایک مسجد میں رونما ہوا جو ”مسجد القبلتین“ سے مشہور ہوئی۔ (ابن واضحؒ گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۳۴؛ محمد بن سعدؒ گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۴۲؛ سمودیؒ، وفاء الوفاء، ج ۱، ص ۳۶۱-۳۶۲؛ زحشریؒ، تفسیر الکشاف، (بیروت: دار المعرفہ)، ج ۱، ص ۱۰۱؛ لیکن ایک دوسرے گروہ نے قبیلہ بنی سالم بن عوف کی مسجد کو، جہاں پر پیغمبر اسلامؐ نے پہلی نماز جمعہ برگزار کی تھی واقعہ کی جگہ بتایا ہے (طبرسیؒ، اعلام الوری، ص ۷۱؛ مجلسیؒ، بحار الانوار، ج ۱۹، ص ۱۲۴؛ علی بن ابراہیمؒ سے نقل کے مطابق) اور کچھ تاریخی خبریں بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ خود مسجد النبیؐ میں رونما ہوا (ابن سعدؒ گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۴۱؛ سمودیؒ، وفاء الوفاء، ج ۱، ص ۳۶۰؛ مجلسیؒ گزشتہ حوالہ، ج ۱۹، ص ۲۰۱-۲۰۰) مسجد القبلتین محل وقوع کے لحاظ سے جس کی ہمارے زمانے میں تغیر نو ہوئی ہے اور مدینہ کے شمال میں واقع ہے قبیلہ بنی سلمہ سے میل کھاتی ہے؛ کیونکہ قبیلہ بنی سالم، مدینہ کے جنوب میں بسا ہوا تھا بہر حال مورخین کے درمیان قبلہ کی تبدیلی کے مکان میں اختلاف نظر کا پایا جانا اس کی عظمت کو کم نہیں کرتا ہے۔

2 سورہ بقرہ، آیت ۱۴۴

3 سورہ بقرہ، آیت ۱۴۲

4 سورہ بقرہ، آیت ۱۴۵

”اور ہم نے پہلے قبلہ کو صرف اس لئے قبلہ بنایا تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون پچھلے پاؤں پلٹ جاتا ہے۔ اگرچہ یہ قبلہ ان لوگوں کے علاوہ سب پر گراں ہے جن کی اللہ نے ہدایت کر دی ہے اور خدا تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا (سابق قبلہ کی طرف تمہاری نمازیں صحیح ہیں) کیونکہ خدا بندوں کے حال پر مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔“¹

کچھ روایات میں، اس امتحان کی اس طرح تفسیر کی گئی ہے کہ مکہ کے لوگ کعبہ کے فدائی تھے۔ خداوند عالم نے مکہ میں وقتی طور پر بیت المقدس کو اس لئے قبلہ قرار دیا تاکہ خدا کے نیک اور فرمانبردار بندے (جو اپنی خواہشات کے برخلاف صرف خدا اور پیغمبر کے حکم کی پیروی میں اس کی طرف نماز پڑھتے ہیں) خدا کے نافرمان اور خود رائے بندوں سے الگ پہچانے جائیں۔ لیکن مدینہ میں، جہاں زیادہ تر لوگ بیت المقدس کے طرفدار تھے خداوند عالم نے ان کے لئے کعبہ کو قبلہ قرار دیا تاکہ وہاں بھی یہ دودستے معین ہو سکیں۔²

1 سورۃ بقرہ، آیت ۱۴۳۔

2 طباطبائی، المیزان (بیروت: موسسۃ الاعلیٰ، للطبوعات، ط ۳، ۱۳۹۳ھ، ق) ج ۱، ص ۳۳۳؛ بعض روایات و نیز کچھ تاریخی خبروں کی بنیاد پر پیغمبر اسلام مکہ میں بھی کعبہ کی طرف پشت نہیں کرتے تھے۔ (وسائل الشیعہ، ج ۳، ص ۲۱۶، کتاب الصلاۃ، ابواب القبۃ، حدیث ۴) بلکہ اس کو بیت المقدس کے ساتھ ایک سمت میں قرار دیتے تھے اور دونوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ (حلی، السیرۃ الحلبیہ، ج ۲، ص ۳۵۷)

چوتھی فصل

لشکر اسلام کی تشکیل

اسلامی فوج کا قیام

پیغمبر اسلام مکہ میں سکونت کے دوران فقط ایک مبلغ تھے اور لوگوں کے لئے عملی میدان میں ایک الہی راہنما تھے اور ان کی خدمات، لوگوں کی ہدایت و راہنمائی اور بت پرستوں اور مشرکوں سے فکری اور اعتقادی جنگ تک محدود تھیں۔ لیکن مدینہ میں آنے کے بعد، دینی رسالت کے ابلاغ و راہنمائی کے علاوہ مسلمانوں کی سیاسی رہبری بھی آپ کے ذمہ آگئی تھی؛ کیونکہ مدینہ میں نئی صورت حال پیش آگئی تھی اور آپ نے اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے کے قیام کے سلسلہ میں ابتدائی قدم اٹھایا تھا۔ اس بنا پر آپ احتمالی خطرات اور دشواریوں سے مسلمانوں کو آگاہ کر کے ایک دور اندیش، شائستہ اور آگاہ سیاسی رہبر کی شکل میں اس کی چارہ جوئی کی فکر میں لگ گئے، مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان رشتہ اخوت و برادری کی برقراری، عمومی عہد و پیمان کی تنظیم و اجراء و نیز یہودیوں کے ساتھ عدم تجاوز کے معاہدہ پر دستخط یہ وہ اقدامات تھے جنہیں آپ نے بطور احتیاط انجام دیئے تھے۔

جو سورے اور آیات مدینہ میں نازل ہوئیں وہ سیاسی اور سماجی احکام و دستورات پر مشتمل تھیں اور وہ پیغمبر کیلئے سیاسی امور میں مفید اور راہ گشا تھیں۔ جیسے کہ خداوند عالم کی طرف سے جہاد اور دفاع کا حکم صادر ہوا¹ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے قصد کیا کہ ایک دفاعی فوج تشکیل دیں۔

اس فوج کا قیام عمل میں آنا اس لحاظ سے اہمیت رکھتا تھا کہ اس بات کا گمان تھا کہ مکہ کے مشرکین (جو ہجرت کے بعد مسلمانوں کو سزائیں اور تکلیف نہیں دے پارہے تھے) اس مرتبہ مرکز اسلام (مدینہ) پر فوجی حملہ کر دیں۔ اس بنا پر پیغمبر نے اس طرح کے گمان کا مقابلہ کرنے کے لئے ہجرت کے پہلے سال کے آخر میں ایک اسلامی فوج کی بنیاد ڈالی۔ یہ فوج شروع میں تعداد اور جنگی ساز و سامان کے لحاظ سے محدود تھی۔

لیکن بہت جلدی دونوں لحاظ سے اسے ترقی ملی۔ یہاں تک کہ آغاز قیام میں جنگی ماموریت یا گشتی عملیات میں بھیجی جانے والی ٹولیاں ساٹھ افراد سے زیادہ پر مشتمل نہیں ہوتی تھیں۔ اور ان کی سب سے زیادہ تعداد جو بہت کم دیکھنے میں آئی دو سو سے زیادہ نہیں پہنچی۔²

1 ”اذن.... یقاتلون بانہم ظلموا و ان اللہ علی نصرہم لقدیر، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق“ (سورہ حج، آیت ۴۰-۹۳) اسی طرح سے رجوع کریں: المیزان، ج ۱۴، ص ۳۸۳؛ تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۳۶۔

2 ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، (بیروت: دار صادر)، ج ۲، ص ۱۱۲۔

ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر میں ان کی تعداد تین سو سے تھوڑا زیادہ تھی۔ لیکن فتح مکہ میں (ہجرت کے آٹھویں سال) سر بازان اسلام کی تعداد دس ہزار افراد تک پہنچ گئی تھی۔ اور فوجی ساز و سامان کے اعتبار سے بھی بہت اچھی حالت ہو گئی تھی۔

بہر حال یکے بعد دیگرے واقعات کے رونما ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی پیش بینی درست تھی۔ کیونکہ ہجرت کے دوسرے سال طرفین کے درمیان متعدد جھڑپیں ہوئیں اگر مسلمانوں کے پاس دفاعی طاقت نہ ہوتی تو ان جھڑپوں کے نتیجے میں مسلمان، مشرکوں کے ہاتھوں بری طرح سے مارے جاتے۔¹

فوجی مشقیں

پیغمبر اسلام نے انھیں تھوڑے سے سپاہیوں کے ذریعے ایک طرح کی چھوٹی فوجی نقل و حرکت شروع کر دی جس کو درحقیقت ایک مکمل جنگ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور ان مشقوں میں سے کسی ایک میں دشمن سے نوک جھوک اور جنگ پیش نہیں آئی جیسے حمزہ بن عبدالمطلب کا تیس افراد پر مشتمل سریہ (ہجرت کے آٹھویں مہینے میں) جس نے قریش کے قافلہ کو مکہ کی طرف پلٹتے وقت پیچھا کیا تھا۔ اور عبیدہ بن حارث کا ساٹھ افراد پر مشتمل سریہ جس نے (آٹھویں مہینے میں) ابوسفیان کے گروہ کا پیچھا کیا۔ اور سعید بن وقاص کا بیس افراد پر مشتمل سریہ جس نے (نویں مہینے میں) قریش کے قافلے کا پیچھا کیا۔ لیکن اس کو پا نہیں سکا۔²

اسی طرح سے خود پیغمبر اسلام نے (گیارہویں مہینے میں) مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ، قریش کے قافلے کا تعاقب کیا اور سرزمین ”ابواء“ تک پہنچ گئے، لیکن کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا۔

آنحضرتؐ نے اس سفر میں قبیلہ ”بنی ضمرہ“ سے عہد و پیمان کیا کہ وہ بے طرف رہیں اور دشمنان اسلام کا ساتھ نہ دیں۔

پیغمبر اسلام نے ربیع الاول کے مہینے (بارہویں مہینے) میں، کرز بن جابر فہری، جس نے گلہ (ریوڑ) مدینہ کو غارت کر دیا تھا اس کا تعاقب، سرزمین بدر تک کیا لیکن وہ مل نہ سکا، جمادی الآخر میں ایک سو پچاس یا (دوسو) افراد کے ساتھ قریش کے تجارتی قافلہ کو جو کہ ابوسفیان کی سرپرستی میں (مکہ سے شام) جا رہا تھا، اس کا تعاقب کیا (غزوہ ذات العشرہ) اور اس بار بھی اس کے قافلہ تک نہ پہنچ سکے اور قبیلہ ”بنی مدجن“ کے ساتھ عہد و پیمان کیا اور مدینہ پلٹ آئے³ لہذا اس طرح کی چھوٹی فوجی نقل و حرکت کو درحقیقت فوجی مشقیں یا قدرت نمائی کہنا چاہیے نہ واقعی جنگ۔

1 پیغمبر اسلام کے کل غزوات کی تعداد ۲۶ اور سریات کی تعداد ۳۶ نقل ہوئی ہے۔ (ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج ۱، ص ۱۸۶، طبری، اعلام الوری، ص ۷۲) کچھ مورخین نے سریات کی تعداد اس سے زیادہ نقل کی ہے (مسعودی، مروج الذهب، ج ۲، ص ۲۸۲) بخاری، ایک روایت میں ان کی تعداد ۱۹ ذکر ہوئی ہے (صحیح بخاری، ج ۶، ص ۳۲۷)

2 واقدی، المغازی، تحقیق: مارسڈن جونز، ج ۱، ص ۱۱۹؛ محمد بن جریر الطبری، تاریخ الامم والملوک (بیروت: دار القاموس الحدیث)، ج ۲، ص ۲۵۹؛ رجوع کریں: ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۲، ص ۲۴۵-۲۵۱؛ ابن اسحاق نے ان سریات کو ۲ھ کے واقعات میں قرار دیا ہے۔ (طبری، ہگزشتہ حوالہ) اگر بالفرض اس نقل کو ہم صحیح قرار دیں تو ہمیں قبول کرنا چاہیے کہ اسلامی فوج کی تشکیل ۲ھ میں ہوئی ہے لیکن پھر بھی یہ مطلب موضوع کی اہمیت کو کم نہیں کرتا بلکہ اس سلسلہ میں پیغمبر اسلام کے عمل کی تیزی کو بتاتا ہے۔

3 واقدی، ہگزشتہ حوالہ، ص ۱۱۳-۱۱۴؛ طبری، ہگزشتہ حوالہ، ص ۲۶۱-۲۵۹۔

فوجی مشقوں سے پیغمبرؐ کے مقاصد

قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اسلامؐ کا ان چھوٹے سرایا اور غزوات سے مقصد، نہ دشمنوں کو لوٹنا اور غارت کرنا تھا اور نہ ان سے جنگ اور ٹکراؤ کرنا تھا۔ کیونکہ (جیسا کہ ہم نے مشاہدہ کیا ہے) ایک طرف سے اسلامی سپاہیوں کی تعداد کم تھی اور دشمن کے سپاہیوں کی تعداد ان کے دو برابر تھی۔ اور دوسری طرف ان سرایا میں سے کچھ میں انصار بھی شریک تھے اور ان لوگوں نے ”عقبہ دوم“ کے عہد و پیمان میں پیغمبرؐ کے ساتھ مدینہ کے اندر دفاع کا وعدہ کیا تھا نہ کہ مدینہ کے باہر دشمن سے جنگ کرنے کا۔

اس کے علاوہ مدینہ کے لوگ کاشتکار اور باغبان بھی تھے اور بادیہ نشین قبائل کی طرح غارت گری اور لوٹ مار کی عادت نہیں رکھتے تھے۔ اور اگر اوس و خزرج آپس میں جنگ بھی کرتے تھے تو وہ مقامی پہلو رکھتا تھا۔ اور جنگ کی آگ بھڑکانے والے یہودی ہوتے تھے وہ کبھی قافلوں کے مال کو لوٹا نہیں کرتے تھے یا قبائل کے اموال کو ان کے علاقے سے ہڑپ کر لے نہیں جاتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر ان کا سامنا دشمن سے ہوتا تھا تو جنگ کی رغبت نہیں رکھتے تھے۔ جیسا کہ حمزہ نے ایک شخص کے ذریعہ جو بے طرف تھا، جنگ کرنے سے پرہیز کیا۔¹

ان قرآن و شواہد کے لحاظ سے گویا پیغمبر اسلامؐ ان مشقوں سے خاص مقصد رکھتے تھے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں :

۱۔ شام کی طرف جانے والے قریش کے تجارتی راستے کو دھمکی اور وارننگ دینا؛ مکے کے تاجروں کے قافلے شہر مدینہ کے پاس سے بحر احمر کے درمیان سے ہو کر گزرتے تھے لہذا وہ شہر سے ۱۳۰ کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ نہیں رکھ سکتے تھے۔²

پیغمبر اسلامؐ اپنی اس نقل و حرکت کے ذریعہ، قریش کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر وہ چاہیں کہ مدینہ میں بھی (مکہ کی طرح) مسلمانوں کے کاموں میں رخنہ ڈالیں، تو ان کا تجارتی راستہ خطرہ میں پڑ جائے گا اور ان کا تجارتی مال مسلمانوں کے ذریعہ ضبط ہو سکتا ہے۔³

یہ وارننگ قہری طور سے مشرکین مکہ کو، کہ جن کے نزدیک تجارت ایک حیاتی مسئلہ تھا، روکنے کے لئے ایک قومی محرک تھا اور ایک واقعی دھمکی تھی تاکہ اپنے محاسبات میں، مسلمانوں کے ساتھ رویہ میں تجدید نظر کریں۔

1 واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ۹.

2 مونٹ گری، محمد فی المدینہ، تعریب: شعبان برکات (بیروت: المکتبۃ العصریہ)، ص ۵.

3 بعد میں دھمکی صحیح ثابت ہوئی اور (جیسا کہ ہم بیان کریں گے) قریش شام کے تجارتی راستہ کے مسدود ہونے سے سخت ناراض ہوئے اور شام جانے کے لئے دوسرے راستہ کی تلاش میں لگ گئے۔

البتہ یہ خیال رہے کہ مسلمانوں کو حق حاصل تھا کہ مشرکین مکہ کے اموال کو ضبط کر لیں؛ کیونکہ انھوں نے مہاجرین کو مکہ ترک کرنے کے لئے مجبور کیا تھا اور ان کی جائیداد کو ہڑپ لیا تھا۔¹

لیکن یہ بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیئے کہ اسلام کا دائرہ کار ذاتی انتقام اور فردی حساب چکانے کے مرحلہ سے آگے بڑھ کر درحقیقت دوڑی قدرت کے ٹکراؤ میں بدل چکا تھا۔ اور طرفین ایک دوسرے کے سپاہیوں کو کمزور کرنے میں لگ گئے تھے۔ اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی نظر میں دشمن کو اقتصادی نقصان پہنچانا اور ان کے اندر رعب و وحشت کا ڈالنا۔ ان کے تجارتی مال، یا مال غنیمت سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ جیسا کہ عبد اللہ بن جحش کے سر یہ اور جنگ بدر تک مشرکوں کا کوئی مال مسلمانوں کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔

۲۔ یہ سرگرمیاں، ایک طرح سے مسلمانوں کی جنگی قدرت کی نمائش اور مشرکین مکہ کے لئے وارننگ تھیں کہ مدینہ پر فوجی حملہ کرنے کے بارے میں نہ سوچیں۔ کیونکہ مسلمانوں میں دفاعی طاقت پیدا ہو گئی ہے اور وہ ان کے حملوں کا دفاع کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم قریش کی مخالفت کے اسباب و علل کے تجزیہ کی بحث میں پڑھ چکے ہیں کہ جس وقت پیغمبر اسلام مکہ میں رہ رہے تھے اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی تو قریش کے سرمایہ دار اپنے اقتصادی تسلط کا زوال دیکھ رہے تھے اور اب جبکہ شہر مدینہ کافی امکانات اور استعداد کے ساتھ ایک اسلامی مرکز میں تبدیل ہو گیا تھا کس طرح ممکن تھا کہ مکہ کے ثروت پرست اپنے کو امان میں سمجھیں، اس وجہ سے ضروری تھا کہ شروعات مسلمانوں کی طرف سے ہو، تاکہ مشرکین اس شہر پر قبضہ نہ کر سکیں۔

۳۔ شاید یہ فوجی سرگرمیاں ایک طرح سے مدینہ کے یہودیوں کے لئے بھی الٹی میٹم تھیں (جو اپنی دشمنی کو آشکار کر چکے تھے) تاکہ تخریب کاری سے ہاتھ اٹھالیں اور فوجی کارروائی کا ارادہ نہ کریں ورنہ مسلمان، فتنہ کی آگ کو سختی کے ساتھ خاموش کر دیں گے۔²

عبد اللہ بن جحش کا سر یہ

ہجرت کے دوسرے سال رجب کے مہینہ میں پیغمبرؐ نے عبد اللہ بن جحش (اپنے پھوپھی کے لڑکے) کو مہاجرین میں سے آٹھ افراد کے ساتھ، خبر رسانی اور خفیہ اطلاعات کی مہم پر بھیجا اور ان کو مہربند خط دیا اور فرمایا: ”دوروز راستہ طے کرنے کے بعد اس خط کو کھولنا اور اس کے مطابق عمل کرنا اور اپنے ہمراہ لوگوں میں سے کسی کو ہمراہی پر مجبور نہ کرنا“ اس نے دو دن راستہ طے کرنے کے بعد، خط کو کھولا تو حکم اس طرح سے تھا ”جس وقت میرے خط کو پڑھنا اپنے راستہ کو جاری رکھنا اور جب سرزمین ”نخلہ“ میں (مکہ اور طائف کے درمیان) پہنچنا تو وہاں چھپ کر قریش کو دیکھنا اور ہم کو وہاں کی صورت حال سے آگاہ کرنا“ عبد اللہ نے اعلان کیا کہ وہ پیغمبرؐ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں اور ان لوگوں

1 پیغمبر اسلام کی ہجرت کے بعد، عقیل نے مکہ میں خانہ آنحضرتؐ (شعب ابوطالب) اور بنی ہاشم نے مہاجرین کے گھروں پر قبضہ کر لیا۔ پیغمبر اسلام نے فتح مکہ کے موقع پر حجون میں (مکہ کے باہر) خیمہ لگایا۔ لوگوں نے عرض کیا ”کیوں آپ اپنے گھر تشریف نہیں لے جاتے؟“ آپ نے فرمایا: مگر عقیل نے ہمارے لئے گھر چھوڑ رکھا ہے!! (واقعی، مغازی، ج ۳، ص ۸۲۸؛ ابن سعد، طبقات الکبریٰ (بیروت: دار صادر)، ج ۱، ص ۱۳۶؛ قسطلانی، الموابہ اللدنیہ والنسخ الحمدیہ (بیروت: دار الکتب العلمیہ، ط ۱۳۱۶ھ-ق)، ج ۱، ص ۲۱۸؛ بعد میں عقیل کے وارثوں نے اس گھر کو سودینار میں حجاج بن یوسف کے بھائیوں کے ہاتھ بیچ دیا (حلبی، السیرۃ الجلبیہ، ج ۱، ص ۱۰۲-۱۰۱؛ اسی طرح خاندان بنی جحش بن ربیع کے ہجرت کرنے کے بعد، ان کے گھر مکہ میں خالی پڑے رہے۔ ابوسفیان نے یہ کمرہ کہ ان کی لڑکی ان میں سے ایک کی زوجہ ہے، ان کے گھروں کو لے لیا۔ (ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۲، ص ۱۳۵) اس کے علاوہ صہیب کے مدینہ ہجرت کرتے وقت، مشرکین نے ان کا پیچھا کیا اور مال و دولت کو چھین لیا لیکن اس کی جان بچ گئی (ابن ہشام، ج ۲، ص ۱۳۱)۔

2 محمد حسین ہیکل، حیات محمدؐ (قاہرہ: مکتبۃ النهضة المصریہ، ط ۸، ۱۹۶۳ء)، ص ۲۳۸-۲۳۹۔

سے کہا ”جو شخص بھی شہادت کے لئے تیار ہے آئے، ورنہ آزاد ہے اور پلٹ جائے۔ ان سب نے کہا کہ ہم تیار ہیں۔ یہ گروہ ”نخلہ“ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ قریش کا ایک قافلہ عمر بن الحضرمی کی سرپرستی میں طائف سے مکہ پلٹ رہا تھا۔ عبد اللہ اور اس کے ساتھیوں نے چاہا کہ قافلہ پر حملہ کر دیں لیکن ماہ رجب کا آخری دن تھا۔ ایک نے دوسرے سے کہا: اگر یہ لوگ حرم میں داخل ہو گئے تو تقدس حرم کی خاطر ان سے جنگ نہیں ہو سکے گی اور اگر یہاں پر ہم ان سے جنگ کریں تو ماہ حرام کی حرمت کو پامال کر دیں گے۔

آخر کار قافلہ پر حملہ کر دیا اور عمرو بن الحضرمی کو قتل کر ڈالا اور دو لوگوں کو اسیر کر لیا اور مال غنیمت اور اسیروں کے ساتھ مدینہ پلٹ آئے۔ پیغمبرؐ نے، ان کے اس خود سرانہ اقدام پر افسوس ظاہر کیا اور اسیروں اور مال غنیمت کو لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا: ”میں نے نہیں کہا تھا کہ ماہ حرام میں جنگ نہ کرنا“

اس واقعہ کا بہت چرچہ ہوا، ایک طرف اس گروہ کی جنگ و خون ریزی حرام مہینہ میں مسلمانوں کے لئے دشوار بن گئی اور عبد اللہ کی سرزنش کی اور دوسری طرف سے قریش اس واقعہ کا غلط پروپیگنڈہ کر کے کہتے تھے۔ محمدؐ نے حرام مہینے کے تقدس اور احترام کو پامال کر دیا ہے، اور اس مہینہ میں خون ریزی کی ہے! یہودی بھی اس پر زہر چھڑک کر کہہ رہے تھے: یہ کام مسلمانوں کے ضرر میں تمام ہو گا، اسی وقت فرشتہ وحی نازل ہوا اور خدا کا فرمان سنایا:

”پیغمبرؐ یہ آپ سے محترم مہینوں میں جہاد کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ ان میں جنگ کرنا گناہ کبیرہ ہے اور راہ خدا سے روکنا اور خدا اور مسجد الحرام کی حرمت کا انکار کرنا ہے اور اہل مسجد الحرام کو وہاں سے نکال دینا خدا کی نگاہ میں جنگ سے بھی بدتر گناہ ہے اور فتنہ و فساد برپا کرنا تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ اور یہ کفار و مشرکین برابر تم لوگوں سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کے امکان میں ہو تو تم کو تمہارے دین سے پلٹا دیں...“¹

ان آیات کے نزول کے ذریعہ کہ جس میں عبد اللہ کے ضمنی تبرہ کے ساتھ قریش کو فتنہ کا باعث اور ان کے گناہ کو ماہ حرام میں قتل سے بہت بڑا بتایا گیا ہے مسلمانوں کے خلاف جو فضا مکدر ہو گئی تھی وہ ختم ہو گئی اور پیغمبرؐ نے قریش کے نمائندوں کی درخواست پر اسیروں کو رہا کر دیا، ان میں سے ایک مسلمان ہو کر مدینہ میں رہ گیا۔²

ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی افراد، یا پارٹیاں اپنے حسن نیت (لیکن سوء تدبیر کے ساتھ) کی بنا پر ایسے اقدامات انجام دیتی ہیں جس کے برے اثرات سماج میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کی حسن نیت، ان کے اقدامات کے خطرناک نتائج کا جبران نہیں کر سکتی ہے۔ عبد اللہ بن حبش اور ان کے ساتھیوں کا اقدام بھی کچھ اسی طرح کا تھا۔

جنگ بدر

یہ جنگ، پیغمبرؐ کی فوجی مشقوں، اور شام کی طرف قریش کے تجارتی راستے کی دھمکی کے بعد ہوئی اور یہ مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان پہلی بڑی جنگ تھی جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ پیغمبر اسلامؐ نے جمادی الآخر کے مہینہ میں قریش کے قافلہ کا جو ابوسفیان کی سربراہی میں شام کی

1 سورۃ بقرہ، آیت ۲۱۷۔

2 ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، (مطبعہ مصطفیٰ البابی، الحلبي، ۱۳۵۵ھ، ق) ج ۲، ص ۲۵۵-۲۵۲:....

طرف جارہا تھا، سرزمین ”ذات النشیرہ“ تک تعاقب کیا لیکن ان تک پہنچ نہ سکے۔ اس وجہ سے شام کے علاقہ میں سراغ رسان سپاہیوں کو بھیجا جن کے ذریعہ کفار قریش کے قافلہ کے پلٹنے کی خبر ملی۔¹

مال و اسباب کے لحاظ سے قافلہ بہت بڑا تھا۔ ان کے اونٹ کی تعداد ایک ہزار تھی اور ان کا سرمایہ ۵۰ ہزار دینار نقل ہوا ہے کہ جس میں تمام قریش شریک تھے۔²

قافلوں کا قدرتی راستہ، بدر کے علاقہ سے شروع ہوتا تھا۔³ پیغمبر اسلام نے قافلہ کو ضبط کرنے کے لئے تین سو تیرہ افراد⁵ اور بہت کم امکانات⁶ کے ساتھ بدر کی طرف گئے۔

ابوسفیان شام سے پلٹتے وقت پیغمبر کے ارادہ سے آگاہ ہو گیا۔ لہذا ایک طرف مکہ میں اپنا تیز رفتار نمائندہ بھیج کر قریش سے مدد مانگی⁷ اور دوسری جانب سے قافلہ کے راستہ کو داہنی طرف (بحر احمر کے ساحل کی طرف) موڑ دیا اور قافلہ کو تیزی کے ساتھ خطرے کے مقام سے دور کر دیا۔⁸

ابوسفیان کی درخواست پر نوسو پچاس⁹ جنگجو مکہ سے قافلہ کی نجات کے لئے مدینہ کی طرف گئے۔ جبکہ مشرکین راستے میں ہی قافلہ کی نجات سے آگاہ ہو گئے تھے لیکن ابو جہل کی لجاجت اور ہٹ دھرمی نے ان کو ٹکراؤ پر مجبور کر دیا۔ ابھی مسلمان قافلہ کی جستجو میں تھے کہ پیغمبر کو خبر ملی کہ لشکر قریش بدر کے علاقہ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ لہذا ایسے موقع پر کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ کیونکہ تھوڑے سے سپاہیوں اور اسلحوں کے ساتھ قافلہ کے افراد کو گرفتار کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے نہ کہ ایسی فوج سے جنگ کرنے کے لئے آئے تھے جن کے سپاہیوں کی تعداد ان کے سپاہیوں کے تین برابر ہو۔ اگر (بالفرض) عقب نشینی بھی کرنا چاہتے تو فوجی مشقوں کے پروپیگنڈہ کا اثر ختم ہو جاتا اور ممکن تھا

1 واقدی ہگزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۰۔

2 واقدی ہگزشتہ حوالہ، ص ۲۷؛ مجلسی، بحار الانوار، (تہران: دارالکتب الاسلامیہ، ۱۳۸۵ھ، ق) ج ۱۹، ص ۲۴۸-۲۴۵۔

3 بدر، شہر مدینہ کے جنوب مغربی میں پڑتا ہے جو آج ایک شہر کی شکل میں بدل گیا ہے اور علاقائی مرکز اسی نام پر ہے مدینہ کی شاہراہ جدہ اور مکہ کی طرف اسی جگہ سے گزرتی ہے۔ اور یہاں سے مدینہ کا فاصلہ ۱۵۳ کلو میٹر اور مکہ کا فاصلہ ۳۴۳ کلو میٹر ہے۔ (محمد عبدہ یمنی، بدر الکبریٰ، جدہ: دار القبلہ للثقافت الاسلامیہ، ط ۱، ۱۴۱۵ھ-ق) ص ۲۵۔ اور جس وقت سے مدینہ اور مکہ کے درمیان شاہراہ بنی ہے۔ حج کے زمانہ میں حاجیوں کا سفر اس راستہ سے نہیں ہوتا ہے۔

4 ابن ہشام ہگزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۲۵۸۔

5 محمد بن سعد، طبقات الکبریٰ، (بیروت: دار صادر) ج ۲، ص ۲۰؛ طبری ہگزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۲۷۲۔

6 مسلمانوں کے پاس ستر (۷۰) اونٹ تھے اور چند افراد ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے (واقدی ہگزشتہ حوالہ، ص ۲۶؛ ابن ہشام ہگزشتہ حوالہ، ص ۲۶۳) اور صرف ایک گھوڑا (شیخ مفید، الارشاد، ص ۷۳؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج ۱، ص ۱۸۷؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۹، ص ۳۲۳؛ مسند احمد، ج ۱، ص ۱۲۵) اور بنا بر نقل دو گھوڑا رکھتے تھے (واقدی ہگزشتہ حوالہ، ص ۲۶؛ ابن سعد ہگزشتہ حوالہ، ص ۲۲-۲۳؛ تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۳۷) اور چھ جنگی زرہ اور آٹھ تلوار رکھتے تھے۔

(ابن شہر آشوب ہگزشتہ حوالہ، ص ۱۸۷؛ مجلسی ہگزشتہ حوالہ، ج ۱۹، ص ۳۲۳)

7 ابن ہشام ہگزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۲۵۸؛ واقدی ہگزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۸۔

8 ابن ہشام ہگزشتہ حوالہ، ص ۲۷۰؛ واقدی ہگزشتہ حوالہ، ص ۴۱۔

9 ابن ہشام ہگزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۲۶۹؛ ابن سعد ہگزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۱۵؛ ابن شہر آشوب ہگزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۸۷؛ مجلسی ہگزشتہ حوالہ، ج ۱۹، ص ۲۱۹۔

کہ دشمن ان کا پیچھا کر کے مدینہ پر حملہ کر دیتے۔ لہذا فوراً ایک فوجی کمیٹی تشکیل پانے کے بعد، پیغمبرؐ نے مسلمانوں (خاص طور سے انصار) کی رائے اور مشورہ سے اور مقداد اور سعد بن عبادہ کی پر جوش تقریر کے بعد دشمن سے جنگ کا ارادہ کر لیا۔¹

۱۷ رمضان² کی صبح کو، جنگ کا آغاز ہوا۔ شروع میں حمزہ، عبیدہ اور علیؑ نے شیبہ، عتبہ اور ولید بن عتبہ سے الگ الگ جنگ کی اور اپنے مد مقابل کو قتل کیا³ اور یہ سرداران قریش کے حوصلہ پر سخت چوٹ تھی⁴ لہذا اسی وقت عمومی جنگ شروع ہو گئی۔ لشکر اسلام اتنی تیزی کے ساتھ کامیاب ہوا کہ ظہر کے وقت⁵ جنگ دشمن کی شکست اور عقب نشینی پر تمام ہو گئی۔ مشرکین میں ۷۰ افراد مارے گئے⁶ اور ستر (۷۰) افراد اسیر ہوئے⁷ اور مسلمانوں میں سے چودہ (۱۴) افراد شہید ہوئے۔⁸

پیغمبر اسلامؐ کی موافقت سے قیدی خون بہادے کر آزاد ہو گئے اور جن کے پاس پیسہ نہ تھا لیکن پڑھے لکھے تھے ان کے بارے میں رسول اسلامؐ نے حکم دیا کہ انصار کے دس جوانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں پھر آزاد ہو جائیں۔⁹ اور بقیہ اسیر پیغمبر اکرمؐ کے احسان پر آزاد ہوئے۔¹⁰

مسلمانوں کی کامیابی کے اسباب

مسلمانوں کی درخشاں کامیابی، ان کے پہلے فوجی حملہ میں ہی، قریش کے رعب و حشمت کو توڑ دیا اور ان کو سرگرداں اور مبہوت کر دیا، لشکر قریش کی شکست اس قدر غیر متوقع تھی کہ جب رسول خداؐ کا نمائندہ، لشکر اسلام کے مدینہ پلٹنے سے پہلے، شہر میں داخل ہوا اور کامیابی کی خبر سنائی، تو مسلمانوں کو شروع میں باور نہ ہوا اور نمائندہ کو جنگ سے فراری اور ہارا ہوا سمجھا۔¹¹

1 ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ۲۶۸-۲۶۹؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ۴۸-۴۹؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ۱۴

2 ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ۲۷۸؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ۱۹-۲۰ و ۲۰۱۔

3 ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ۲۷۷؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ۲۳-۲۴ اور ۲۴؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج ۱۹، ص ۲۷۹؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ (بیروت: دار صادر)، ج ۲، ص ۱۲۵۔

4 شیخ مفید، الارشاد، (قم: الموتر العالمی الفیہ الشیخ المفید، ط ۱۳۱۳ھ، ق) ص ۶۹۔

5 واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ۱۱۲؛ پیغمبر اسلامؐ نے جنگ تمام ہونے کے بعد مدینہ کے راستے میں نماز عصر پڑھی (واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ۱۱۲-۱۱۳)۔

6 ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ۱۸؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۲۹۴؛ تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۳۷۔

7 ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ۲۲-۱۸؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ۱۱۶؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ص ۲۹۴؛ تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۳۷؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج ۱، ص ۱۸۹؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج ۱۹، ص ۲۹۱۔

8 ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ۱۷؛ تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۳۷؛ ابن شہر آشوب، گزشتہ حوالہ، ص ۱۸۹۔

9 زید بن ثابتؓ نے اس طرح سے لکھنا پڑھنا سکھا۔

10 ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ۱۸۔

11 واقدی، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۱۵۔

لیکن ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اسیروں کو شہر میں لایا گیا۔ اس کامیابی کا چرچہ حبشہ تک پہنچا اور جب نجاشی کو یہ خبر ملی تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور مسلمان مہاجروں کو دربار میں بلایا اور یہ خوش خبری ان کو سنائی۔¹

پیغمبر اسلام نے فرمایا :

”جنگ بدر وہ پہلی جنگ تھی جس میں خداوند عالم نے اسلام کو عزیز اور شرک کو ذلیل و خوار کیا۔“²

شیطان، جنگ بدر کے دن اس قدر ذلیل و خوار ہوا کہ (عرفہ کے دن کے علاوہ کہ خدا کی رحمت کے نزول اور بڑے گناہوں کی مغفرت کا مشاہدہ کیا تھا) کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔“³

اس حیرت انگیز کامیابی کے اسباب و علل کو اس طرح سے خلاصہ کے طور پر بیان کیا جاسکتا ہے :

۱۔ پیغمبر کی لائق اور شائستہ کمانڈری⁴ اور آپ کی شجاعت اور دلیری؛ علیٰ جنگ بدر کو یاد کر کے فرماتے ہیں : ”جس وقت جنگ کی آگ سخت شعلہ ور ہوئی تو ہم رسول کی پناہ میں چلے گئے اور اس وقت ہم میں سے کوئی بھی آپ سے زیادہ دشمن سے نزدیکتر نہیں تھا۔“⁵

۲۔ علی کی بے نظیر شجاعت اور جان نثاری؛ اس طرح سے کہ جنگ میں مارے گئے دشمنوں میں سے نصف کو آپ نے اکیلے قتل کیا تھا۔⁶

شیخ مفید نے ۳۵ لوگوں کا نام لیا ہے۔ جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے اور کہتے ہیں : شیعہ اور اہل سنت راویوں نے بطور اتفاق لکھا ہے کہ اتنے افراد کو علی نے قتل کیا ہے اس کے علاوہ اور بھی قتل ہوئے تھے جن کے قاتل کے بارے میں اختلاف ہے یا علی ان کے قتل میں شریک تھے۔⁷

1 گزشتہ حوالہ، ص ۱۲۱.

2 گزشتہ حوالہ، ص ۲۱.

3 گزشتہ حوالہ، ص ۷۸.

4 اس کے باوجود کہ پیغمبر اسلام بعثت سے قبل، فوجی سابقہ نہیں رکھتے تھے اور موخین نے صرف ان کی شرکت جوانی میں (یا نوجوانی میں) جنگ ”فجار“ میں نقل کی ہے اور اس میں شک پایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ایک ٹریننگ یافتہ کمانڈر یا تجربہ کار کمانڈر کی طرح، اتنے اچھے طریقہ سے کمانڈری کے فرائض انجام دیئے کہ کبھی بھی مسلمانوں کو اس طرح سے فتح حاصل نہیں ہوئی۔

5 ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۲۳؛ مسند احمد حنبل، ج ۱، ص ۱۲۶؛ ابن ابی الحدید، شرح نہج البلاغہ، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراہیم (قاہرہ: دار احیاء الکتب العربیہ، ۱۹۶۱ء)، ج ۱۳، ص ۷۹-۲.

6 ابن ابی الحدید، گزشتہ حوالہ، ج ۱، مقدمہ، ص ۲۳؛ شیخ مفید، الارشاد، (قم: المؤتمر العالمی للشیخ المفید، ط ۱، ۱۴۱۳ھ، ق)، ص ۷۲۔

7 شیخ مفید، گزشتہ حوالہ، ص ۷۲-۷۰؛ بلاذری اور واقدی نے اس گروہ کی تعداد ۱۸ افراد نقل کی ہے (انساب الاشراف، ج ۱، ص ۳۰۱-۲۹۷؛ المغازی، ج ۱، ص ۱۵۲؛ اسی طرح سے رجوع کریں؛ بحار الانوار، ج ۱۹، ص ۲۹۳) جنگ خندق، جنگ بدر کے تین سال بعد ہوئی۔ جس وقت عمرو بن عبدود، عرب کا مشہور پہلوان، خندق کے کنارے لڑنے کے لئے چیلنج کر رہا تھا تو علی اس کے مقابلہ میں گئے اس نے علی سے کہا: تمہارا باپ میرا دوست تھا لہذا میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم میرے ہاتھ سے قتل ہو!۔ ابن ابی الحدید معتزلی، نہج البلاغہ کا مشہور شارح اس گفتگو کو نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ ”ہمارے استاد ابوالخیر مصدق بن شبیب نحوی جس وقت اس حصہ کو پڑھاتے تھے تو کہتے تھے: عمرو نے جھوٹ کہا ہے اس نے علی کی جنگ کو بدر واحد میں دیکھ رکھا تھا لہذا اگر ان سے لڑتا تو قتل ہو جاتا، اس وجہ سے بہانہ کیا اور اس طرح سے علی سے لڑنے میں دیر کیا۔“ (شرح نہج البلاغہ، ج ۱۹، ص ۶۴)

۳۔ اگرچہ مسلمانوں کے ایک گروہ نے مدینہ سے نکلنے کے وقت، بے رغبتی اور کھلے انداز میں ناپسندی کا اظہار کیا تھا۔¹ اور نیز کچھ بزرگ مہاجروں نے، فوجی کمیٹی میں، اپنی کمزوری کا اظہار کیا اور ناامید کرنے والی باتیں کہیں۔² لیکن زیادہ تر مسلمان ایمان میں غرق اور ان کے حوصلہ بلند تھے۔ اور اس طرح سے بہادرانہ انداز میں لڑے کہ مشرکوں کو بہت تعجب ہوا۔

۴۔ خدا کی غیبی مدد³ چند طریقے سے ہوئی:

الف: جنگ کی رات بارش کا ہونا، جس سے مسلمانوں کی پانی کی ضرورت پوری ہو گئی اور ان کے قدموں کے نیچے کی زمین سخت ہو گئی، اور اس پر چلنا آسان کام ہو گیا۔⁴

ب: اس رات مسلمانوں کو بڑی اچھی نیند آئی⁵ اور وہ سکون سے سوئے صرف پیغمبر اسلام صبح تک بیدار رہے اور لشکر اسلام کی کامیابی کے لئے دعا کرتے رہے۔⁶

ج: مسلمانوں کی نصرت و مدد کے لئے فرشتوں کا نزول اور ان کا میدان جنگ میں حاضر ہونا۔⁷

د: مشرکین کے دلوں میں رعب و وحشت کا ڈالنا۔⁸

اسلامی لشکر کی کامیابی کے نتائج اور آثار

اس جنگ میں، اسلامی فوج کی کامیابی سے جو آثار و نتائج حاصل ہوئے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں:

۱۔ خداوند عالم نے پہلے ہی مسلمانوں سے مشرکین کے قافلہ یا مکہ کے فوجیوں کے مقابلہ میں کامیابی کا وعدہ کیا تھا۔⁹ اور پیغمبر اسلام نے جنگ کی کمیٹی کے جلسہ کے آخر میں خدا کا یہ وعدہ مسلمانوں کو پہنچا دیا تھا۔¹⁰ اور خدا کی نصرت و مدد سے اس کامیابی کے ملنے پر مسلمان خوش ہو گئے۔ اور ان کا ایمان و اعتقاد قوی اور مستحکم ہو گیا۔

1 سورۃ انفال، آیت ۶-۵

2 واقدی، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۴؛ حلبی، السیرۃ الحلبیہ، (انسان العیون) (بیروت: دار المعرفہ)، ج ۲، ص ۳۸۶-۳۸۵؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۹، ص ۲۴۷۔

3 سورۃ آل عمران، آیت ۱۲۳

4 سورۃ انفال، آیت ۱۱؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ۵۴؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۱۵ و ۲۵۔

5 سورۃ انفال، آیت ۱۱؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ۵۴؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ص ۳۹۲۔ لیکن قریش خوف و اضطراب کی وجہ سے صبح تک بیدار تھے اور تکلیف کی وجہ سے کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ (واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ۵۴۔)

6 شیخ مفید، گزشتہ حوالہ، ص ۷۳؛ مسند احمد، ج ۱، ص ۱۲۵؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۹، ص ۲۷۹۔

7 سورۃ انفال، آیت ۹؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ۷۶-۷۷؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۲۸۶۔

8 سورۃ انفال، آیت ۱۲۔

9 سورۃ انفال، آیت ۷۔

10 واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ۲۹۔

۲۔ منافقین اور مدینہ کے یہودی اس کامیابی سے بہت ناراض ہوئے اور ذلت و خواری کا احساس کیا جس وقت رسول خدا کے نمائندہ نے مسلمانوں کی بڑی کامیابی کی اطلاع مدینہ کے لوگوں کو دی۔ منافقین نے انہیں پھیلانا شروع کر دیں اور کہنے لگے: ”محمد قتل کر دیئے گئے ہیں اور مسلمان شکست کھا کر متفرق ہو گئے ہیں“۔¹

یہودیوں نے بھی اپنے کینہ کا اظہار کیا۔² کعب الاشرف جو کہ یہودیوں کے بزرگوں میں سے تھا اس نے کہا: یہ جو کہتے ہیں کہ جنگ میں مارے جانے والے عرب کے بڑے اور سربرآوردہ لوگ تھے۔ اگر یہ خبر درست ہے تو اس روئے زمین کی زندگی سے بہتر زمین کے نیچے دفن ہو جانا ہے۔³

۳۔ اطراف مدینہ کے قبائل: اس کامیابی کو اسلام کی حقانیت اور خدا کی نصرت کی نشانی سمجھ کر اسلام کی طرف راغب ہو گئے۔

یعقوبی لکھتا ہے: جب خداوند عالم نے جنگ بدر میں اپنے پیغمبر کو سرفراز اور کامیاب کر دیا اور قریش کے کچھ لوگ قتل ہو گئے تو قبائل عرب اسلام کی طرف راغب ہو گئے اور کچھ وفود کو پیغمبر کی خدمت میں بھیجا۔ وہ آگے لکھتا ہے کہ جنگ بدر کے چار یا پانچ مہینے بعد قبیلہ ربیعہ سرزمین ”ذی قار“ میں کسریٰ سے لڑا اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا: کہ میدان جنگ میں اس تہامی (محمدؐ) کے شعار سے استفادہ کرو اس وقت وہ یا محمدؐ یا محمدؐ کی فریاد کے ساتھ لڑے اور کامیاب ہوئے۔⁴

۴۔ قریش کے لوگ متوجہ ہوئے کہ محمدؐ کی قدرت اور مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ لگانے میں وہ اپنے محاسبات میں غلطی اور اشتباہ کا شکار ہوئے ہیں۔ وہ ہرگز تصور نہیں کرتے تھے کہ انہیں اتنی سخت شکست، چند فراری لوگوں کے ہاتھ کا شکاروں کی مدد سے اٹھانی پڑے گی۔

قریش اس نتیجہ پر پہنچے کہ ان کی تجارت خطرے میں پڑ جائے گی اور اب وہ مکہ کے تجارتی راستے سے شام نہیں جاسکتے ہیں۔

صفوان بن امیہ نے قریش کے سرداروں کے مجمع میں کہا: ”محمدؐ اور اس کے ساتھیوں نے ہماری تجارت کو خطرہ میں ڈال دیا ہے نہیں معلوم ان کے ساتھ کیا کریں؟ وہ ساحل کو نہیں چھوڑیں گے اور ساحل کے لوگ سب ان کے ہم بیان اور ساتھ ہو گئے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کہاں جائیں؟ اس شہر میں ہمارے اخراجات، گرمیوں میں شام کے تجارتی سفر سے اور جاڑوں میں حبشہ کے تجارتی سفر سے، پورے ہوتے تھے۔ اگر ہم اسی طرح اس شہر میں رہیں تو مجبور ہو کر ہمیں اپنا سارا سرمایہ کھانا پڑے گا اور اپنی ساری دولت سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔“

آخر کار اس مجمع میں طے پایا کہ عراق کے راستے سے شام جائیں اس وقت صفوان ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ، جس میں تنہا اس کا حصہ تین لاکھ درہم تھا، عراق کے راستے سے شام کی طرف روانہ ہوا۔ پیغمبر اسلام اس قافلہ کی روانگی سے باخبر ہو کر جمادی الآخر ۳ھ میں ایک سو سپاہیوں کا ایک دستہ زید بن حارثہ کی سربراہی میں ان کے اموال کو ضبط کرنے کے لئے بھیجا۔ جب دستہ وہاں پہنچا تو یہودی قافلہ کے اکثر

1 گزشتہ حوالہ، ص ۱۱۵؛ بلاذری، انساب الاشراف، تحقیق: محمد حمید اللہ، (قاہرہ: دارالمعارف، ط ۳)، ج ۱، ص ۲۹۴۔

2 طبری، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۲۹۷۔

3 واقدی، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۲۱؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۵۵؛ رجوع کریں: بیہقی، ج ۲، ص ۳۴۱۔

4 تاریخ یعقوبی، (نجف: المکتبۃ الحیدریہ، ۱۳۸۴ھ، ق)، ج ۲، ص ۳۸۔

آدمی فرار کر گئے تھے۔ اسلامی سپاہیوں نے ان کے مال کو ضبط کر لیا اور ایک یادو اسیر کے ساتھ مدینہ پلٹ آئے۔¹ تاریخ میں اس ماموریت کو ”سریۃ القردہ“² کہا گیا ہے۔³

بنی قینقاع کی عہد شکنی

بنی قینقاع پہلا یہودی قبیلہ تھا جس نے اپنے دوستی اور عدم تجاوز کے عہد کو توڑا۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی، یہودیوں اور منافقوں کے لئے بہت شاق، اور انھیں ناراض کرنے والی تھی۔ اس بنا پر یہ قبیلہ جنگ بدر کے بعد سے، دشمنی دکھانے لگا۔ پیغمبرؐ نے ان کو خبردار کیا کہ قریش کے انجام سے نصیحت لو اور مسلمان ہو جاؤ کیونکہ تم لوگوں نے ہمارے صفات اور نشانیوں کو اپنی کتاب میں پڑھ رکھا ہے اور میری نبوت سے اچھی طرح آگاہ ہو۔⁴

ان لوگوں نے کہا: قریش پر کامیابی نے تم کو مغرور کر دیا ہے، قریش تاجر پیشہ لوگ تھے اگر ہم سے جنگ کی تو دیکھنا کہ ہم اہل جنگ ہیں! ان تکبرانہ باتوں کے ذریعہ انھوں نے پیغمبرؐ کی وارنگ پر خاص توجہ نہیں دی، اور اسی طرح اپنے اختلافات کو برقرار رکھا۔ ایک دن ان یہودیوں میں سے ایک نے، مدینہ کے اطراف میں اس قبیلہ کے ایک بازار میں، ایک انصار کی زوجہ کی اہانت کی۔ اس حرکت سے مسلمانوں کے جذبات بھڑک اٹھے۔ اس عورت نے مسلمانوں سے فریاد کی تو ایک مسلمان نے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ اس پر سارے یہودی، اس مسلمان پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر دیا۔ اس فتنہ انگیزی کی وجہ سے دو لوگ مارے گئے لیکن اگر وہ حسن نیت سے کام لیتے تو دوبارہ امنیت کا برقرار ہونا ممکن تھا، اور اس طرح کے واقعات دوبارہ پیش نہ آتے۔ لیکن ان لوگوں نے احتیاطی تدبیریں اپنانے کے بجائے قلعہ میں جا کر پناہ لے لی اور مسلمانوں کے خلاف مورچہ سنبھال لیا۔

پیغمبر اسلامؐ نے ان کے قلعہ کے محاصرہ کا حکم صادر فرمایا۔ پندرہ دن محاصرہ کے بعد، عبداللہ ابن ابی (خزرجی) جو کہ پہلے ان کا ہم پیمان تھا اس کے کہنے پر پیغمبر اسلامؐ نے موافقت کی کہ وہ اپنے اسلحوں کو چھوڑ کر مدینہ کے باہر چلے جائیں۔ چنانچہ وہ لوگ شام کے ”اذرعات“ علاقہ میں چلے گئے۔ یہ واقعہ ہجرت کے دوسرے سال ماہ شوال میں پیش آیا۔⁵

بنی قینقاع، شجاع ترین یہودی تھے⁶ اور جیسا کہ ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساز و سامان اور قدرت پر مغرور تھے۔

1 واقدی، مگزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۹۸-۱۹۷۔

2 ”سریۃ القردہ“ بھی نقل ہوا ہے (بحار الانوار، ج ۲۰، ص ۴؛ حوالہ، طبری، مگزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۵)۔

3 ابن ہشام، مگزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۵۴-۵۳؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۰، ص ۵-۴۔

۴ ”قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وئیس المہاد۔ قد کان لکم آیۃ فی فتنین التقتا فئتہ تقتاتل فی سبیل اللہ و اخری کافرة یرونہم مثلہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذالک لعبرۃ لاولی الابصار“ سورۃ آل عمران، آیت ۱۳-۲۱۔

5 واقدی، مگزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۵۲-۵۰؛ بلاذری، مگزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۰۹-۳۰۸؛ طبری، مگزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۲۹۸-۲۹۷۔

6 واقدی، مگزشتہ حوالہ، ص ۱۷۸۔

اور شاید اپنے ہم نواؤں، خزرج اور بنی عوف¹ کی حمایت سے بھی دلگرم ہو گئے تھے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ خزرجی جو کہ سب سے آگے تھے اور واسطہ بنے ہوئے تھے۔ وہ بھی ان کی سزاؤں کے کم کرانے میں کچھ نہیں کر سکے² عبادہ بن صامت عوفی بھی ان سے الگ ہو گئے۔³

دوسری طرف سے یہودیوں کے دو قبیلے بنی نضیر اور بنی قریظہ کے پہلے ہمنوا، اوسے تھے اور گویا اسی وجہ سے وہ بنی قینقاع کی مدد کے لئے آگے نہیں بڑھے۔ اور شاید سعد بن معاذ۔

اوس کا سردار۔ اس بحران میں ان کے مداخلہ کو روکنے کے لئے اہم کردار رکھتا تھا۔ بہر حال مدینہ سے اس قبیلہ کی جلاوطنی، مسلمانوں کے لئے مفید ثابت ہوئی۔ اور اس طرح سے ان تینوں قبیلوں کی قدرت بھی بٹ گئی اور مدینہ کے بقیہ یہودیوں کے لئے ایک طرح سے وارننگ بھی تھی کہ اس طرح کی غلطیاں وہ آئندہ نہ کریں۔

جناب فاطمہ زہراؑ سے حضرت علیؑ کی شادی

جنگ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے بعد دوسرا مبارک واقعہ جو خانہ حضرت محمدؐ میں رونما ہوا، وہ علیؑ کی شادی تھی جو آپؐ کی دختر، فاطمہ زہراؑ سے ہوئی۔⁴

فاطمہ زہراؑ، پیغمبر اکرمؐ کے خاص اکرام و احترام کے لحاظ سے اور اپنی لیاقت اور ممتاز شخصیت و فضیلت کے اعتبار سے ایسی خاتون تھیں جن کے متعدد لوگ خواستگار تھے۔ پیغمبر اسلامؐ کے چند معروف اصحاب، جن میں بعض سرمایہ دار بھی تھے، ان سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ لیکن پیغمبرؐ نے موافقت نہیں کی⁵ اور فرمایا: ”خدا کے فیصلہ کا منتظر ہوں“⁶ انھوں نے حضرت علیؑ کو مشورہ دیا کہ فاطمہؑ کی خواستگاری کے لئے جائیں۔

پیغمبرؐ نے جناب فاطمہؑ کی رائے معلوم کرنے کے بعد علیؑ کی خواستگاری کی موافقت کر دی۔⁷ اور اپنی دختر سے فرمایا: ”تجھ کو ایسے شخص کی زوجیت میں دے رہا ہوں جو سب سے نیک اور اسلام لانے میں پیش قدم تھا“⁸ اور علیؑ سے بھی فرمایا: ”قریش کے کچھ لوگ ہم سے نالاں ہیں کہ کیوں اپنی دختر انھیں نہیں دی۔ میں نے ان کے جواب میں کہا: یہ کام خدا کے ارادہ سے ہوا ہے۔ فاطمہ کی ہمسری کے لئے علیؑ کے علاوہ کوئی شائستگی نہیں رکھتا ہے۔“⁹

1 واقدی، مگزشتہ حوالہ، ص ۱۷۸؛ ابن ہشام، مگزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۵۰۔

2 گویا پیغمبر اسلامؐ نے عبد اللہ بن ابی کے واسطہ بننے کو اس اعتبار سے قبول کیا کہ بظاہر وہ مسلمان تھا اور مسلمانوں کی وحدت کی بقاء اور فتنہ و فساد کو روکنے کے لئے کوشش کر رہا تھا۔

3 واقدی، مگزشتہ حوالہ، ص ۱۷۹۔

4 مجلسی، بحار الانوار، ج ۴۳، ص ۹۷۔

5 مجلسی، مگزشتہ حوالہ، ۱۰۸؛ ابن واضح، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۳۴۔

6 ابن سعد، طبقات الکبریٰ، (بیروت: دار صادر)، ج ۸، ص ۱۹۔

7 مجلسی، مگزشتہ حوالہ، ص ۹۳۔

8 ابنی، الغدیر، ج ۳، ص ۲۰۔

9 مجلسی، مگزشتہ حوالہ، ص ۹۲۔

یہ شادی نہایت ہی سادگی اور خوشحالی کے ساتھ تھوڑے سے مہر¹ اور مختصر سے جہیز کے ساتھ انجام پائی² جو اسلام میں ازدواجی روابط کے لئے معنوی قدر و قیمت کے اعتبار سے اعلیٰ ترین نمونہ سمجھی جاتی ہے۔

جنگ احد

قریش نے جنگ بدر میں شکست کھانے کے بعد، مسلمانوں سے انتقام لینے کے لئے تجارتی قافلہ کے منافع کو خرچ کر کے، مدینہ پر حملہ کرنے کے مقدمات فراہم کر لئے۔³ اور بعض قبائل کی حمایت حاصل کر کے بہت سارے جنگی ساز و سامان⁴ کے ساتھ مکہ سے نکل پڑے اور میدان جنگ میں سپاہیوں کی تشویق کے لئے کچھ عورتوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔⁵

پیغمبر اسلام، مکہ میں اپنے چچا عباس کی مخفی خبر کے ذریعہ قریش کے ارادے سے آگاہ ہو گئے۔⁶ اور آپ نے ایک فوجی کمیٹی بنا کر دشمن سے مقابلہ کرنے کے لئے، مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ عبد اللہ ابن ابی اور انصار کے کچھ بزرگ نیز بعض مہاجر شخصیتیں جیسے حمزہ، چاہتے تھے کہ شہر کے باہر دشمن سے مقابلہ کریں کیونکہ شہر میں رہنا دشمن کی جرات کا باعث بنے گا اور مسلمانوں کی ناتوانی اور کمزوری کی علامت قرار پائے گا۔ اور جنگ بدر میں سپاہ اسلام کی قدرت نمائی کے اعتبار سے نامناسب سمجھا جائے گا۔⁷

آخر کار پیغمبر اسلام نے اس بہادر اور انقلابی گروہ کی رائے کو قبول کیا اور ایک ہزار⁸ افراد کے ساتھ احد⁹ کے پہاڑ کی طرف چل دیئے۔ بیچ راستے میں عبد اللہ بن ابی یہ بہانہ کر کے کہ پیغمبر نے جوانوں کے مشورے پر عمل کیا اور ہماری رائے کو نظر انداز کیا¹⁰ اور نیز اس بات کو دلیل بنا کر کہ جنگ نہیں ہوگی۔¹¹ تین سو (۳۰۰) افراد کے ساتھ مدینہ پلٹ آیا۔

1 گزشتہ حوالہ، ص ۱۱۲۔

2 مزید آگاہی کے لئے رجوع کریں: ڈاکٹر سید جعفر شہیدی، زندگانی فاطمہ زہرا (تہران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۵ھ، ق) ص ۷۶-۷۷؛ امیر مہنا الخیامی، زوجات النبی واولادہ (بیروت: موسسہ عزالدین، ۱۴۱۱ھ، ق) ص ۳۲۸-۳۲۲۔

3 واقدی، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۰۰؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۶۴؛ ابن سعد، طبقات الکبریٰ، ج ۲، ص ۷۳۔

4 مشرکین کے سپاہیوں کی تعداد تین ہزار تھی جن میں سات سو افراد زره پوش، دو سو گھوڑے اور ایک ہزار اونٹ تھے۔ (واقعی، گزشتہ حوالہ، ص ۲۰۴-۲۰۳؛ محمد بن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ۳۷؛ ابن ابی الحدید، شرح نہج البلاغہ (قاہرہ: دار احیاء الکتب العربیہ، ۱۹۶۲م)، ج ۱، ص ۲۱۸۔

5 واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ۲۰۳-۲۰۲؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ۷۳؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۶۶۔

6 واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ۲۰۴ اور ۲۰۶؛ ابن ابی الحدید، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۷؛ ایک نقل کی بنا پر قبیلہ خزاعہ جو کہ دوست دار پیغمبر اور مسلمان تھا۔ اس موضوع سے پیغمبر کو باخبر کیا (ابن ابی الحدید، گزشتہ حوالہ، ص ۲۱۸) اور ممکن ہے کہ دونوں طریقوں سے خبر پہنچی ہو۔

7 واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ۲۱۲-۲۱۳؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۶۷؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ۳۸۔

8 ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب (قم: المطبعۃ العلمیہ)، ج ۱، ص ۱۹۱؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۱۱۔

9 احد پہاڑ، مدینہ کے شمالی سمت میں واقع ہے۔ اور قدرتی روکاوٹوں کی بنا پر دشمن جنوب کی سمت سے مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا لہذا مجبور تھا کہ اطراف شہر کا چکر لگا کر شمال کی سمت سے حملہ کرے۔ (محمد حمید اللہ، رسول اکرم در میدان جنگ، ترجمہ سید غلام رضا سعیدی (تہران: مرکز انتشارات محمدی، ۱۳۶۳ھ، ش) ص

۸۵-۷۹۔

10 واقدی، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۱۹؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۳۹؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۶۸۔

11 سورہ آل عمران، آیت ۱۶۷؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ۲۱۹؛ طبری، مجمع البیان (شرکۃ المعارف الاسلامیہ، ۱۳۷۹ھ، ق) ج ۲، ص ۵۳۳۔

اسلامی لشکر جس کی تعداد کم ہو کر سات سو (۷۰۰) افراد ہو چکی تھی¹ پیغمبر اسلام لشکر اسلام کی تعداد کم ہونے کے باعث انھیں احد پہاڑ کے کنارے روکا۔ اس پہاڑ کو پیچھے مدینہ کو اپنے سامنے اور عینین پہاڑ کو مسلمانوں کے داہنی طرف قرار دیا² اسلامی لشکر مغرب کی سمت اور مشرکین، مشرق کی سمت میں تھے۔³ اس وقت پیغمبر اسلام نے پورے علاقے پر فوجی نقطہ نظر سے، نظر دوڑائی تو آپ کی توجہ عینین پہاڑ کی طرف مرکوز ہو گئی؛ کیونکہ ممکن تھا کہ دوران جنگ دشمن اس گوشے سے مسلمانوں کے محاذ کے پیچھے پہنچ جائے۔

اس بنا پر ایک مسلمان کمانڈر عبداللہ بن جبیر کو پچاس تیر اندازوں کے ساتھ اس گوشے کی حفاظت کے لئے مامور کیا اور فرمایا: ”چاہے ہم جیتیں یا ہاریں، تم لوگ یہیں رہنا اور اسپ سوار لشکر کو تیر اندازی کے ذریعہ ہم سے دور کر دینا تاکہ پشت کی جانب سے ہم پر حملہ نہ کر سکیں“⁴

ابوسفیان نے بھی لشکر کو آراستہ کیا اور علم دار کا انتخاب کیا، اس زمانہ میں ”علمدار“ میدان جنگ میں بہت اہم کردار ادا کرتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ علم کو کسی بہادر اور دلیر شخص کے ہاتھ میں دیا جاتا تھا۔ علمدار کی استقامت و پائیداری اور میدان جنگ میں علم کا لہرانہ سپاہیوں کے جوش و خروش کا باعث قرار پاتا تھا۔ اور اس کے برخلاف علمدار کا مارا جانا اور علم کی سرنگونی ان کے حوصلے کے پست اور ثبات قدم میں لغزش کا باعث بنتی تھی۔

- 1 طبری، اعلام اوری، (تہران: دار الکتب الاسلامیہ، ط ۳)، ص ۸۰؛ ابو سعید واعظ خرگوشی، شرف النبی، ترجمہ: نجم الدین محمد راوندی (تہران: انتشارات بابک، ۱۳۶۱ھ، ش)، ص ۳۴۵؛ حلبی، السیرۃ الحلبیہ (انسان العیون)، (بیروت: دار المعرفہ)، ج ۲، ص ۴۹۳؛ ابن ہشام، مغازی، حوالہ، ص ۷۰۔
- 2 واقدی، مغازی، حوالہ، ص ۲۲۰؛ ابن سعد، مغازی، حوالہ، ص ۳۹؛ نور الدین سمودی، وفاء الوفاء، باخبار دار المصطفیٰ (بیروت: دار احیاء التراث العربی، ط ۳، ۱۴۰۱ھ، ق)، ج ۱، ص ۲۸۳۔
- 3 واقدی، مغازی، حوالہ، ص ۲۲۰۔
- 4 مجلسی، مغازی، حوالہ، ج ۲، ص ۲۰۵ و ۲۰۹؛ رجوع کریں: ابن ہشام، مغازی، حوالہ، ج ۳، ص ۷۰؛ ابن سعد، مغازی، حوالہ، ج ۲، ص ۴۰ و ۳۹؛ سمودی، مغازی، حوالہ، ج ۱، ص ۲۸۵؛ محمد بن جریر الطبری، تاریخ الامم والملوک (بیروت: دار القا موس الحدیث)، ج ۳، ص ۱۳۔

5 تاریخی کتابوں میں مسلمان تیر اندازوں کے مورچے سنبھالنے کی جگہ کو ”پہاڑ“ یا وادی کا دہانہ کہا گیا ہے۔ عام طور سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ احد پہاڑ کے شگاف کی جگہ یہی ہے کہ جہاں سے جنگ کے دوسرے دور میں خالد بن ولید نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا۔ لیکن محمد بن سعد کاتب، واقدی، جس کے استاد کی رپورٹیں اور خبریں پیغمبر اسلام کے زمانہ کی جنگوں کے بارے میں خاص طور پر جغرافیائی لحاظ سے معتبر اور مستند ہیں، (الغازی، تحقیق: مارٹن جونز، مقدمہ، ص ۶، ق ۳۱)، وہ اس حصہ کو عینین کے نام سے ذکر کرتا ہے (طبقات الکبریٰ، ج ۲، ص ۳۹)، کہ جس کے بارے میں ہم نے بیان کیا ہے کہ وہ ایک پہاڑ تھا جو لشکر اسلام کے بائیں طرف موجود تھا۔ اور شاید اس لحاظ سے کہ اس کے بغل میں دو چشمے تھے۔ (الطبقات الکبریٰ، ج ۲، ص ۳۹)، اس کا نام عینین رکھا گیا ہو؛ کیونکہ عین کا ایک معنی، چشمہ ہے۔ مسلمانوں کے قدیم جغرافیہ دانوں نے اس حصہ کو پہاڑ کہا ہے۔ یا قوت حموی لکھتا ہے: ”عینین احد کا ایک پہاڑ ہے، اس کے اور احد کے درمیان ایک وادی ہے“ (معجم البلدان، ج ۲، ص ۱۷۴؛ مادہ عین، عبداللہ بکری اندلسی بھی کہتا ہے: ”عینین پہاڑ، احد میں واقع ہے اور پیغمبر اسلام نے جنگ احد میں تیر اندازوں کو اس پہاڑ پر ٹھہرا رکھا تھا“ (معجم المستعجم من سماء البلاد والمواضع، ج ۳، ص ۹۷۸؛ مادہ عین) تمام دستاویزات اور تاریخی و جغرافیائی قرائن و شواہد اور علاقہ احد کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ عینین سے مراد ایک مٹی کا ٹیلہ تھا جو احد پہاڑ کے سامنے اور شہر مدینہ کے بائیں طرف واقع تھا اور جنگ اس ٹیلہ اور پہاڑ کے قچ میں ہوئی ہے، اس جنگ کے شہداء، میدان جنگ ہی میں مدفون ہیں اور ان کی قبریں ان دونوں کے قچ میں ہیں۔ اس بنا پر تیر اندازوں کے مورچے سنبھالنے کی جگہ، احد کے پہاڑ میں نہیں تھی اور جیسا کہ خود مؤلف نے نزدیک سے اس جگہ کا مشاہدہ کیا ہے۔ اصولی طور پر احد پہاڑ میں کوئی ایسا شگاف نہیں موجود جس سے دو سو (۲۰۰)، گھوڑ سوار سپاہی گزر سکیں۔ پروفیسر محمد حمید اللہ، جس نے ۱۹۳۲-۱۹۳۵-۱۹۳۷-۱۹۳۸، عیسوی میں جنگ احد کے میدان کا دقیق طور سے مطالعہ اور تجزیہ کیا ہے اس سلسلہ میں اس نے اہم اور قیمتی تحقیقات انجام دی ہیں۔ رجوع کریں (رسول اکرم در میدان جنگ، ترجمہ سید غلام رضا سعیدی، ۹۵-۹۲۔

ابوسفیان نے علمداروں کو قبیلہ ”بنی عبدالدار“ سے (جو کہ شجاعت اور بہادری میں مشہور تھے)

انتخاب کیا اور ان سے کہا: ہم جانتے ہیں کہ تم عبدالدار علمداری کے لئے ہم سے لائق تر ہو اور علم کی اچھی طرح سے حفاظت کرتے ہو اور ہمارے خیال کو اس طرف سے مطمئن رکھو گے کیونکہ جب لشکر کا علم سرنگوں ہو گیا تو وہ لشکر ٹک نہیں پائے گا۔¹

جنگ کے پہلے مرحلے میں مسلمانوں کی فتح

ہجرت کے تیسرے سال² ۱۵ شوال کو جنگ شروع ہوئی اور زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مسلمان جیت گئے اور مشرکین ہار کھا کر بھاگنے لگے۔ ان کے شکست کی وجہ بہت زیادہ نقصان نہیں تھی؛ کیونکہ جنگ کے آخر تک کل نقصان (اس سلسلہ میں سب سے زیادہ تعداد جو نقل ہوئی ہے) پچاس افراد سے زیادہ کا نہیں ہوا تھا۔³ اور یہ تعداد لشکر شرک کی کل تعداد کے بہ نسبت بہت ہی کم تھی۔ بلکہ ان کے شکست کھانے کی وجہ علمدار کا مارا جانا تھا۔ ان میں سے نو افراد علیؑ کے قوی ہاتھوں کے ذریعہ ہلاک ہوئے تھے۔⁴ اور مسلسل علم کے گرنے کی وجہ سے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ فرار کرنے لگے۔⁵

علیؑ نے بعد میں اس موضوع کو دلیل بنایا جیسا کہ عمر کے قتل ہو جانے کے بعد خلیفہ کے انتخاب کے لئے جو چھ افراد پر مشتمل شوریٰ بنی اس میں اس موضوع کو آپ نے اپنے درختاں کار ناموں کا ایک حصہ سمجھ کر تذکرہ کیا جس کی تائید شوریٰ کے افراد نے کی۔⁶

قریش کے علمدار کے قتل ہونے کے بعد لشکر شرک کی صفوں میں ہلچل مچ گئی اور سب فرار کرنے لگے۔ اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کرتے وقت جب میدان جنگ میں مال غنیمت کو دیکھا تو اس کو اکٹھا کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اکثر تیر اندازوں نے جب یہ منظر دیکھا تو مال غنیمت جمع کرنے کی لالچ میں اس خیال سے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اپنے محاذ کو چھوڑ دیا اور پیغمبر اسلام کے دستور کے بارے میں عبداللہ بن جبیر کے خبردار کرنے پر بھی کوئی توجہ نہیں دی۔⁷

1 واقدیؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۲۱؛ ابن ہشامؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۱۰۶۔

2 مجلسیؒ، بحار الانوار، ج ۲۰، ص ۱۸؛ عسقلانیؒ، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، دار احیاء التراث العربی، ط ۱۳۲۸ھ، ج ۱، ص ۳۵۴۔ تیسرے ساتویں، آٹھویں، نویں، اور گیارہویں روز بھی بیان کیا گیا ہے۔ (تاریخ الامم والملوک، ج ۳، ص ۱۳، وفاء الوفاء باخبار دار المصطفیٰ، ج ۱، ص ۲۸۱)۔

3 رجوع کریں: السیرۃ الخلبیہ، ج ۲، ص ۵۴، کل قتل ہونے والے مشرکین کی تعداد ۲۳ اور ۲۸ افراد نقل ہوئی ہے۔ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ، ج ۱۵، ص ۵۴؛ ابن سعد، طبقات الکبریٰ، ج ۲، ص ۴۳؛ بلاذریؒ، اسباب الاشراف، ج ۱، ص ۳۲۸۔

4 شیخ مفیدؒ، الارشاد (قم: الموتر العالمی للفتیۃ الشیخ المفید، ط ۱۴۱۳ھ۔ ق)، ص ۸۸؛ مجلسیؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۲۰، ص ۵۱؛ مجمع البیان، (شرکت المعارف الاسلامیہ)، ج ۲، ص ۴۹۶۔

5 طبریؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۱۷؛ ابن سعدؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۴۱؛ سمودیؒ، وفاء الوفاء، ج ۱، ص ۲۸۸؛ مجلسیؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۲۰، ص ۲۶۔

6 صدوقؒ، الخصال، (قم: منشورات جامعۃ المدر سین فی الجامعہ العلمیہ، ۱۴۰۳ھ۔ ق)، ص ۵۶۰۔

7 سورہ آل عمران، آیت ۱۵۲۔

مشرکوں کی فتح

تیر اندازوں کی خلاف ورزی کے سبب جنگ کی صورت حال بدل گئی؛ کیونکہ خالد بن ولید نے دوسو (۲۰۰) سواروں کے ساتھ اس جگہ پر حملہ کر دیا جہاں کے بارے میں پیغمبرؐ نے اپنے سپاہیوں کو آگاہ کیا تھا اور عبداللہ بن جبیر کو بچے ہوئے دس افراد کے ساتھ شہید کر دیا اور پشت محاذ سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔

دوسری طرف سے عمرہ۔ علقمہ کی لڑکی اور قریش کی ایک عورت جو کہ میدان جنگ میں موجود تھیں۔ نے علم کو زمین سے اٹھا کر فضا میں لہرا دیا۔¹ قریش خالد کے حملے اور پرچم کو لہراتا ہوا دیکھ کر خوشحال ہو گئے اور انھوں نے دوبارہ حملہ کر دیا۔²

چونکہ اس وقت مسلمانوں کی فوج تتر بتر گئی تھی اور کمانڈروں کا رابطہ سپاہیوں سے ٹوٹ گیا تھا۔ لہذا وہ مقابلہ نہیں کر سکے اور بری طرح سے شکست کھا گئے۔ چند دوسرے محرکات بھی اس شکست کا باعث بنے، وہ یہ ہیں:

۱۔ پیغمبر اسلام کے قتل ہونے کی افواہ۔³

۲۔ اس زمانے میں دونوں طرف کی فوجیں مخصوص لباس نہیں رکھتی تھیں اور میدان جنگ میں صرف نعروں کے ذریعہ ایک دوسرے کی فوج کو پہچانا جاتا تھا۔ جب قریش نے دوبارہ حملہ کیا تو مسلمانوں کی صفیں زیادہ سرگرداں ہو گئیں اور ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اس طرح تلوار چلانے لگے⁴ کہ حسیل بن جابر (حنیفہ بن یمان کے والد) مسلمانوں کے ہاتھ مارے گئے۔⁵ لیکن جب اپنی حالت سمجھ گئے تو دوبارہ نعرہ بلند کیا اور جنگ کا نقشہ بدلا۔⁶

۳۔ ہوانے سمت بدلی، اس وقت تک جو ہوا مشرق سے چل رہی تھی۔ وہ مغرب سے چلنے لگی اور جنگ کو مسلمانوں پر دشوار کر دیا۔⁷

1 ابن ہشام ہگزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۸۳؛ طبری ہگزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۱۷؛ مجلسی ہگزشتہ حوالہ، ج ۲۰، ص ۵۱؛ طبری، مجمع البیان، ج ۲، ص ۴۹۶۔ حسان بن ثابت - پیغمبر اسلام کا شاعر۔ نے اس مناسبت سے ایک شعر میں قریش کی مذمت کی ہے اور کہا ہے: اگر اس دن عمرہ نہ ہوتا تو بردہ فروشوں کے بازار میں بیچ دیئے جاتے (ابن ہشام ہگزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۸۴؛ ابن ابی الحدید ہگزشتہ حوالہ، ج ۱۴، ص ۲۱۷)۔

2 ابن سعد ہگزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۴۱-۴۲؛ ابن ہشام ہگزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۸۲؛ طبری ہگزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۱۷؛ مجلسی ہگزشتہ حوالہ، ج ۲۰، ص ۴۹-۲۶۔

3 ابن ہشام ہگزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۸۲؛ مجلسی ہگزشتہ حوالہ، ج ۲۰، ص ۴۹-۲۶۔

4 ابن سعد ہگزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۴۲؛ رجوع کریں: وفاء الوفاء، ج ۱، ص ۲۸۶۔

5 ابن سعد ہگزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۴۳ و ۴۵؛ ابن ہشام ہگزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۹۳؛ سمودی ہگزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۸۸؛ سید علی جان مدنی، الدرجات الرفیعة (قم: منشورات مکتبہ بصیرتی، ۱۳۹۷ھ، ق) ص ۲۸۳۔

6 بلاذری، انساب الاشراف، تحقیق: محمد حمید اللہ (قاہرہ: دار المعارف، ط ۳)، ص ۳۲۲۔

7 ابن سعد ہگزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۴۲۔

بہر حال مسلمانوں کی صفیں اس طرح سے منتشر ہوئیں کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ فرار کر گئے اور کچھ لوگ پہاڑ کی چوٹی پر بھاگ گئے جبکہ پیغمبر اسلام نے خود میدان جنگ میں مقابلہ کیا اور بھاگنے والوں سے پائیداری اور استقامت کے لئے کہا۔¹ صرف علیؑ اور چند دوسرے افراد میدان جنگ میں ڈٹے رہے۔²

علیؑ، پیغمبرؐ کے بغل میں کھڑے ہو کر تلوار چلا رہے تھے اور کئی مرتبہ انھوں نے پیغمبرؐ سے دشمنوں کے حملوں کو دور کیا۔³ اور آپ کی بے نظیر استقامت و پائیداری کی بنا پر آسمان احد میں صدائے نبیؐ گونجی:

لا فتیٰ الا علی و لاسیف الا ذو الفقار۔⁴

یہاں تک کہ ایک مسلمان نے پیغمبرؐ کو پہچان لیا اور میدان جنگ میں باقی رہ جانے والے چند افراد (یا فرار کے بعد واپس آنے والے افراد) آنحضرتؐ کے گرد اکٹھا ہوئے اور جنگ کے عالم میں احد پہاڑ کے کنارے پہنچے⁵ اور جنگ کی گردوغبار بیٹھی۔

اس موقع پر ابوسفیان نے مسلمانوں کے حوصلہ کو کمزور کرنے کے لئے افواہیں پھیلانا شروع کر دیں اور نفسیاتی جنگ چھیڑ دی اور نعرے لگانے لگا: اعلٰی ہبل اعلٰی ہبل، سرفراز ہوا اے ہبل، سرفراز ہوا اے ہبل! پیغمبرؐ نے اس کے نعرے کے جواب میں فرمایا: اللہ اعلیٰ و اجل۔ خدا بلند و برتر ہے! ابوسفیان نے کہا: لانا العزی ولا عزی لکم۔ ہم عزی بت رکھتے ہیں اور تم عزی نہیں رکھتے ہو۔ پیغمبرؐ کے حکم سے ایک مسلمان نے اس کے جواب میں کہا: اللہ مولیٰ ولا مولیٰ لکم۔

خدا ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔⁶

اس جنگ میں (بنا بر مشہور) ستر⁷ افراد مسلمانوں میں سے جن میں جناب حمزہ۔ رسولؐ کے چچا۔ اور مصعب بن عمیر بھی تھے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ جبکہ احد میں مسلمانوں نے شکست کھائی اور قریش کے سپاہیوں میں سے کوئی نہیں مرا اور ظاہری محاسبات کی بنیاد پر اگر وہ لوگ اس وقت مدینہ پر بھی حملہ کرتے تو کامیاب ہو جاتے لیکن قریش کے سردار اس اقدام⁸ کے انجام سے پریشان ہوئے اور اس سے چشم پوشی کر

1 سورہ آل عمران، آیت ۱۵۴-۱۵۳؛ بلاذریؒ، گزشتہ حوالہ، ص ۳۱۸؛ طبریؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۲۰؛ ابن سعدؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۴۷؛ ابن ابی الحدیدؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۱۵، ص ۲۳ و ۲۵۔

2 ابن سعدؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۴۷؛ ابن ابی الحدیدؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۱۵، ص ۲۱ و ۲۹۔

3 شیخ مفیدؒ، الارشاد، (تم: الموتر العالمی للافیہ الشیخ المفید، ۱۳۱۳ھ، ق)، ص ۸۹؛ طبریؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۱۳، ص ۲۵۰؛ حافظ بن عساکرؒ، تاریخ مدینہ دمشق (ترجمہ الامام علی ابن ابی طالبؑ)، تحقیق: محمد باقر المحمودی (بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، ۱۳۹۵ھ، ق)، ج ۱، ص ۱۵۰؛ مجلسیؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۸۸۔

4 طبریؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۱۷؛ ابن ابی الحدیدؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۱۲، ص ۱۲؛ شیخ مفیدؒ، گزشتہ حوالہ، ص ۸۷؛ مجلسیؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۱۰۵، ۱۰۷۔

5 طبریؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۱۹؛ ابن ہشامؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۸۹-۸۸؛ مجلسیؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۵۴۔

6 ابن سعدؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۴۸-۴۷؛ بلاذریؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۲۷؛ طبریؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۲۴؛ ابن ابی الحدیدؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۱۵، ص ۳۱-۳۰؛ ابوسعید واعظؒ، خرگوشی، شرف النبیؐ، ترجمہ نجم الدین محمود راوندی (تہران: انتشارات بابک، ۱۳۶۱ھ، ق)، حلبیؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۵۳۱؛ مجلسیؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۳۲ و ۳۵۔

7 بلاذریؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۲۸؛ طبریؒ، اعلام الوریٰ (تہران: دارالکتب الاسلامیہ، ط ۳)، ص ۸۲؛ ابوسعید واعظؒ، خرگوشی، گزشتہ حوالہ، ص ۳۴۶؛ سمودیؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۲۹۲-۲۹۱؛ مجلسیؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۱۸؛ حلبیؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۵۴۔

8 ابن ہشامؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۱۱۰؛ حلبیؒ، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۵۵۰۔

کے مکہ واپس چلے گئے اور مسلمانوں سے انتقام لیکر خوش ہو گئے تھے کہ بدر میں جتنے لوگ ان کے مارے گئے تھے اتنے کو انھوں قتل کر دیا ہے جبکہ نہ مدینے کو کوئی نقصان پہنچا تھا اور نہ شام کا تجارتی راستہ آزاد ہوا تھا۔ اس خیال سے کہ کہیں دشمن یہ گمان نہ کریں کہ مسلمانوں کو پھل دیا ہے۔ اور مدینہ پر حملہ کی جرأت نہ کر سکیں، پیغمبرؐ نے جنگ کے ایک دن بعد، اسلامی سپاہیوں کے ساتھ جو زیادہ تر زخمی تھے، سرزمین ”حمرہ الاسد“ تک مشرکوں کا پیچھا کیا اور جب اطمینان حاصل ہو گیا کہ وہ دوبارہ حملے کا ارادہ نہیں رکھتے تو آپ مدینہ پلٹ آئے۔¹

جنگ احد کے نتائج

جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست کے کچھ آثار و نتائج یہ ہیں:

۱۔ اگرچہ اس جنگ میں فوجی لحاظ سے مسلمانوں نے شکست کھائی۔ لیکن ان کے لئے یہ عبرت تھی کہ آئندہ فرمان پیغمبرؐ سے سرپیچی نہ کریں اور بعد کی جنگوں میں اس طرح کی خلاف ورزیاں دوبارہ نہ ہوں۔

۲۔ منافقین فتنہ انگیزی پر آئے اور مسلمانوں کی شکست پر خوشی کا اظہار کرنے لگے لہذا ان کی مذمت کی گئی۔²

۳۔ یہودیوں نے بھی اپنے کینہ کو آشکار کر دیا اور کہا: محمدؐ، بادشاہی کے چکر میں ہیں۔ اور کوئی بھی پیغمبر اس طرح سے شکست نہیں کھایا ہے۔³

۴۔ دشمنان اسلام، اطراف مدینہ میں گستاخ ہو گئے اور سازش اور فتنہ انگیزی کرنے لگے۔

مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے قبیلہ بنی اسد کی ناکام نقل و حرکت کا نمونہ واقعہ ”رجیع“ اور واقعہ ”بئر معونہ“ ہے۔

۵۔ مسلمانوں کے مدینہ پلٹنے کے بعد غم و اندوہ کا بادل شہر پر چھا گیا اور مایوسی اور ناامیدی پورے شہر میں نظر آرہی تھی۔ اور منافقوں اور یہودیوں کے شیطانی وسوسے بھی احد میں ابوسفیان کی نفسیاتی جنگ کو مدینہ میں اپنائے ہوئے تھے اور اس طرح نقصان پہنچا رہے تھے۔ خداوند عالم نے سورہ آل عمران کی کچھ آیات کے ذریعہ ان کے اثرات کو ختم کیا اور مسلمانوں کے حوصلہ کو بلند کیا۔ ابن اسحاق کے کہنے کے مطابق اس سورہ کی ۶۰ آیتیں جنگ احد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔⁴

خداوند عالم نے ان آیات میں مسلمانوں کو شکست کے راز کی طرف متنبہ کیا ہے اور ان کو خبردار کیا ہے کہ اگر ”فوجی شکست“ کھائے ہیں تو وہ ناامید نہ ہوں کہ ”نفسیاتی شکست“ بھی کھائیں اور نیز ان کو متوجہ کیا کہ ان کے ”شکست کاراز“ ”فوجی قوانین کی عدم پابندی“ اور مال دنیا کی طرف توجہ تھی اگر بدر میں خدا کی مدد سے کامیاب ہوئے تو اس بنا پر تھا کہ صرف خدا کے لئے لڑ رہے تھے لیکن اس جنگ میں مال

1 ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۱۱۰ اور ۱۱۰؛ ابن ابی الحدید، گزشتہ حوالہ، ج ۱۵، ص ۳۳-۳۱؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۵۵۰؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج ۲۰، ص ۳۰۴ اور ۹۹۔

2 واقدی، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۱۸-۳۱۷۔

3 واقدی، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۱۷؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۵۴۹۔

4 ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۱۱۲۔

غنیمت کے چکر میں پڑ گئے اور شکست کھا گئے۔ (یہاں پر سورہ آل عمران کی کچھ آیات کا ترجمہ پیش ہے) ”اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی ہے جب کہ تم کمزور تھے لہذا اللہ سے ڈرو شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔“

اور اللہ و رسول کی اطاعت کرو کہ شاید رحم کے قابل ہو جاؤ۔ خبردار سستی نہ کرنا، مصائب پر محزون نہ ہونا، اگر تم صاحب ایمان ہو تو سر بلندی تمہارے ہی لئے ہے۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو قوم کو بھی (دشمنوں) اس سے پہلے (بدر میں) ایسی ہی تکلیف پہنچ چکی ہے اور ہم (یام) فتح و شکست) کو لوگوں کے درمیان الٹے پلٹتے رہتے ہیں تاکہ خدا صاحبان ایمان کو دیکھ لے اور تم میں سے بعض کو گواہ قرار دے اور وہ ظالمین کو دوست نہیں رکھتا ہے۔

کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جب کہ خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو بھی نہیں جانا ہے۔ تم موت کی ملاقات سے پہلے اس کی بہت تمنا کیا کرتے تھے اور جیسے ہی اسے دیکھا، دیکھتے رہ گئے۔ خدا نے اپنا وعدہ اس وقت پورا کر دیا جب تم اس کے حکم سے کفار کو قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ تم نے کمزوری کا مظاہرہ کیا اور آپس میں جھگڑا کرنے لگے اور اس وقت خدا کی نافرمانی کی جب اس نے تمہاری محبوب شے کو دکھلادیا تھا۔ تم میں کچھ دنیا کے طلب گار تھے اور کچھ آخرت کے۔ اس کے بعد تم کو ان کفار کی طرف سے پھیر دیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے اور پھر اس نے تمہیں معاف بھی کر دیا کہ وہ صاحبان ایمان پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔

کیا جب تم پر وہ مصیبت پڑی جس کی دو گنی تم کفار پر ڈال چکے تھے تو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ایسے ہو گیا تو پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ یہ سب خود تمہاری طرف سے ہے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔¹

جنگ احد میں شکست سے مسلمانوں کے فوجیوں کا اعتبار ختم ہو گیا اور باعث بنا کہ مدینہ کے اطراف میں دشمنان اسلام، مسلمانوں کے خلاف سازش کریں اور مدینہ پر حملہ کی سازش اور نقشہ تیار کرنے کے لئے ایسے وقت کا انتخاب، مسلمانوں کی فوجی کمزوری کی خاطر تھا۔² ان سازشوں کے چند نمونے یہ ہیں:

۱۔ سر یہ ابو سلمہ: پیغمبر اسلام کو خبر ملی کہ ”قبیلہ بنی اسد“ نے مدینہ پر حملہ کا ارادہ کر لیا ہے لہذا آنحضرتؐ نے ”ابو سلمہ کو ایک سو پچاس افراد کا کمانڈر بنا کر ان کے علاقہ میں بھیج دیا اور حکم دیا کہ قبل اس کے کہ دشمن حملہ کریں تم ان پر حملہ کر دینا۔ لہذا یہ لوگ نزدیک راستے سے، بہت تیزی کے ساتھ بنی اسد کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ جب ان کے قافلہ والوں نے دیکھا تو مبہوت اور ہوا سا باختہ ہو گئے اور فوراً فرار کر گئے اور ابو سلمہ مال غنیمت اور چند اسیروں کو لے کر مدینہ پلٹ آئے۔³

اس کامیابی سے کسی حد تک مسلمانوں کے فوجیوں کا اعتبار بلند ہوا اور منافقین و یہودی اور اطراف مدینہ کے قبائل سمجھ گئے کہ ان کی سوچ و فکر کے برخلاف، مسلمان ابھی کچلے نہیں گئے ہیں۔

۲۔ واقعہ رجب: ماہ صفر ۴ھ میں قبیلہ ”بنی لحيان“ کے ورغلانے پر ”قبیلہ عضل و قارہ“ کے چند افراد، مدینہ میں داخل ہوئے اور اظہار اسلام کے ساتھ پیغمبرؐ سے کہا: ہمارے قبیلہ سے کچھ افراد مسلمان ہو گئے ہیں، کسی کو آپ بھیجے جو ہم کو قرآن اور اسلامی احکام کی تعلیمات دے،

1 سورہ آل عمران، ۱۲۳، ۱۳۲، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۵۲ اور ۶۵ ویں آیتیں۔

2 واقدی، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۴۲۔

3 گزشتہ حوالہ، ص ۳۴۳۔ ۳۴۰؛ محمد بن سعد، طبقات الکبریٰ، ج ۲، ص ۵۰۔

پیغمبر اسلام نے دس افراد¹ کو ان کے ہمراہ بھیجا۔ جب وہ لوگ قبیلہ ہذیل کے ”رجیع“ نامی مقام پر پانی کے کنارے پہنچے تو قبیلہ عضل و قارہ کے افراد نے بنی لحيان کی مدد سے ان پر حملہ کر دیا، مبلغین اسلام نے دفاع کیا لیکن ایک طرفہ جنگ میں اکثر شہید ہو گئے اور دو افراد اسیر ہوئے۔ مشرکین ان دو اسیروں کو مکہ لے کر گئے اور انھیں جنگ بدر کے مقتولین کے ورثہ کے ہاتھوں بیچ دیا اور ان لوگوں نے ان دو اسیروں کو بہت ہی دردناک اور فحش طریقہ سے شہید کر دیا۔²

ایسا لگتا ہے کہ مذکورہ دو قبیلوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ ساز باز کر رکھا تھا اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انھوں نے ایسی خیانت کی۔

۳۔ بُر معونہ کا قصہ: یہ واقعہ واقعہ رجیع سے زیادہ دردناک اور دلخراش تھا۔ اور ماہ صفر ۴ھ میں رونما ہوا۔ ابوراء۔ قبیلہ بنی عامر کا بزرگ۔ مدینہ میں پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور بغیر اسلام کا اظہار کئے یا اس کی طرف بے رغبتی کا اظہار کئے ہوئے درخواست کی کہ آنحضرتؐ اپنے اصحاب کے ایک گروہ کو ”نجد“ کے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لئے اس علاقہ میں بھیجیں، شاید وہ اسلام کو قبول کر لیں۔

پیغمبر اسلام نے فرمایا: ”میں نجد کے لوگوں سے مسلمانوں کے بارے میں ڈرتا ہوں۔“

ابوراء نے کہا: ”یہ لوگ ہمارے پناہ میں رہیں گے۔“ پیغمبر اسلام نے اپنے بہترین اصحاب اور قاریان قرآن میں سے ستر³ افراد کو بھیجا۔ یہ گروہ جب ”بُر معونہ“ پر پہنچا، تو اپنے ایک قاصد کو پیغمبر اسلام کا ایک خط دے کر عامر بن طفیل کے پاس بھیجا۔ اس نے خط کو نہیں پڑھا اور اس کو قتل کر دیا۔ اس وقت بنی عامر سے اس کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لئے مدد مانگی تو ان لوگوں نے ابوراء کے امان کے احترام میں اس کام سے اجتناب کیا۔ عامر بن طفیل نے قبیلہ ”بنی سلیم“ کے کچھ افراد کی مدد سے مبلغین اسلام کے گروہ پر حملہ کر دیا تو مجبور ہو کر انھوں نے اپنا دفاع کیا اور صرف کعب بن زید اور عمرو بن امیہ خمری کے علاوہ سب شہید ہو گئے۔⁴

عمرو بن امیہ دشمن کے ذریعہ اسیر ہوا اور پھر آزاد ہو کر مدینہ پہنچے وقت بنی عامر کے دو افراد کو جو کہ پیغمبرؐ کے ساتھ عہد و پیمان کئے ہوئے تھے (اور وہ اس سے بے خبر تھا) قتل کر دیا۔⁵

1 بعض مورخین کے کہنے کے مطابق چھ یا سات افراد تھے (ابن ہشامؒ گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۱۷۸؛ ابن شہر آشوبؒ گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۹۴؛ واقدیؒ گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۵۵)۔

2 واقدیؒ گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۶۲-۳۵۴؛ ابن سعدؒ گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۵۶-۵۵؛ ابن ہشامؒ گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۱۹۲-۱۷۸؛ ابن شہر آشوبؒ گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۹۵-۱۹۴؛ مجلسیؒ گزشتہ حوالہ، ج ۲۰، ص ۱۵۲-۱۵۱۔

3 ایک نقل کے مطابق چالیس آدمی تھے (طبریؒ تاریخ الامم والملوک، ج ۳، ص ۳۴؛ ابن ہشامؒ السیرۃ النبویہ، ج ۳، ص ۱۹۴؛ واقدیؒ المغازی، ج ۱، ص ۳۴)۔
4 طبریؒ گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۳۴-۳۳؛ طبریؒ، مجمع البیان، (شرکت المعارف الاسلامیہ)، ج ۲، ص ۵۳۳؛ ابن شہر آشوبؒ، مناقب آل ابی طالب (قم: المطبعة العلمیہ)، ج ۱، ص ۱۹۶-۱۹۵؛ مجلسیؒ گزشتہ حوالہ، ج ۲۰، ص ۱۳۸-۱۳۷؛ واقدیؒ گزشتہ حوالہ، ص ۳۴۸-۳۴۶؛ ابن ہشامؒ گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۱۹۳؛ ابن سعدؒ طبقات الکبریٰ، ج ۲، ص ۵۳-۵۱۔

5 طبریؒ گزشتہ حوالہ، ص ۳۴؛ ابن ہشامؒ گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۱۹۵؛ ابن سعدؒ گزشتہ حوالہ، ص ۵۳۔

بنی نضیر کے ساتھ جنگ¹

عمرو بن امیہ کے ذریعہ بنی عامر (پیغمبر اسلام کے ہم پیمان) کے دو افراد کے قتل ہونے پر پیغمبر اسلام نے اس واقعہ پر افسوس اور ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا: ”ان کو ہمیں دیت دینی چاہیے“۔²

دوسری طرف سے قبیلہ بنی عامر نے ایک خط کے ذریعہ ان سے دیت کا مطالبہ کیا۔³

اس لئے کہ بنی عامر نے قبیلہ بنی نضیر کے ساتھ بھی عہد و پیمان کیا تھا۔ پیغمبر اسلام ان کو دیت دینے کے لئے مہاجر و انصار کے چند افراد کے ساتھ مدینہ کے اطراف میں ان کے ٹیلہ کے پاس گئے اور ان سے باتیں کیں۔ بنی نضیر کے سردار تیار ہو گئے۔ لیکن خفیہ طور پر ایک شخص کو بھیجا تا کہ دیوار کے اوپر جا کر جہاں پیغمبر بیٹھے تھے ایک بڑا پتھر پھینک کر آپ کو قتل کر دے۔ رسول اسلام غیبی راستے سے ان کی اس سازش سے آگاہ ہو گئے۔⁴ اور فوراً اس جگہ کو ترک کر کے مدینہ واپس چلے آئے اور ان کو خبردار کیا کہ مدینہ کو ترک کر دیں اور اپنے مال و اثاث کو اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں۔

وہ لوگ مرعوب ہو کر مدینہ سے چلے گئے؛ لیکن عبد اللہ بن ابی نے ان کو مقابلہ کرنے کے لئے کہا اور ان سے وعدہ کیا کہ جنگ پیش آنے کی صورت میں مسلح افراد کے ساتھ ان کی مدد کریں گے۔ اور اگر انھیں مدینہ سے نکالا گیا تو وہ بھی مدینہ کو ترک کر دیں گے۔⁵

کچھ تاریخی خبریں بتاتی ہیں کہ اس واقعہ سے قبل، قریش نے ان کو مسلمانوں کے خلاف سازش اور جنگ کرنے کے لئے ورغلا یا تھا۔⁶ اور اس واقعہ میں ان کا بھڑکانا اور ورغلانا بے اثر نہیں تھا۔

بنی نضیر، عبد اللہ کے جھوٹے وعدوں سے دھوکہ کھا گئے اور مدینہ ترک کرنے سے پھر گئے۔

پیغمبر کے حکم پر لشکر اسلام نے پندرہ دن تک ان کے قلعہ کا محاصرہ کیا۔ اس عرصہ میں کہیں سے مدد کی کوئی خبر نہیں آئی لہذا وہ مجبور ہو کر، پیغمبر اسلام کی موافقت پر اپنے اسلحوں کو زمین پر ڈال کر اپنے مال و اثاثہ زندگی کو اونٹوں پر لاد کر کچھ لوگ اذرعات شام اور کچھ لوگ جن میں ان کا رئیس حی ابن اخطب بھی تھا۔ خیبر کی طرف چلے گئے۔ اور اہل خیبر نے ان کا پر جوش استقبال کیا اور ان سے اظہار اطاعت کیا۔⁷

1 کچھ مورخین اور سیرت نگاروں نے (مشہور قول کے برخلاف) اس واقعہ کی تاریخ، جنگ احد سے قبل اور اس کی وجہ دوسری چیز ذکر کی ہے۔ استاد علامہ سید جعفر مرتضیٰ العالی نے اس نقل کو ترجیح دیا ہے (الصحيح من سيرة النبي الأعظم، ج ۶، ص ۴۴-۴۳)

2 ابن سعد، طبقات الکبریٰ، ج ۲، ص ۵۳؛ ابن ہشام، غزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۱۹۵؛ طبری، تاریخ الامم والملوک، ج ۳، ص ۳۵؛ واقدی، غزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۵۲۔

3 واقدی، غزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۵۲ اور ۳۶۴۔

4 یہی غزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۳۳۵؛ واقدی، غزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۶۶-۳۶۵؛ طبری، اعلام الوریٰ باعلام الہدیٰ (تہران: دار الکتب الاسلامیہ)، ص ۸۸۔

5 سورہ حشر، آیت ۱۱؛ طبری، مجمع البیان، (تہران: شرکت المعارف الاسلامیہ، ۱۳۷۹ھ، ق) ج ۱۰، ص ۳۶۴؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۰، ص ۱۶۵ اور ۱۶۹۔

6 سمودی، وفاء الوفاء، ج ۱، ص ۲۹۸-۲۹۷۔

7 ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۳، ص ۲۰۳-۱۹۹؛ طبری، غزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۳۹-۳۶؛ واقدی، المغازی، ج ۱، ص ۳۸۰-۳۶۳؛ بلاذری، انساب الاشراف، تحقیق: محمد حمید اللہ (قاہرہ: دار المعارف)، ص ۳۳۹؛ رجوع کریں: سمودی، وفاء الوفاء، ج ۱، ص ۲۹۸-۲۹۷۔

چونکہ بنی نضیر بغیر جنگ کے تسلیم ہوئے تھے۔ لہذا ان کے مال و اثاثہ کو بہ شکل ”خالصہ“¹ پیغمبر اسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آنحضرتؐ نے مہاجر و انصار کے درمیان پیمان اخوت و برادری کی بنیاد پر انصار کی مرضی اور موافقت سے اس کو مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیا۔²

خداوند عالم نے قرآن مجید میں بنی نضیر کی خیانت اور ان کے برے انجام کا اس طرح سے تذکرہ فرمایا ہے :

”وہی وہ ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلے ہی حشر میں ان کے وطن سے نکال باہر کیا تم تو اس کا تصور بھی نہیں کر رہے تھے کہ یہ نکل سکیں گے اور ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ان کے قلعے انھیں خدا سے بچالیں گے لیکن خدا ایسے رخ سے پیش آیا جس کا انھیں وہم و گمان بھی نہیں تھا اور ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور صاحبان ایمان کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے تو صاحبان نظر عبرت حاصل کرو۔ اور اگر خدا نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو ان پر دنیا ہی میں عذاب نازل کر دیتا اور آخرت میں تو جہنم کا عذاب طے ہی ہے۔ یہ اس لئے کہ انھوں نے اللہ اور رسول سے اختلاف کیا اور جو خدا سے اختلاف کرے اس کے حق میں خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔“³

جنگ خندق (احزاب)

یہ جنگ ۹ ماہ شوال ۵ھ میں ہوئی 4 جنگ کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ ”حی ابن اخطب“ اور ”بنی نضیر“ کے کچھ سردار جو خیبر میں پناہ لئے ہوئے تھے نیز قبیلہ بنی وائل کا ایک گروہ مکہ میں قریش سے ملا اور ان کو پیغمبر اسلام سے جنگ کے لئے رغبت دلائی اور اس راہ میں ان کی ہر طرح کی مدد و نصرت کا وعدہ کیا۔

قریش نے ان سے پوچھا: کہا ہمارا دین بہتر ہے یا محمدؐ کا دین؟ وہ یہودی اور خدا پرست تھے اور فطری طور پر انھیں بت پرستی کی تائید نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کہنے لگے: تمہارا دین محمدؐ کے دین سے بہتر ہے۔ اور تم حق سے نزدیک تر ہو۔

قریش ان کی باتوں سے خوش حال ہو کر جنگ کے لئے آمادہ ہو گئے۔ خداوند عالم ان کے دشمنانہ فیصلہ کی اس طرح مذمت فرماتا ہے۔

”کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کو کتاب کا کچھ حصہ دے دیا گیا وہ شیطان اور بتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کفار کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔“

یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے اور جس پر خدا لعنت کر دے آپ پھر اس کا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔⁵

1 ابن ہشام گزشتہ حوالہ، ص ۲۰۱؛ سمودی گزشتہ حوالہ، ص ۲۹۸؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۰، ص ۶۶ اور ۱۷۳۔

2 سمودی گزشتہ حوالہ، ص ۲۰۱؛ ابن ہشام گزشتہ حوالہ، ص ۲۰۱؛ واقدی گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۷۷؛ مجلسی گزشتہ حوالہ، ص ۱۷۲-۱۷۱۔

3 سورہ حشر، آیت ۲۴؛ ابن عباس سورہ حشر کو سورہ ”بنی نضیر“ کہتے ہیں (طبرسی، مجمع البیان، ج ۱۰، ص ۲۵۸)۔

4 بلاذری گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۴۳؛ ابن سعد گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۶۵؛ ابن ہشام گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۲۲۴۔

5 سورہ نساء، آیت ۵۲-۵۱۔

یہودی لیڈروں کا یہ کینہ توڑ فیصلہ، عدل و انصاف اور منطق سے اس قدر دور تھا کہ آج کے دور کے بعض یہودی، اس فعل کی وجہ سے ان کی مذمت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرائیل ولفون یہودی، ”سرزمین عرب میں یہودیوں کی تاریخ“ نامی ایک کتاب میں لکھتا ہے:

”ان کو اتنی واضح اور آشکار غلطی نہیں کرنا چاہیے کہ قریش کے لیڈروں کے سامنے بتوں کی عبادت کو توحید اسلامی سے افضل و برتر بتائیں اگرچہ قریش ان کے تقاضا کو رد کر دیتے کیونکہ بنی اسرائیل بت پرستوں کے درمیان صدیوں سے پرچمدار توحید تھے۔¹

بہر حال، یہودیوں کے لیڈر پھر قبیلہ ”غطفان“ کے پاس گئے اور ان سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے میں ساتھ دینے کے لئے کہا² اس قبیلہ سے خاندان بنی فزارہ، بنی مرہ اور بنی اشجع نے حمایت کا اعلان کیا³ اور اسی طرح قبیلہ بنی سلیم اور بنی اسد کی بھی حمایت حاصل کر لی۔⁴

قریش نے بھی اپنے اتحادیوں اور حامیوں، جیسے قبیلہ ثقیف اور بنی کنانہ کی حمایت حاصل کر لی۔⁵ اور اس طریقے سے ایک طاقتور فوجی اتحاد وجود میں آگیا اور ایک دس ہزار کا لشکر⁶ ابوسفیان کی سرکردگی میں مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ مدینہ کے راستہ میں، حی ابن اخطب نے ابوسفیان سے وعدہ کیا کہ قبیلہ بنی قریظہ کو بھی جس کے پاس سات سو پچاس (۷۵۰)

جنگجو تھے، ان کے لشکر کی حمایت میں جنگ میں شامل کریں گے۔⁷

اس لحاظ سے قریش اور یہودیوں نے اس جنگ کی تیاری میں عظیم دولت صرف کر دی اور سپاہیوں کو مختلف قبائل سے اکٹھا کیا وہ اس جنگ کو کامیاب ترین جنگ تصور کرتے تھے اور قصد کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔

پیغمبر اسلام، قبیلہ خزاعہ (جو کہ مسلمانوں کے حامی تھے) کی خفیہ خبروں کے ذریعہ لشکر احزاب کی حرکت سے باخبر ہو گئے۔⁸

پیغمبر کے حکم سے ایک فوجی کمیٹی تشکیل پائی اور گویا جنگ احد کے تجربہ کے پیش نظر کسی نے مدینہ سے باہر جانے کا مشورہ نہیں دیا اور سب شہر میں رہنے پر متفق ہو گئے۔⁹

1 محمد حسین ہیکل، حیات محمد (قاہرہ: مکتبۃ النهضة المصریہ، ۸ ط، ۱۹۶۳ء)، ص ۳۲۹۔

2 انھوں نے غطفان سے وعدہ کیا کہ اس حمایت و نصرت کے بدلہ میں خیبر میں ایک سال خرمہ کی پیداوار کو انھیں دیدیں گے (بلاذری، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۴۳؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۴۴)۔

3 طبری، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۴۴؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۲۲۵۔

4 محمد بن سعد، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۶۶؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۴۴؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب (قم: المطبعة العلمیہ)، ج ۱، ص ۱۹۷؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۰، ص ۱۹۷۔

5 بلاذری، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۴۳۔

6 ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۶۶؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۴۶؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۲۳۰؛ سمودی، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۰۱؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج ۲۰، ص ۲۰۰۔

7 واقدی، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۴۵۴۔

8 حلبی، انسان العیون (السیرۃ الجلیلیہ)، (بیروت: دار المعرفہ، ج ۲، ص ۶۳۱)۔

9 شیخ مفید، الارشاد (قم: الموتر العالمی للابن الفیہ، الشیخ المفید، ۱ ط، ۱۴۱۳ھ، ق)، ص ۹۶؛ ابن شہر آشوب، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۹۷۔

مدینہ کے ارد گرد قدرتی روکاؤں میں، جیسے گھر، کھجور کے باغ وغیرہ، موجود تھیں جو دشمن کو شہر میں داخل ہونے سے روک رہی تھیں¹۔ سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ اطراف شہر کے جس حصہ میں اس طرح کی روکاؤں موجود نہیں، ایک خندق کھودی جائے جو لشکر کے گزرنے میں رکاوٹ بنے۔²

پیغمبرؐ اور مسلمانوں کی مسلسل کوشش اور زحمتوں کے ذریعہ اور پیغمبرؐ کی عملی شرکت سے ایک بڑی خندق کھودی گئی۔³ پیغمبر اسلامؐ نے عورتوں، بچوں اور عام لوگوں کو شہر کے اندر قلعوں اور پناہ گاہوں میں رکھا۔⁴ لشکر اسلام میں (قول مشہور کی بنا پر) کل تین ہزار افراد تھے۔⁵ خندق اور ”سَلْع“ پہاڑ کے بیچ ٹھکانہ بنایا۔ اور پہاڑ کو اپنی پشت پر قرار دیا۔⁶

لشکر احزاب کا کمانڈر سمجھ رہا تھا کہ جنگ احد کی طرح شہر کے باہر مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے۔ لیکن ایسا نہ ہوا اور جب وہ شہر کے دروازے کے پاس پہنچے تو خندق دیکھ کر حواس باختہ ہو گئے! کیونکہ خندق کا استعمال، جنگی تکنیک کے لحاظ سے عرب میں رائج نہ تھا۔⁷ اس وجہ سے مجبور ہو کر خندق کے پیچھے ڈیرہ ڈال کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔

محاصرہ بیس روز تک باقی رہا اس دوران طرفین خندق کے دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اوپر تیراندازی کرتے تھے اور قریش کے جنگجو مسلمانوں کی صفوں میں رعب و وحشت ڈالنے کے لئے فوجی مشقیں اور تیراندازی کرتے تھے⁸ دشمن کے ذریعہ شہر کا محاصرہ کرنے سے مسلمان مشکلات اور دشواریوں میں پڑ گئے تھے اور شہر کے حالات برے اور خطرناک ہو گئے تھے جس کا تذکرہ خداوند عالم نے اس طرح سے کیا ہے:

1 حلبی، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۶۳۶؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۶۶؛

2 بلاذری، گزشتہ حوالہ، ص ۳۴۳؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۶۶؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۴۴؛ ابن شہر آشوب، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۹۸؛ طبری، اعلام الوری، ص ۹۰؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۰، ص ۲۱۸

3 ابن سعد کے نقل کے مطابق، خندق کی کھودائی چھ دن میں تمام ہوئی۔ (طبقات الکبریٰ، ج ۲، ص ۶۷) پروفیسر محمد حمید اللہ، اس دور کا مسلمان دانشور جس نے دشمنان اسلام کے ساتھ رسول اکرمؐ کی جنگ کے میدانوں کو کنیمرتبہ قریب سے مشاہدہ کیا اور اس کے بارے میں تحقیقات کی ہیں وہ معتقد ہے کہ خندق بہ شکل N اور ساڑھے پانچ کلو میٹر لمبی تھی (رسول اکرمؐ در میدان، ترجمہ سید غلام رضا سعیدی، (تہران: کانون انتشارات محمدی، ۱۳۶۳ ش)، ص ۱۱۲-۱۱۳؛ گویا اس محاسبہ کا اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ اسلامی سپاہیوں کی تعداد تین ہزار (۳۰۰۰) افراد پر مشتمل تھی اور خندق کھودتے وقت دس دس افراد کے دستے بنائے گئے تھے اور ہر دستہ ۴۰ ہاتھ کھودتا تھا (طبری، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۴۵؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۱۹۸؛ لہذا فطری طور پر ہر ایک کے حصہ میں ۴ ہاتھ آیا ہوگا جو تقریباً ۶ ہزار میٹر (۶ کلو میٹر) ہوگا۔

4 ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۶۷؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۴۶؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۶۳۶۔

5 ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۶۶؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۴۶؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۲۳۱؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۲۰۰؛ سمودی، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۰۱۔

6 بلاذری، ج ۲، ص ۳۴۳؛ محمد بن سعد، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۶۶؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۲۳۱؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۴۶؛ سمودی، ج ۱، ص ۳۰۱۔

7 بلاذری، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۴۳؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۴۸؛ ابن واضح، تاریخ یعقوبی، (نجف: المکتبۃ الحیدریہ، ۱۳۸۴ھ، ق)، ج ۲، ص ۴۱؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۶۵۷۔

8 ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۶۷؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۶۳۶۔

”اس وقت جب کفار تمہارے اوپر کی طرف سے اور نیچے کی سمت سے آگئے اور دہشت سے نگاہیں خیرہ کرنے لگیں اور کیلجے منہ کو آنے لگے اور تم خدا کے بارے میں طرح طرح کے خیالات میں مبتلا ہو گئے۔ اس وقت مومنین کا باقاعدہ امتحان لیا گیا اور انھیں شدید قسم کے جھٹکے دیئے گئے۔“¹

بنی قریظہ کی خیانت

اس موقع پر ایک دوسرا واقعہ رونما ہوا جس نے مسلمانوں کی حالت کو بدتر کر دیا وہ یہ کہ قبیلہ بنی قریظہ نے عدم تجاوز کے پیمانہ کو توڑ دیا اور لشکرِ احزاب کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس قبیلہ کی خیانت، جی ابنِ اخطب کے شیطانی وسوسہ کے ذریعہ انجام پائی۔² اس سازش کے فاش ہونے سے بہت سارے مسلمانوں کے حوصلہ پست ہو گئے۔ لیکن پیغمبرؐ کی کوشش تھی کہ اس کے برے اثرات کو مٹادیں۔

بنی قریظہ نے صرف عہد شکنی پر اکتفا نہ کی بلکہ عملی طور سے دوسری بڑی خیانتوں کے مرتکب ہو گئے۔ پہلی یہ کہ لشکرِ احزاب کے لئے غذائی رسد کا کام انجام دیا جو کہ آذوقہ کے لحاظ سے سخت مشکلات میں گرفتار تھے اسی طرح سے ایک مرتبہ مسلمانوں نے ”قبا“ کے علاقہ میں ایک قافلہ کو دیکھا جو خرما، جو اور چارہ لئے ہوئے تھا اور وہ قریظہ کی طرف سے سپاہِ احزاب کے لئے بھیجا جا رہا تھا، لہذا اس کو ضبط کر لیا۔³

دوسری یہ تھی کہ شہر کے اندر پناہ گاہوں میں عورتوں اور عام لوگوں کے درمیان، دہشت گردی کے ذریعہ ان کے اندر رعب و وحشت پیدا کر دیا تھا اور ایک روز ان میں سے ایک شخص قلعہ کے اندر تک پہنچ گیا تھا جو ”صفیہ“ پیغمبرؐ کی پھوپھی کے ذریعہ مارا گیا۔⁴

ایک رات بنی قریظہ نے قصد کیا کہ مرکزِ مدینہ پر حملہ کریں اس وجہ سے جی ابنِ اخطب کو قریش کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ ایک ہزار افراد قریش سے اور ایک ہزار افراد غطفان سے اس حملہ میں ان کی مدد کریں۔ اس نقل و حرکت کی خبر پیغمبرؐ کو ملی اور شہر میں سخت رعب و وحشت طاری ہو گیا۔

رسولِ خداؐ نے پانچ سو افراد کو اس شہر کی حفاظت کے لئے مامور کیا۔ وہ لوگ راتوں کو تکبیر کے نعروں کے ساتھ گشت کرتے تھے اور لوگوں کے گھروں کا پہرہ دیتے تھے۔⁵

لشکرِ احزاب کی شکست کے اسباب

1 سورۃ احزاب، آیت ۱۱-۱۰.

2 ابن سعد، مغازی، ج ۱، ص ۶۷؛ ابن ہشام، مغازی، ج ۳، ص ۲۳۱؛ طبری، مغازی، ج ۳، ص ۷۷-۷۶؛ سمودی، مغازی، ج ۱، ص ۳۰۳؛ مجلسی، مغازی، ج ۲، ص ۲۰۱-۲۰۰.

3 سمودی، مغازی، ج ۱، ص ۳۰۴؛ حلبی، مغازی، ج ۲، ص ۷۷.

4 بلاذری، مغازی، ج ۱، ص ۳۷؛ واقدی، مغازی، ج ۲، ص ۶۲-۶۳؛ طبری، مغازی، ج ۳، ص ۵۰؛ سمودی، مغازی، ج ۱، ص ۳۰۲.

5 واقدی، مغازی، ج ۲، ص ۶۰؛ حلبی، مغازی، ج ۲، ص ۶۳؛ ابو بکر سے نقل ہوا ہے کہ وہ جنگِ احزاب کو یاد کرتے تھے اور بنی قریظہ کی اس خیانت کے بارے میں کہتے تھے: ہم مدینہ میں اپنے بچوں (اور عورتوں) کے بارے میں قریش اور غطفان کے بہ نسبت بنی قریظہ سے زیادہ ڈرتے تھے (واقعی مغازی، ج ۱، ص ۶۰).

لیکن ان تمام دشواریوں کے باوجود، خندق کھودنے کے علاوہ، چند دوسرے اہم اسباب کی وجہ سے حالات مسلمانوں کے حق میں بدل گئے تھے۔ اور آخر کار لشکر احزاب کی ناکامی کا باعث بنا۔ وہ اسباب یہ تھے:

۱۔ بنی قریظہ اور لشکر احزاب کے درمیان اختلاف کا پیدا ہونا

نعیم بن مسعود، قبیلہ غطفان کا ایک فرد تھا جو جلدی ہی مسلمان ہوا تھا اس نے پیغمبرؐ کی اجازت سے¹ بنی قریظہ سے جا کر ملاقات کی اور ان سے پرانی دوستی ہونے کی بنا پر پہلے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا پھر عہد شکنی پر ان کی مذمت کی اور کہا: تمہاری صورت حال، لشکر قریش سے الگ ہے اگر جنگ کسی مرحلہ پر نہ پہنچی تو وہ اپنے وطن کی طرف پلٹ جائیں گے لیکن تم کہاں جاؤ گے؟ اگر جنگ تمام نہ ہوئی تو مسلمان تم کو نابود کر دیں گے۔ اور پھر ان کو مشورہ دیا کہ لشکر احزاب کے کچھ کمانڈروں کو اغوا کر کے ضمانت کے طور پر جنگ کے تمام ہونے تک رکھے رہیں۔

پھر اس بات کو فوجی راز اور بنی قریظہ کے مخفی ارادے کے عنوان سے قریش اور اپنے قبیلہ غطفان کے سرداروں سے بتایا اور کہا کہ بنی قریظہ کا ارادہ ہے کہ اس بہانہ سے تمہارے کچھ افراد کو گرفتار کر کے حسن نیت اور بچیلی باتوں کی تلافی کے عنوان سے حضرت محمدؐ کے حوالہ کریں۔ اور ان کو خبردار کیا کہ ایسا مشورہ قبول نہ کریں۔ اس نے یہ چال اپنائی اور ان دو گروہوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اور متحدہ احزاب کا محاذ اندر سے کمزور ہو گیا۔²

عمر بن عبد ود کا قتل

گویا قریش تین لحاظ سے مشکلات اور دشواریوں میں گرفتار تھے اور چاہتے تھے کتنی جلدی جنگ کو تمام کریں۔

پہلا: یہ کہ جنگ میں تاخیر ہونے کی بنا پر غذائی مواد کم ہو گیا تھا۔

دوسرا: یہ کہ آہستہ آہستہ ہوا ٹھنڈی ہونے لگی تھی جس کی وجہ سے خیموں میں رہنا دشوار ہو گیا تھا۔

تیسرا: یہ کہ ماہ ذیقعدہ جو کہ ماہ حرام تھا وہ قریب ہو گیا تھا لہذا اگر جنگ ماہ شوال میں تمام نہ ہو پائی تو مجبوراً انھیں تین مہینے مسلسل رکنا پڑے گا۔³

اس وجہ سے طے کیا کہ ہر صورت میں جنگی روکاؤں کو ختم کریں اس بنا پر لشکر احزاب کے پانچ بہادر اپنے گھوڑوں کو لہڑ لگا کر خندق کے باریک حصہ سے دوسری طرف پہنچ گئے⁴ اور تن بہ تن جنگ کے لئے رجز خوانی کرنے لگے ان میں سے ایک عرب کا سب سے بہادر اور نامور

1 ان الحرب خدعة.

2 ابن سعد، غزوة حوالہ، ج ۲، ص ۶۹؛ ابن ہشام، غزوة حوالہ، ج ۳، ص ۲۴۰؛ طبری، غزوة حوالہ، ج ۳، ص ۵۱-۵۰؛ حلبی، غزوة حوالہ، ج ۲، ص ۶۵۰؛ سمودی، غزوة حوالہ، ج ۱، ص ۳۰۴؛ مجلسی، غزوة حوالہ، ج ۲۰، ص ۲۰۷.

3 محمد حمید اللہ، رسول اکرمؐ در میدان جنگ، ترجمہ: سید غلام رضا سعیدی، ص ۱۲۸.

4 ابن سعد، غزوة حوالہ، ج ۲، ص ۶۸؛ واقعی، غزوة حوالہ، ج ۲، ص ۷۰؛ طبری، غزوة حوالہ، ج ۳، ص ۴۸؛ شیخ مفید، الارشاد، (قم: المؤتمر العالمي للافیہ الشیخ المفید، ط ۱۳۱۳ھ، ق)، ص ۷۷؛ مجلسی، غزوة حوالہ، ج ۲۰، ص ۲۰۳.

پہلوان ”عمرو بن عبدود“ تھا جو کہ ”شہسوار قریش“ اور ”شہسوار یلیل“ کے نام سے مشہور تھا۔¹ خندق کو پھانڈ کر ”ہل من مبارز“ کی صدا بلند کی۔ لیکن کوئی مسلمان اس سے مقابلہ کے لئے تیار نہ ہوا۔² یہ چیلنج کئی مرتبہ دہرایا اور ہر مرتبہ صرف علیؑ، پیغمبرؐ کی اجازت سے اس کی طرف بڑھے۔ پیغمبرؐ نے فرمایا: ”کل ایمان، کل کفر و شرک کے مقابلہ میں جارہا ہے۔“³

علیؑ نے ایک فردی جنگ میں بہادرانہ انداز میں عمرو بن عبدود کو ہلاک کر دیا، عمرو بن عبدود کے قتل ہوتے ہی چار دوسرے پہلوان جو اس کے ساتھ خندق پھانڈ کر آئے تھے اور علیؑ سے لڑنے کے منتظر تھے، فرار کر گئے! اور ان میں سے ایک گھوڑے کے ساتھ خندق میں گر گیا اور مسلمانوں کے ذریعہ قتل ہوا۔⁴

پیغمبر اسلامؐ نے علیؑ کی اس عظیم شجاعت و بہادری پر ان سے فرمایا: ”آج اگر میں تمہارے اس عمل کو اپنی پوری امت کے اعمال سے موازنہ کروں تو تمہارا یہ عمل ان پر بھاری قرار پائے گا۔“

کیونکہ عمرو بن عبدود کے قتل ہونے سے مشرکین کا کوئی گھرایا نہیں بچا جس میں ذلت و رسوائی نہ چھائی ہو اور مسلمانوں کا کوئی گھرایا نہیں تھا جس میں عزت و سربلندی نہ آئی ہو۔⁵

اہل سنت کے ایک بزرگ محدث حاکم نیشاپوری کے نقل کے مطابق، پیغمبرؐ نے فرمایا: جنگ خندق میں علی بن ابی طالب کی لڑائی عمرو بن عبدود سے روز قیامت تک میری امت کے اعمال سے یقیناً افضل ہے۔“⁶

عمرو کے قتل ہوتے ہی لشکرِ احزاب کے حوصلہ پست ہو گئے اور شکست کے آثار ان کے لشکر میں نمودار ہوئے اور مختلف قبیلے جو جنگ کرنے کے لئے آئے تھے ہر ایک اپنے وطن کی طرف واپس جانے لگا۔⁷

1 چونکہ وہ ”لیل“ نامی سرزمین پر تنہا دشمن کے ایک گروہ پر غالب ہوا تھا لہذا وہ اسی نام سے مشہور ہوا (بحار الانوار، ج ۲۰، ص ۲۰۳) وہ جنگ بدر میں زخمی ہو گیا تھا اسی وجہ سے جنگ احد میں شریک نہیں ہوا تھا۔ اور تین سال کے بعد پھر جنگ خندق میں آیا تھا لہذا اپنے کو ایک علامت کے ذریعہ مشخص کر رکھا تھا تاکہ لوگوں کی توجہ اپنی جانب جلب کرے۔ (ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۳، ص ۲۳۵؛ طبری، تاریخ الامم والملوک، ج ۳، ص ۴۸؛ ابن اثیر، الکامل فی تاریخ، ج ۲، ص ۱۸۱)۔

2 واقدی، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۷۰؛ ابن ابی الحدید، شرح نہج البلاغہ، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراہیم (دار احیاء الکتب العربیہ، ۱۹۶۳ء)، ج ۱۳، ص ۲۹۱ و ج ۱۹، ص ۶۳؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۰، ص ۲۰۳۔

3 برز الاسلام کلمہ الی الشریک کلمہ۔ (ابن ابی الحدید، گزشتہ حوالہ، ج ۱۹، ص ۶۱؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج ۲۰، ص ۲۱۵)

4 بلاذری، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۴۵؛ محمد بن سعد، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۶۸؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۲۳۶؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۴۸؛ سمودی، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۰۳۔

5 ابوالفتح محمد بن علی الکراچی، کنز الفوائد (قم: دار الذخائر، ۱۴۱۰ھ ق)، ج ۱، ص ۲۹۸؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۰، ص ۲۱۶، ۲۰۵۔

6 المستدرک علی الصحیحین، تحقیق: عبدالرحمن المرعشی (بیروت: دار المعرفہ، ۱۴۰۶ھ ق)، ج ۳، ص ۳۲۔

7 کراچی، گزشتہ حوالہ، ص ۲۹۹۔

غیبی امداد

آخری وار، خداوند عالم نے امداد غیبی کی شکل میں ان پر یہ کیا کہ ٹھنڈی ہو اور شدید طوفان کورات میں ان پر مسلط کر دیا۔ طوفان نے ان کے ٹھکانوں کو تہس نہس کر دیا اور ان کے لئے وہاں ٹھہرنا دشوار ہو گیا آخر کار ابوسفیان نے مکہ پلٹنے کا حکم صادر کیا۔¹

خداوند عالم نے اپنی نصرت کا اس طرح سے تذکرہ فرمایا ہے:

”ایمان والو! اس وقت اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب کفر کے لشکر تمہارے سامنے آگئے اور ہم نے ان کے خلاف تمہاری مدد کے لئے تیز ہوا اور ایسے لشکر بھیج دیئے جن کو تم نے دیکھا بھی نہیں تھا اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور خدا نے کفار کو ان کے غصہ سمیت واپس کر دیا کہ وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے اور اللہ نے مومنین کو جنگ سے بچالیا اور اللہ بڑی قوت والا اور صاحب عزت ہے۔“²

اس جنگ میں احزاب کے سرداروں کی طرف سے عظیم سرمایہ خرچ کرنے، اور اتنی کثیر تعداد میں سپاہیوں کو اکٹھا کرنے کے باوجود ان کے لئے اس جنگ کا نتیجہ تلخ اور غم انگیز تھا۔ کیونکہ نہ مدینہ کو کوئی نقصان پہنچا اور نہ ہی وہ شام کے تجارتی راستے کو آزاد کر سکے۔ اس وجہ سے ابوسفیان کی کمانڈری بدنام ہوئی اور قریش کی عظمت و ہیبت کم ہو گئی۔ یہ وہ جنگ تھی جس کے بعد مسلمان دفاعی حالت سے نکل کر تہاجمی قدرت کے مالک ہو گئے یعنی حملہ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے۔

پیغمبر اسلام نے فرمایا: ”اس کے بعد ہم حملہ کریں گے وہ ہم پر حملہ نہیں کر سکتے“³ اور اسی طرح سے ہوا بھی۔ اس جنگ میں چھ افراد شہید ہوئے⁴ اور دشمن کی طرف کے تین افراد مارے گئے۔⁵

جنگ بنی قریظہ

لشکر احزاب کے پلٹ جانے کے بعد، پیغمبر مامور ہوئے کہ بے خوف بنی قریظہ کی طرف جائیں اور ان کا کام تمام کر دیں۔ پیغمبر نے فوراً لشکر کے کوچ کا حکم دیا اور اسی روز عصر کے وقت لشکر اسلام نے قلعہ بنی قریظہ کا محاصرہ کر لیا۔ بنی قریظہ نے اپنے قلعہ میں مورچہ سنبھال کر تیر اندازی شروع کر دی اور پیغمبر اسلام کی شان میں نازیبا کلمات کے ذریعہ گستاخی کی۔

1 بلاذری، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۳۵؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۷۱؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۵۲-۵۱؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج ۱، ص ۱۹۸؛ طبری، اعلام الوری، ص ۹۲؛ سمودی، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۰۵؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج ۲۰، ص ۲۰۹-۲۰۸۔

2 سورہ احزاب، آیت ۱۹ اور ۲۵۔

3 شیخ مفید، الارشاد، ص ۱۰۶؛ صحیح بخاری، تحقیق: الشیخ قاسم الشمامی الرفاعی (بیروت: دار القلم، ط ۱، ۱۴۰۷ھ، ق)، ج ۵، ص ۲۱۵؛ کتاب المغازی، باب ۱۴۶، حدیث ۵۹۳؛ طبری، مجمع البیان، ج ۸، ص ۳۴۵؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج ۲۰، ص ۲۰۹۔

4 ابن واضح، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۴۲؛ واقدی، المغازی، ج ۲، ص ۴۹۲؛ ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۳، ص ۲۶۴؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۵۸؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج ۱، ص ۱۹۸۔ اس جنگ کے شہداء کی تعداد اس سے زیادہ نقل ہوئی ہے۔ رجوع کریں: تاریخ پیامبر اسلام، محمد ابراہیم آیتی (تہران: مؤسسہ انتشارات و طبع تہران یونیورسٹی، ۱۳۶۱)، ص ۳۷۲۔

5 واقدی، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۴۹۶؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۲۶۵؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۵۹؛ ابن شہر آشوب، گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۹۸؛ یعقوبی نے دشمن کے مقتولین کی تعداد آٹھ بتائی ہے۔ (ج ۲، ص ۴۲)

۲۵ روز محاصرہ کے بعد آخر کار ان کے پاس تسلیم کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا قبیلہ اوس جس نے پہلے بنی قریظہ کے ساتھ عہد و پیمان کیا تھا پیغمبرؐ سے درخواست کی کہ ان کے ہم نواؤں کے ساتھ بنی قینقاع کے یہودیوں جیسا برتاؤ کریں۔

آنحضرتؐ نے فرمایا: ”تمہارے بزرگ، سعد بن معاذ کو اس سلسلے میں قضاوت کا حق حاصل ہے“ اوسیوں اور بنی قریظہ نے اس قضاوت کو قبول کیا، سعد کو ایسی ماموریت ملنے کے بعد قبیلہ جاتی اور جاہلی رسم و رواج کے مطابق، بنی قریظہ کے حق میں فیصلہ کرنا چاہیئے تھا۔

لیکن وہ اپنے قبیلہ والوں کی باتوں سے متاثر نہیں ہوئے اور اعلان کیا کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اس کے بعد دونوں طرف کی تائید حاصل کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ ان کے لوگوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو اسیر اور ان کے مال و دولت کو غنیمت سمجھ کر لے لیا جائے۔

یہ حکم اجرا ہوا، حی ابن اخطب، قبیلہ بنی نضیر کا سردار بھی قتل ہونے والوں میں تھا، جس نے مسلمانوں کے ساتھ ان کی پیمان شکنی میں تشویق اور اہم کردار ادا کیا تھا۔ کیونکہ اس نے بنی قریظہ سے وعدہ کیا تھا کہ ان کا ساتھ دے گا اور شکست کھانے کی صورت میں ان کے انجام میں شریک رہے گا۔ اسے جب زندگی کے آخر لمحات میں، خیانت اور فتنہ گری کے باعث، برا بھلا کہا گیا تو بجائے گناہوں کے اعتراف اور اظہار پشیمانی کے، اپنی اور بنی قریظہ کی بری عاقبت کو خداوند عالم کے جبر و تقدیر کا نتیجہ قرار دیا۔ اس نے پیغمبر اسلامؐ سے کہا: میں تمہاری دشمنی سے پشیمان نہیں ہوں لیکن جو خدا جس کو رسوا کرے رسوا ہو جاتا ہے“ اور پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا: خدا کے ارادہ کے مقابلہ میں مجھے ڈر اور خوف نہیں ہے اور یہ شکست و رسوائی یقینی ہے جو خدا کی جانب سے بنی اسرائیل کے لئے مقرر ہوئی ہے۔“¹

پیغمبر اسلامؐ نے اسیروں کے ایک گروہ کو ایک مسلمان کے ذریعہ نجد بھیجا تاکہ ان کو پہنچ کر مسلمانوں کے لئے اسلحے اور گھوڑے خریدے۔² قرآن کریم نے ان کے برے انجام کا اس طرح سے ذکر کیا ہے:

”اور اس نے کفار و مشرکین کی پشت پناہی کرنے والے اہل کتاب کو ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا اور ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ تم نے ان میں سے کچھ کو قتل کیا اور کچھ کو قیدی بنالیا۔ اور پھر تمہیں ان کی زمینوں ان کے گھروں اور ان کے اموال اور ایسی زمین کا وارث بنادیا جن میں تم نے قدم بھی نہیں رکھا تھا اور بیشک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔“³

1 اس جنگ کی تفصیل معلوم کرنے کے لئے مندرجہ ذیل کتابوں کی طرف رجوع کریں: (طبقات الکبریٰ، ج ۲، ص ۷۸-۷۹؛ تاریخ الامم والملوک، ج ۳، ص ۵۸-۵۹؛ المغازی، ج ۲، ص ۵۲۴-۵۲۵؛ السیرۃ النبویہ، ج ۳، ص ۲۶۱-۲۶۲؛ وفاء الوفاء، ج ۱، ص ۳۰۹-۳۱۰؛ بحار الانوار، ج ۲۰، ص ۲۳۸-۲۳۹۔

2 ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۳، ص ۲۵۶؛ طبری، تاریخ الامم والملوک، ج ۳، ص ۵۸؛ ایک گروہ کو بھی، سعد ابن عبادہ کے ذریعہ اس سلسلہ میں شام بھیجا (واقعی، المغازی، ج ۲، ص ۵۳۳) جنگ خندق و بنی قریظہ کے بارے میں مذکورہ کتابوں کے علاوہ رجوع کریں: تفسیر المیزان، ج ۱۶، ص ۳۰۳-۲۹۱۔

3 سورہ احزاب، آیت ۲۷-۲۶۔

تجزیہ و تحلیل

اگرچہ اس واقعہ کی تفصیلات (جیسے بنی قریظہ کے سپاہیوں کی تعداد یا جو لوگ فرمان قتل کو بجالائے) کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف موجود ہے لیکن اصل واقعہ زمانہ قدیم سے مورخین کے درمیان مشہور اور مسلم تھا اور ہے یہاں پر اگر اس مسئلہ کے بارے میں دو نظریوں کا تجزیہ و تحلیل کریں تو بے جا نہ ہوگا۔

۱۔ بعض یورپی تاریخ نگاروں نے بنی قریظہ کے ساتھ پیغمبرؐ کے سلوک پر نکتہ چینی کی ہے اور اسے ایک وحشیانہ اور غیر انسانی اقدام کہا ہے۔¹ لیکن بنی قریظہ کے جرم و جنایات کو دیکھتے ہوئے اس نکتہ چینی کو قبول نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ان لوگوں نے نہ صرف عہد شکنی اور جنگ کے اعلان پر اکتفا کی بلکہ جیسا کہ بیان ہوا مدینہ کے اندر دہشت پھیلانے والی کاروائیاں اور نیز لشکر احزاب کے لئے غذائی رسد کا کام انجام دے کر اور حقیقت میں ان کی مالی امداد کے ذریعہ عملی طور پر جنگ میں شریک تھے اور ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات جنگ کے مواقع پر کسی قوم کے نزدیک قابل چشم پوشی نہیں ہیں اور اس کے مجرموں کو سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔

اس کے علاوہ پیغمبر اسلامؐ اس عہد و پیمان کی رو سے جو ان سے کیا تھا ان کو سزائیں دینے کا حق رکھتے تھے لیکن اوسیوں کی درخواست پر فضل کے عنوان سے سعد کی قضاوت کا مشورہ دیا اور اس مشورہ کو اوسیوں اور بنی قریظہ نے قبول کر لیا۔ لہذا اعتراض کا کوئی سوال باقی نہیں رہ جاتا ہے۔

اس سے قطع نظر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غزوہ درگزر کہاں اور کس کے بارے میں بہتر اور مناسب ہے؟ کیا وہ لوگ جو انسانی صورت تو رکھتے ہیں لیکن انسانی وقار کو پامال کر دیتے ہیں اور اپنے کسی معاہدہ کے پابند نہیں ہوتے۔ جن کا وجود دشمنی، کینہ اور ہٹ دھرمی سے لبریز ہو، غزوہ گزشت کے قابل ہیں؟²

کیا بنی النضیر کے یہودیوں کے ساتھ ”حی ابن اخطب“ کی رہبری میں نرمی کا سلوک نہیں کیا گیا تھا؟ لیکن وہ سازش کرنے سے باز نہ آئے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہو گئے۔ کیا ضمانت پائی جاتی تھی کہ حی ابن اخطب اور کعب بن اسد گزشتہ امور کی تکرار نہیں کریں گے۔ اور دوسرے بڑے لشکر کو اسلام اور مسلمانوں کی نابودی کے لئے اکٹھا نہیں کریں گے؟ کیا ان کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا برتاؤ ایک خونخوار جانور پر رحم کرنے جیسا نہیں ہے۔

1 مونٹ گری واٹ، محمد فی المدینہ، تعریب: شعبان برکات (بیروت: منشورات المکتبۃ العصریہ)، ص ۳۲، مولف کتاب نے بھی ۲۳ سال تک ان یورپی سیرت نگاروں کا ہم نوا بن کر بنی قریظہ کی مذمت پر اعتراض کیا ہے وہ بنی قریظہ کی بڑی خیانت کا تذکرہ کرنے کے باوجود لکھتا ہے: ”جنگ خندق میں مدینہ کا محاصرہ کرنے سے مسلمانوں کی زندگی و شہر ہو گئی تھی اور مکہ پر حملہ آوروں کے ساتھ بنی قریظہ کا مل جانا ایک ممکن الوقوع امر تھا اور جب بھی ایسا ہوتا، مسلمانوں کی شکست یقینی تھی اور احتمال قوی پایا جاتا تھا کہ محمدؐ کی تحریک بالکل مٹ جاتی۔۔۔“ اس کے باوجود وہ مزید لکھتا ہے۔ لیکن محمدؐ کو ان پر رحم کرنا چاہیئے تھا (مصطفیٰ حسینی طباطبائی، خیانت در گزارش تاریخ (تہران: انتشارات چاپخش، ط ۱۳۶۶)، ج ۳، ص ۱۶۵-۱۶۴)

2 بنی قریظہ کے آخری ایام میں ان کے بعض مخفی مذاکرات (جیسے کعب بن اسد کا مشورہ، عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے اور پھر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا) اور نیز پھانسی دینے سے قبل ان کی بعض حرکتوں اور عکس العمل نے، ان کی شدید دشمنی، بے رحمی اور ہٹ دھرمی کا پردہ فاش کر دیا، جیسا کہ ان میں سے ایک کو بعض مسلمانوں کی درخواست پر پیغمبرؐ نے معاف کر دیا لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا اور اسے بھی قتل کرنا پڑا۔ (ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۳، ص ۲۵۴-۲۵۳)

مدینہ کے محاصرہ کے ایام میں، ایک دن ابوسفیان نے پیغمبر اسلام کو ایک دھمکی آمیز خط میں لکھا: ”لات وعزیٰ کی قسم، اس لشکر کے ساتھ تجھ سے جنگ کرنے کے لئے آیا ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہرگز دوبارہ جنگ کی ضرورت نہ پڑے اس حملہ میں تم کو نیست و نابود کر دیں گے۔ لیکن اگر (بغیر جنگ کے) مکہ پلٹ گئے تو روز احد کے مانند تمہارے لئے ایک دن ایسا لائیں گے کہ عورتیں اس دن گریبان چاک کر ڈالیں گی۔¹ کیا اگر ایسی صورت حال پیش آجائے تو بنی قریظہ دوسری بار لشکرِ احزاب کا ساتھ نہیں دیں گے؟

اس سے قطع نظر کہ سعد کا حکم توریت کے حکم کے مطابق تھا اور شاید وہ یہودیوں سے قریبی تعلقات اور ہم پیمان ہونے کی وجہ سے ان کے قضائی قوانین سے آگاہی بھی رکھتے تھے۔

توریت میں اس طرح سے نقل ہوا ہے: ”جس وقت کسی شہر کی طرف جنگ کے لئے جاؤ تو پہلے ان تک صلح کا پیغام پہنچاؤ اور اگر وہ تم کو صلح آمیز جواب دیں اور شہر کا دروازہ تمہارے لئے کھول دیں، جس میں تمام قوم کے لوگ پائے جاتے ہوں اور ٹیکس دیکر تمہارے تابع ہو جائیں، تو ان سے جنگ نہ کرنا۔ اور اگر تم سے صلح نہ کر کے، جنگ کریں تو ان کا محاصرہ کر لو اور چونکہ تمہارے خدا نے ان کو تمہارے حوالے کر دیا ہے لہذا ان کے تمام مردوں کو تلوار سے قتل کر ڈالو۔ اور ان کی عورتوں، بچوں اور مویشیوں اور جو کچھ ان کے شہر میں ملے یعنی ان کے تمام مال غنیمت کو لوٹ لو اور اسے کھاؤ۔“²

۲۔ اس دور کا ایک محقق، بنی قریظہ کی سزاؤں کا منکر ہو گیا ہے اور کچھ دلائل اور قرآن کو دلیل بنا کر پیغمبرؐ کی جانب سے اس طرح کی سخت سزاؤں کے دیئے جانے کو بعید قرار دیتا ہے۔³

یہ نظریہ۔ اگرچہ بعض یورپی تاریخ نگاروں کی تنقید یا صہیونزم کے پروپیگنڈہ کے مقابلہ میں ایک طرح کا دفاعیہ تو ہو سکتا ہے لیکن جیسا کہ بعض بڑے دانشمندوں نے اس نظریہ پر تنقید کی ہے،⁴ یہ دلائل محکم نظر نہیں آتے، خاص طور سے اس استدلال میں سورہ احزاب کی ۲۶ ویں آیت کی طرف توجہ نہیں دی گئی ہے جو کہ اصل واقعہ کی حکایت کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ، جنگ احزاب کے بعد سے تاریخ میں بنی قریظہ کا کوئی واقعہ نظر نہیں آتا جبکہ اگر واقعہ صحیح نہ ہوتا تو فطری طور ان کے بعد کے حالات، تاریخ میں ذکر ہوتے۔

1 واقدی، المغازی، ج ۲، ص ۴۹۲۔

2 توریت، ترجمہ ولیم کلن قیس اسی، لندن، ۱۳۲۷ھ، سفر شنی، بیسویں فصل اس سلسلہ میں مزید آگاہی کے لئے سعد کی کتابوں کی طرف رجوع کریں: جعفر سبحانی، فروغِ ابدیت، ج ۲، ص ۱۵۷-۱۵۳۔

3 سید جعفر شہیدی، تاریخِ تبلیغی اسلام تا پایانِ امویان (تہران: مرکز نشرِ بینورسٹی، ۱۳۶۵ھ)، ص ۷۵-۷۳۔

4 سید علی میر شریفی، نگرشی کوتاہ بہ غزوہ بنی قریظہ، مجلہ نور علم، شمارہ ۱۱، اور ۱۲۔

جنگ بنی مصطلق

شعبان ۶ھ¹ میں پیغمبر اسلام کو خبر ملی کہ حارث بن ابی ضرار، بنی مصطلق کا رئیس (قبیلہ خزاعہ کا ایک خاندان) اپنے قبیلہ والوں اور اس کے علاقہ کے کچھ عرب لوگوں کو مدینہ پر حملہ کے لئے تیار کر رہا ہے۔

پیغمبر اسلام نے اسلامی سپاہیوں کو آمادہ کیا اور ”مریسع“² کنواں کے پاس، بحر احمر کے ساحلی علاقہ تک گئے۔ اس علاقے میں جنگ ہوئی اور بنی مصطلق بہت جلد ہار کھا گئے اور ان سے بہت ساری دولت اور اسیر مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔³

جویریہ - حارث کی لڑکی - بھی اسیروں میں تھی۔ حارث اپنی لڑکی کی آزادی کے لئے مدینہ میں پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور جب آنحضرتؐ نے اسے غیب سے خبر دی کہ وہ دواونٹ اپنی لڑکی کی رہائی کے لئے لایا ہے اور راستے میں چھپا رکھا ہے، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ پیغمبر اسلام نے جویریہ کو آزاد کر دیا اور پھر اس سے شادی کر لی۔⁴

مسلمانوں نے پیغمبر کے احترام میں اسیروں کو جواب پیغمبر کی زوجہ کے رشتہ دار سمجھے جانے لگے تھے، آزاد کر دیا اس وجہ سے جویریہ کو اپنے رشتہ داروں کی بہ نسبت سب سے بابرکت عورت کے عنوان سے یاد کرتے تھے۔⁵

یہ شادی پیغمبر اسلام کی شادیوں میں ایک نمونہ تھی جو بہت سارے اجتماعی فوائد رکھتی تھی اور ذاتی پہلوؤں سے ہٹ کر اجتماعی لحاظ سے انجام پائی تھی۔

عمرہ کا سفر

۶ھ میں پیغمبر اسلام نے قصد کیا کہ ”عمرہ“ کرنے کے لئے مکہ جائیں۔ ہجرت کے بعد سے اس دن تک مسلمان حج و عمرہ نہیں کر پائے تھے، اس مذہبی سفر میں معنوی پہلوؤں کے علاوہ ایک طرح کی مذہبی نمائش بھی تھی جو تبلیغی اثر رکھتی تھی، کیونکہ اس سے زائرین اور اہل مکہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا اور پیغمبر کو اپنے اصحاب کی کثرت تعداد کو دکھانا تھا۔ اور نیز یہ اقدام اس بات کی بھی علامت تھا کہ حج و عمرہ جو کہ مشرکین کے یہاں ایک عظیم اور مقدس عبادت ہے وہ دین محمدؐ میں بھی موجود ہے اور اسے ایک فریضہ واجب قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ چیز ان کے قلوب و جذبات کو جلب کرنے میں موثر تھی، اور اگر قریش عمرہ بجالانے سے روکتے تو لوگوں کے خیالات ان کے حق میں مضرت ثابت

1 مورخین کے بعض گروہ، جیسے واقدی، بلاذری، اور محمد بن سعد اس غزوہ کو پانچویں سال کے حوادث میں سے شمار کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اس کو جنگ احزاب کے پہلے تحریر کیا ہے۔ بعض قرائن ان کے اس نظریہ کی صحت پر دلالت کرتے ہیں۔ رجوع کریں: السیرۃ النبویہ، ج ۳، ص ۳۰۲؛ حاشیہ؛ وفاء الوفاء، ج ۱، ص ۳۱۴۔
2 اسی مناسبت سے اس غزوہ کو غزوہ مریسع بھی کہا جاتا ہے۔

3 ابن ہشام، مگزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۳۰۸-۳۰۲؛ طبری، مگزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۶۶-۶۳؛ مجلسی، مگزشتہ حوالہ، ج ۲۰، ص ۲۹۰-۲۸۱

4 ابن ہشام، مگزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۳۰۸؛ مفید، الارشاد (قم: المؤتمر العالمی للفقہاء الشیخ المفید، ط ۱۴۱۳ھ، ق)، ص ۱۱۹-۱۱۸؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب (قم: المطبعة العلمیہ)، ج ۱، ص ۲۰۱۔

5 ابن ہشام، مگزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۳۰۸-۳۰۷؛ واقدی، مگزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۴۱۱؛ طبری، اعلام الوری، (تہران: دار الکتب الاسلامیہ)، ص ۹۴؛ بعض تاریخی کتابوں میں یہ شادی دوسری طرح سے ذکر ہوئی ہے۔

ہوتے، کیونکہ قریش کعبے کی کنجی کے مالک تھے اور ہمیشہ حجاج کو حج کی تشویق اور ترغیب دلاتے تھے اور ان کے ٹھہرنے اور کھانے کا انتظام کرتے تھے اور اس کو اپنے لئے ایک افتخار اور سعادت سمجھتے تھے۔ لہذا اگر وہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکتے تو لوگ ان سے نفرت کرنے لگتے اور سبھی سمجھ جاتے کہ اس کام کا مقصد صرف مسلمانوں کے ساتھ دشمنی اور جھگڑا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔¹

پیغمبر اسلام ذیقعدہ کے مہینہ میں ایک ہزار آٹھ سو افراد² کے ہمراہ مکہ روانہ ہوئے اس سفر میں پیغمبرؐ کے حکم سے تمام افراد، صرف ایک تلوار اپنے ساتھ حمل کئے تھے (جو کہ اس زمانہ میں ہر ایک مسافر اپنے ساتھ رکھتا تھا) اور نیز قربانی کے اونٹ، مدینہ سے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے تاکہ قریش کو معلوم ہو جائے کہ وہ جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔

قریش جب پیغمبر اسلام کی روانگی سے آگاہ ہوئے تو طے کیا کہ ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور ان کے سراغ میں سپاہیوں کے ساتھ مکہ سے باہر آگئے اور پیغمبرؐ مجبور ہو کر سرزمین ”حدیبیہ“ میں رک گئے۔ قریش نے کئی نمائندے پیغمبرؐ کے پاس بھیجے تاکہ ان کے مقصد سے آگاہ ہوں ہر مرتبہ آنحضرتؐ نے ان سے فرمایا: ”ہم جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں اور عمرہ کے قصد سے آئے ہیں“ لیکن اس کے باوجود قریش ان کو اسی طرح شدت سے منع کرتے رہے اور مسئلہ مشکل میں پڑ گیا۔

بیعت رضوان

آخر کار پیغمبر اسلام نے عثمان بن عفان کو ان کے پاس بھیجا تاکہ ان کے مقصد سے قریش کو آگاہ کریں۔ عثمان کے پلٹنے میں تاخیر ہوئی تو مسلمانوں کے درمیان یہ افواہ اڑی کہ قریش نے ان کو قتل کر دیا ہے۔³

اس موقع پر پیغمبرؐ نے اپنے اصحاب کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا اور ان کے ساتھ عہد و پیمان پائیدار کیا۔⁴

بیعت کی رسم ختم ہوئی ہی تھی کہ معلوم ہوا کہ عثمان کے قتل کی خبر غلط تھی یہ عہد نامہ چونکہ درخت کے نیچے کیا گیا اور اس میں شرکت کرنے والوں سے خدا نے خوشنودی اور رضایت کا اظہار کیا⁵ لہذا اس کو ”بیعت رضوان“ اور ”بیعت شجرہ“ کہا گیا ہے۔

1 جیسا کہ جب قریش نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا تو مکہ کے ایک بزرگ حلیس بن علقمہ نے قریش کو دھمکی دی کہ اگر وہ اس کام سے باز نہ آئے تو اپنے قبیلہ والوں کو ان سے جنگ کے لئے اکٹھا کریں گے۔ (ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۲، ص ۹۶؛ حلبی، السیرۃ النبویہ، ج ۲، ص ۶۹۶۔

2 کلینی، الروضۃ من الکافی (تہران: دارالکتب الاسلامیہ، ۱۳۶۲) ص ۳۲۲؛ مورخین نے پیغمبرؐ کے ہمراہ اصحاب کی تعداد ۷۰۰، ۱۳۰۰، ۱۴۰۰، ۱۶۰۰، ۱۷۰۰، ۱۸۰۰، ۱۹۰۰، ۲۰۰۰، ۲۱۰۰، ۲۲۰۰، ۲۳۰۰، ۲۴۰۰، ۲۵۰۰، ۲۶۰۰، ۲۷۰۰، ۲۸۰۰، ۲۹۰۰، ۳۰۰۰، ۳۱۰۰، ۳۲۰۰، ۳۳۰۰، ۳۴۰۰، ۳۵۰۰، ۳۶۰۰، ۳۷۰۰، ۳۸۰۰، ۳۹۰۰، ۴۰۰۰، ۴۱۰۰، ۴۲۰۰، ۴۳۰۰، ۴۴۰۰، ۴۵۰۰، ۴۶۰۰، ۴۷۰۰، ۴۸۰۰، ۴۹۰۰، ۵۰۰۰، ۵۱۰۰، ۵۲۰۰، ۵۳۰۰، ۵۴۰۰، ۵۵۰۰، ۵۶۰۰، ۵۷۰۰، ۵۸۰۰، ۵۹۰۰، ۶۰۰۰، ۶۱۰۰، ۶۲۰۰، ۶۳۰۰، ۶۴۰۰، ۶۵۰۰، ۶۶۰۰، ۶۷۰۰، ۶۸۰۰، ۶۹۰۰، ۷۰۰۰، ۷۱۰۰، ۷۲۰۰، ۷۳۰۰، ۷۴۰۰، ۷۵۰۰، ۷۶۰۰، ۷۷۰۰، ۷۸۰۰، ۷۹۰۰، ۸۰۰۰، ۸۱۰۰، ۸۲۰۰، ۸۳۰۰، ۸۴۰۰، ۸۵۰۰، ۸۶۰۰، ۸۷۰۰، ۸۸۰۰، ۸۹۰۰، ۹۰۰۰، ۹۱۰۰، ۹۲۰۰، ۹۳۰۰، ۹۴۰۰، ۹۵۰۰، ۹۶۰۰، ۹۷۰۰، ۹۸۰۰، ۹۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۱۰، ۱۰۲۰، ۱۰۳۰، ۱۰۴۰، ۱۰۵۰، ۱۰۶۰، ۱۰۷۰، ۱۰۸۰، ۱۰۹۰، ۱۱۰۰، ۱۱۱۰، ۱۱۲۰، ۱۱۳۰، ۱۱۴۰، ۱۱۵۰، ۱۱۶۰، ۱۱۷۰، ۱۱۸۰، ۱۱۹۰، ۱۲۰۰، ۱۲۱۰، ۱۲۲۰، ۱۲۳۰، ۱۲۴۰، ۱۲۵۰، ۱۲۶۰، ۱۲۷۰، ۱۲۸۰، ۱۲۹۰، ۱۳۰۰، ۱۳۱۰، ۱۳۲۰، ۱۳۳۰، ۱۳۴۰، ۱۳۵۰، ۱۳۶۰، ۱۳۷۰، ۱۳۸۰، ۱۳۹۰، ۱۴۰۰، ۱۴۱۰، ۱۴۲۰، ۱۴۳۰، ۱۴۴۰، ۱۴۵۰، ۱۴۶۰، ۱۴۷۰، ۱۴۸۰، ۱۴۹۰، ۱۵۰۰، ۱۵۱۰، ۱۵۲۰، ۱۵۳۰، ۱۵۴۰، ۱۵۵۰، ۱۵۶۰، ۱۵۷۰، ۱۵۸۰، ۱۵۹۰، ۱۶۰۰، ۱۶۱۰، ۱۶۲۰، ۱۶۳۰، ۱۶۴۰، ۱۶۵۰، ۱۶۶۰، ۱۶۷۰، ۱۶۸۰، ۱۶۹۰، ۱۷۰۰، ۱۷۱۰، ۱۷۲۰، ۱۷۳۰، ۱۷۴۰، ۱۷۵۰، ۱۷۶۰، ۱۷۷۰، ۱۷۸۰، ۱۷۹۰، ۱۸۰۰، ۱۸۱۰، ۱۸۲۰، ۱۸۳۰، ۱۸۴۰، ۱۸۵۰، ۱۸۶۰، ۱۸۷۰، ۱۸۸۰، ۱۸۹۰، ۱۹۰۰، ۱۹۱۰، ۱۹۲۰، ۱۹۳۰، ۱۹۴۰، ۱۹۵۰، ۱۹۶۰، ۱۹۷۰، ۱۹۸۰، ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰، ۲۰۲۰، ۲۰۳۰، ۲۰۴۰، ۲۰۵۰، ۲۰۶۰، ۲۰۷۰، ۲۰۸۰، ۲۰۹۰، ۲۱۰۰، ۲۱۱۰، ۲۱۲۰، ۲۱۳۰، ۲۱۴۰، ۲۱۵۰، ۲۱۶۰، ۲۱۷۰، ۲۱۸۰، ۲۱۹۰، ۲۲۰۰، ۲۲۱۰، ۲۲۲۰، ۲۲۳۰، ۲۲۴۰، ۲۲۵۰، ۲۲۶۰، ۲۲۷۰، ۲۲۸۰، ۲۲۹۰، ۲۳۰۰، ۲۳۱۰، ۲۳۲۰، ۲۳۳۰، ۲۳۴۰، ۲۳۵۰، ۲۳۶۰، ۲۳۷۰، ۲۳۸۰، ۲۳۹۰، ۲۴۰۰، ۲۴۱۰، ۲۴۲۰، ۲۴۳۰، ۲۴۴۰، ۲۴۵۰، ۲۴۶۰، ۲۴۷۰، ۲۴۸۰، ۲۴۹۰، ۲۵۰۰، ۲۵۱۰، ۲۵۲۰، ۲۵۳۰، ۲۵۴۰، ۲۵۵۰، ۲۵۶۰، ۲۵۷۰، ۲۵۸۰، ۲۵۹۰، ۲۶۰۰، ۲۶۱۰، ۲۶۲۰، ۲۶۳۰، ۲۶۴۰، ۲۶۵۰، ۲۶۶۰، ۲۶۷۰، ۲۶۸۰، ۲۶۹۰، ۲۷۰۰، ۲۷۱۰، ۲۷۲۰، ۲۷۳۰، ۲۷۴۰، ۲۷۵۰، ۲۷۶۰، ۲۷۷۰، ۲۷۸۰، ۲۷۹۰، ۲۸۰۰، ۲۸۱۰، ۲۸۲۰، ۲۸۳۰، ۲۸۴۰، ۲۸۵۰، ۲۸۶۰، ۲۸۷۰، ۲۸۸۰، ۲۸۹۰، ۲۹۰۰، ۲۹۱۰، ۲۹۲۰، ۲۹۳۰، ۲۹۴۰، ۲۹۵۰، ۲۹۶۰، ۲۹۷۰، ۲۹۸۰، ۲۹۹۰، ۳۰۰۰، ۳۰۱۰، ۳۰۲۰، ۳۰۳۰، ۳۰۴۰، ۳۰۵۰، ۳۰۶۰، ۳۰۷۰، ۳۰۸۰، ۳۰۹۰، ۳۱۰۰، ۳۱۱۰، ۳۱۲۰، ۳۱۳۰، ۳۱۴۰، ۳۱۵۰، ۳۱۶۰، ۳۱۷۰، ۳۱۸۰، ۳۱۹۰، ۳۲۰۰، ۳۲۱۰، ۳۲۲۰، ۳۲۳۰، ۳۲۴۰، ۳۲۵۰، ۳۲۶۰، ۳۲۷۰، ۳۲۸۰، ۳۲۹۰، ۳۳۰۰، ۳۳۱۰، ۳۳۲۰، ۳۳۳۰، ۳۳۴۰، ۳۳۵۰، ۳۳۶۰، ۳۳۷۰، ۳۳۸۰، ۳۳۹۰، ۳۴۰۰، ۳۴۱۰، ۳۴۲۰، ۳۴۳۰، ۳۴۴۰، ۳۴۵۰، ۳۴۶۰، ۳۴۷۰، ۳۴۸۰، ۳۴۹۰، ۳۵۰۰، ۳۵۱۰، ۳۵۲۰، ۳۵۳۰، ۳۵۴۰، ۳۵۵۰، ۳۵۶۰، ۳۵۷۰، ۳۵۸۰، ۳۵۹۰، ۳۶۰۰، ۳۶۱۰، ۳۶۲۰، ۳۶۳۰، ۳۶۴۰، ۳۶۵۰، ۳۶۶۰، ۳۶۷۰، ۳۶۸۰، ۳۶۹۰، ۳۷۰۰، ۳۷۱۰، ۳۷۲۰، ۳۷۳۰، ۳۷۴۰، ۳۷۵۰، ۳۷۶۰، ۳۷۷۰، ۳۷۸۰، ۳۷۹۰، ۳۸۰۰، ۳۸۱۰، ۳۸۲۰، ۳۸۳۰، ۳۸۴۰، ۳۸۵۰، ۳۸۶۰، ۳۸۷۰، ۳۸۸۰، ۳۸۹۰، ۳۹۰۰، ۳۹۱۰، ۳۹۲۰، ۳۹۳۰، ۳۹۴۰، ۳۹۵۰، ۳۹۶۰، ۳۹۷۰، ۳۹۸۰، ۳۹۹۰، ۴۰۰۰، ۴۰۱۰، ۴۰۲۰، ۴۰۳۰، ۴۰۴۰، ۴۰۵۰، ۴۰۶۰، ۴۰۷۰، ۴۰۸۰، ۴۰۹۰، ۴۱۰۰، ۴۱۱۰، ۴۱۲۰، ۴۱۳۰، ۴۱۴۰، ۴۱۵۰، ۴۱۶۰، ۴۱۷۰، ۴۱۸۰، ۴۱۹۰، ۴۲۰۰، ۴۲۱۰، ۴۲۲۰، ۴۲۳۰، ۴۲۴۰، ۴۲۵۰، ۴۲۶۰، ۴۲۷۰، ۴۲۸۰، ۴۲۹۰، ۴۳۰۰، ۴۳۱۰، ۴۳۲۰، ۴۳۳۰، ۴۳۴۰، ۴۳۵۰، ۴۳۶۰، ۴۳۷۰، ۴۳۸۰، ۴۳۹۰، ۴۴۰۰، ۴۴۱۰، ۴۴۲۰، ۴۴۳۰، ۴۴۴۰، ۴۴۵۰، ۴۴۶۰، ۴۴۷۰، ۴۴۸۰، ۴۴۹۰، ۴۵۰۰، ۴۵۱۰، ۴۵۲۰، ۴۵۳۰، ۴۵۴۰، ۴۵۵۰، ۴۵۶۰، ۴۵۷۰، ۴۵۸۰، ۴۵۹۰، ۴۶۰۰، ۴۶۱۰، ۴۶۲۰، ۴۶۳۰، ۴۶۴۰، ۴۶۵۰، ۴۶۶۰، ۴۶۷۰، ۴۶۸۰، ۴۶۹۰، ۴۷۰۰، ۴۷۱۰، ۴۷۲۰، ۴۷۳۰، ۴۷۴۰، ۴۷۵۰، ۴۷۶۰، ۴۷۷۰، ۴۷۸۰، ۴۷۹۰، ۴۸۰۰، ۴۸۱۰، ۴۸۲۰، ۴۸۳۰، ۴۸۴۰، ۴۸۵۰، ۴۸۶۰، ۴۸۷۰، ۴۸۸۰، ۴۸۹۰، ۴۹۰۰، ۴۹۱۰، ۴۹۲۰، ۴۹۳۰، ۴۹۴۰، ۴۹۵۰، ۴۹۶۰، ۴۹۷۰، ۴۹۸۰، ۴۹۹۰، ۵۰۰۰، ۵۰۱۰، ۵۰۲۰، ۵۰۳۰، ۵۰۴۰، ۵۰۵۰، ۵۰۶۰، ۵۰۷۰، ۵۰۸۰، ۵۰۹۰، ۵۱۰۰، ۵۱۱۰، ۵۱۲۰، ۵۱۳۰، ۵۱۴۰، ۵۱۵۰، ۵۱۶۰، ۵۱۷۰، ۵۱۸۰، ۵۱۹۰، ۵۲۰۰، ۵۲۱۰، ۵۲۲۰، ۵۲۳۰، ۵۲۴۰، ۵۲۵۰، ۵۲۶۰، ۵۲۷۰، ۵۲۸۰، ۵۲۹۰، ۵۳۰۰، ۵۳۱۰، ۵۳۲۰، ۵۳۳۰، ۵۳۴۰، ۵۳۵۰، ۵۳۶۰، ۵۳۷۰، ۵۳۸۰، ۵۳۹۰، ۵۴۰۰، ۵۴۱۰، ۵۴۲۰، ۵۴۳۰، ۵۴۴۰، ۵۴۵۰، ۵۴۶۰، ۵۴۷۰، ۵۴۸۰، ۵۴۹۰، ۵۵۰۰، ۵۵۱۰، ۵۵۲۰، ۵۵۳۰، ۵۵۴۰، ۵۵۵۰، ۵۵۶۰، ۵۵۷۰، ۵۵۸۰، ۵۵۹۰، ۵۶۰۰، ۵۶۱۰، ۵۶۲۰، ۵۶۳۰، ۵۶۴۰، ۵۶۵۰، ۵۶۶۰، ۵۶۷۰، ۵۶۸۰، ۵۶۹۰، ۵۷۰۰، ۵۷۱۰، ۵۷۲۰، ۵۷۳۰، ۵۷۴۰، ۵۷۵۰، ۵۷۶۰، ۵۷۷۰، ۵۷۸۰، ۵۷۹۰، ۵۸۰۰، ۵۸۱۰، ۵۸۲۰، ۵۸۳۰، ۵۸۴۰، ۵۸۵۰، ۵۸۶۰، ۵۸۷۰، ۵۸۸۰، ۵۸۹۰، ۵۹۰۰، ۵۹۱۰، ۵۹۲۰، ۵۹۳۰، ۵۹۴۰، ۵۹۵۰، ۵۹۶۰، ۵۹۷۰، ۵۹۸۰، ۵۹۹۰، ۶۰۰۰، ۶۰۱۰، ۶۰۲۰، ۶۰۳۰، ۶۰۴۰، ۶۰۵۰، ۶۰۶۰، ۶۰۷۰، ۶۰۸۰، ۶۰۹۰، ۶۱۰۰، ۶۱۱۰، ۶۱۲۰، ۶۱۳۰، ۶۱۴۰، ۶۱۵۰، ۶۱۶۰، ۶۱۷۰، ۶۱۸۰، ۶۱۹۰، ۶۲۰۰، ۶۲۱۰، ۶۲۲۰، ۶۲۳۰، ۶۲۴۰، ۶۲۵۰، ۶۲۶۰، ۶۲۷۰، ۶۲۸۰، ۶۲۹۰، ۶۳۰۰، ۶۳۱۰، ۶۳۲۰، ۶۳۳۰، ۶۳۴۰، ۶۳۵۰، ۶۳۶۰، ۶۳۷۰، ۶۳۸۰، ۶۳۹۰، ۶۴۰۰، ۶۴۱۰، ۶۴۲۰، ۶۴۳۰، ۶۴۴۰، ۶۴۵۰، ۶۴۶۰، ۶۴۷۰، ۶۴۸۰، ۶۴۹۰، ۶۵۰۰، ۶۵۱۰، ۶۵۲۰، ۶۵۳۰، ۶۵۴۰، ۶۵۵۰، ۶۵۶۰، ۶۵۷۰، ۶۵۸۰، ۶۵۹۰، ۶۶۰۰، ۶۶۱۰، ۶۶۲۰، ۶۶۳۰، ۶۶۴۰، ۶۶۵۰، ۶۶۶۰، ۶۶۷۰، ۶۶۸۰، ۶۶۹۰، ۶۷۰۰، ۶۷۱۰، ۶۷۲۰، ۶۷۳۰، ۶۷۴۰، ۶۷۵۰، ۶۷۶۰، ۶۷۷۰، ۶۷۸۰، ۶۷۹۰، ۶۸۰۰، ۶۸۱۰، ۶۸۲۰، ۶۸۳۰، ۶۸۴۰، ۶۸۵۰، ۶۸۶۰، ۶۸۷۰، ۶۸۸۰، ۶۸۹۰، ۶۹۰۰، ۶۹۱۰، ۶۹۲۰، ۶۹۳۰، ۶۹۴۰، ۶۹۵۰، ۶۹۶۰، ۶۹۷۰، ۶۹۸۰، ۶۹۹۰، ۷۰۰۰، ۷۰۱۰، ۷۰۲۰، ۷۰۳۰، ۷۰۴۰، ۷۰۵۰، ۷۰۶۰، ۷۰۷۰، ۷۰۸۰، ۷۰۹۰، ۷۱۰۰، ۷۱۱۰، ۷۱۲۰، ۷۱۳۰، ۷۱۴۰، ۷۱۵۰، ۷۱۶۰، ۷۱۷۰، ۷۱۸۰، ۷۱۹۰، ۷۲۰۰، ۷۲۱۰، ۷۲۲۰، ۷۲۳۰، ۷۲۴۰، ۷۲۵۰، ۷۲۶۰، ۷۲۷۰، ۷۲۸۰، ۷۲۹۰، ۷۳۰۰، ۷۳۱۰، ۷۳۲۰، ۷۳۳۰، ۷۳۴۰، ۷۳۵۰، ۷۳۶۰، ۷۳۷۰، ۷۳۸۰، ۷۳۹۰، ۷۴۰۰، ۷۴۱۰، ۷۴۲۰، ۷۴۳۰، ۷۴۴۰، ۷۴۵۰، ۷۴۶۰، ۷۴۷۰، ۷۴۸۰، ۷۴۹۰، ۷۵۰۰، ۷۵۱۰، ۷۵۲۰، ۷۵۳۰، ۷۵۴۰، ۷۵۵۰، ۷۵۶۰، ۷۵۷۰، ۷۵۸۰، ۷۵۹۰، ۷۶۰۰، ۷۶۱۰، ۷۶۲۰، ۷۶۳۰، ۷۶۴۰، ۷۶۵۰، ۷۶۶۰، ۷۶۷۰، ۷۶۸۰، ۷۶۹۰، ۷۷۰۰، ۷۷۱۰، ۷۷۲۰، ۷۷۳۰، ۷۷۴۰، ۷۷۵۰، ۷۷۶۰، ۷۷۷۰، ۷۷۸۰، ۷۷۹۰، ۷۸۰۰، ۷۸۱۰، ۷۸۲۰، ۷۸۳۰، ۷۸۴۰، ۷۸۵۰، ۷۸۶۰، ۷۸۷۰، ۷۸۸۰، ۷۸۹۰، ۷۹۰۰، ۷۹۱۰، ۷۹۲۰، ۷۹۳۰، ۷۹۴۰، ۷۹۵۰، ۷۹۶۰، ۷۹۷۰، ۷۹۸۰، ۷۹۹۰، ۸۰۰۰، ۸۰۱۰، ۸۰۲۰، ۸۰۳۰، ۸۰۴۰، ۸۰۵۰، ۸۰۶۰، ۸۰۷۰، ۸۰۸۰، ۸۰۹۰، ۸۱۰۰، ۸۱۱۰، ۸۱۲۰، ۸۱۳۰، ۸۱۴۰، ۸۱۵۰، ۸۱۶۰، ۸۱۷۰، ۸۱۸۰، ۸۱۹۰، ۸۲۰۰، ۸۲۱۰، ۸۲۲۰، ۸۲۳۰، ۸۲۴۰، ۸۲۵۰، ۸۲۶۰، ۸۲۷۰، ۸۲۸۰، ۸۲۹۰، ۸۳۰۰، ۸۳۱۰، ۸۳۲۰، ۸۳۳۰، ۸۳۴۰، ۸۳۵۰، ۸۳۶۰، ۸۳۷۰، ۸۳۸۰، ۸۳۹۰، ۸۴۰۰، ۸۴۱۰، ۸۴۲۰، ۸۴۳۰، ۸۴۴۰، ۸۴۵۰، ۸۴۶۰، ۸۴۷۰، ۸۴۸۰، ۸۴۹۰، ۸۵۰۰، ۸۵۱۰، ۸۵۲۰، ۸۵۳۰، ۸۵۴۰، ۸۵۵۰، ۸۵۶۰، ۸۵۷۰، ۸۵۸۰، ۸۵۹۰، ۸۶۰۰، ۸۶۱۰، ۸۶۲۰، ۸۶۳۰، ۸۶۴۰، ۸۶۵۰، ۸۶۶۰، ۸۶۷۰، ۸۶۸۰، ۸۶۹۰، ۸۷۰۰، ۸۷۱۰، ۸۷۲۰، ۸۷۳۰، ۸۷۴۰، ۸۷۵۰، ۸۷۶۰، ۸۷۷۰، ۸۷۸۰، ۸۷۹۰، ۸۸۰۰، ۸۸۱۰، ۸۸۲۰، ۸۸۳۰، ۸۸۴۰، ۸۸۵۰، ۸۸۶۰، ۸۸۷۰، ۸۸۸۰، ۸۸۹۰، ۸۹۰۰، ۸۹۱۰، ۸۹۲۰، ۸۹۳۰، ۸۹۴۰، ۸۹۵۰، ۸۹۶۰، ۸۹۷۰، ۸۹۸۰، ۸۹۹۰، ۹۰۰۰، ۹۰۱۰، ۹۰۲۰، ۹۰۳۰، ۹۰۴۰، ۹۰۵۰، ۹۰۶۰، ۹۰۷۰، ۹۰۸۰، ۹۰۹۰، ۹۱۰۰، ۹۱۱۰، ۹۱۲۰، ۹۱۳۰، ۹۱۴۰، ۹۱۵۰، ۹۱۶۰، ۹۱۷۰، ۹۱۸۰، ۹۱۹۰، ۹۲۰۰، ۹۲۱۰، ۹۲۲۰، ۹۲۳۰، ۹۲۴۰، ۹۲۵۰، ۹۲۶۰، ۹۲۷۰، ۹۲۸۰، ۹۲۹۰، ۹۳۰۰، ۹۳۱۰، ۹۳۲۰، ۹۳۳۰، ۹۳۴۰، ۹۳۵۰، ۹۳۶۰، ۹۳۷۰، ۹۳۸۰، ۹۳۹۰، ۹۴۰۰، ۹۴۱۰، ۹۴۲۰، ۹۴۳۰، ۹۴۴۰، ۹۴۵۰، ۹۴۶۰، ۹۴۷۰، ۹۴۸۰، ۹۴۹۰، ۹۵۰۰، ۹۵۱۰، ۹۵۲۰، ۹۵۳۰، ۹۵۴۰، ۹۵۵۰، ۹۵۶۰، ۹۵۷۰، ۹۵۸۰، ۹۵۹۰، ۹۶۰۰، ۹۶۱۰، ۹۶۲۰، ۹۶۳۰، ۹۶۴۰، ۹۶۵۰، ۹۶۶۰، ۹۶۷۰، ۹۶۸۰، ۹۶۹۰، ۹۷۰۰، ۹۷۱۰، ۹۷۲۰، ۹۷۳۰، ۹۷۴۰، ۹۷۵۰، ۹۷۶۰، ۹۷۷۰، ۹۷۸۰، ۹۷۹۰، ۹۸۰۰، ۹۸۱۰، ۹۸۲۰، ۹۸۳۰، ۹۸۴۰، ۹۸۵۰، ۹۸۶۰، ۹۸۷۰، ۹۸۸۰، ۹۸۹۰، ۹۹۰۰، ۹۹۱۰، ۹۹۲۰، ۹۹۳۰، ۹۹۴۰، ۹۹۵۰، ۹۹۶۰، ۹۹۷۰، ۹۹۸۰، ۹۹۹۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱

پیمان صلح حدیبیہ (فتح آشکار)

عثمان کے بے نتیجہ پلٹنے کے بعد آخر کار سہیل بن عمرو قریش کا نمائندہ بن کر پیغمبرؐ کے پاس آیا اور آنحضرتؐ سے مذاکرات کئے اور کہا کہ قریش کی طرف سے ہر طرح کی بات چیت کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ اس سال مسلمان عمرہ نہ کریں۔¹

اس گفتگو کے ذریعہ جو عہد و پیمان کیا گیا وہ ”صلح حدیبیہ“ کے نام سے مشہور ہوا، جس کی شرطیں یہ ہیں :

۱۔ قریش اور مسلمان اس بات کا عہد کریں کہ دس سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے اور اجتماعی امن و امان برقرار رکھیں گے۔

۲۔ محمدؐ اور تمام مسلمان اس سال مکہ میں داخل نہیں ہوں گے لیکن آئندہ سال قریش اسی موقع پر مکہ سے باہر چلے جائیں گے اور مسلمان تین دن مکہ میں رہ کر عمرہ کریں گے؛ اور مسافر جتنا ہتھیار لے کر چل سکتا ہے اس سے زیادہ وہ اپنے ساتھ ہتھیار نہ رکھیں۔²

۳۔ اگر قریش کا کوئی آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر محمدؐ کے پاس چلا جائے تو اس کو مکہ واپس کیا جائے اور اگر محمدؐ کے ساتھیوں میں سے کوئی قریش کے پاس آجائے تو قریش اس کو واپس نہیں کریں گے۔

۴۔ ہر قبیلہ آزاد ہے چاہے وہ محمدؐ کے ساتھ عہد و پیمان کرے یا قریش کے ساتھ، (اس مقام پر قبیلہ خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ عہد و پیمان کا اعلان کیا اور بنو بکر نے قریش کے ساتھ عہد و پیمان کا اعلان کیا)۔

۵۔ مسلمان اور قریش دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے اور ان کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے اور دشمنی کا اظہار نہیں کریں گے۔³

۶۔ مکہ میں اسلام کی پیروی آزاد رہے گی اور کسی بھی شخص کو ایک خاص دین کی پیروی کی خاطر اذیت نہیں دی جائے گی اور اس کی مذمت نہیں کی جائے گی۔⁴

۷۔ اصحاب محمدؐ میں سے جو شخص حج یا عمرہ یا تجارت کے لئے مکہ جائے اس کی جان و مال امان میں رہے گی اور قریش میں سے جو شخص مصر یا شام جانے کے لئے مدینہ کے راستے سے گزرے گا اس کی جان و مال امان میں رہے گی۔⁵

1 طبری، گزشتہ حوالہ، ص ۷۸؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ۳۳۱۔

2 اس شرط کی رو سے، پیغمبر اسلامؐ اور مسلمانوں نے مکہ میں عمرہ انجام دیا جس کو ”عمرة القضاء“ کہا گیا ہے۔

3 پیمان کی اس شرط کا عربی متن یہ ہے: ”لا اسلال ولا اغلال و ان بیننا و بینہم عیبة مکفوفة“ اسلال کے معنی خفیہ چوری اور کسی کی حمایت و مدد کرنا اور نیزات کو حملہ کرنے کے معنی میں ہے۔ (ابن اثیر، النہایۃ فی غریب الحدیث والاثار، ج ۲، ص ۳۹۲، مادہ سل) قرآن کے حساب سے، یہاں دوسرے معنی مراد ہیں (احمد میمانجی، مکتائب الرسول، ج ۱، ص ۲۷۷) اسی وجہ سے (بعض معاصر مورخین کے برخلاف) ہم نے اس کا ترجمہ چوری نہیں کیا ہے۔

4 طبری، گزشتہ حوالہ، ص ۹۷؛ بلاذری، گزشتہ حوالہ، ص ۳۵۱۔ ۳۵۰؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ۳۳۲؛ طبری، اعلام الوری، ص ۹۷؛ بحار الانوار، ج ۲۰، ص ۳۵۲؛ اور رجوع کریں: طبقات الکبریٰ، ج ۲، ص ۱۰۱، ۱۰۲۔

5 طبری، اعلام الوری، ص ۹۷؛ حلبی، السیرۃ الحلبیہ، ج ۲، ص ۷۷؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۰، ص ۳۵۰ اور ۳۵۲۔

پیغمبر کی پیشین گوئی

بیان صلح کے اصول پر موافقت کے بعد، جس وقت پیغمبر کے کہنے پر علیؑ نے صلح نامے کا مضمون لکھا تو نمائندہ قریش نے صلح نامے کے اوپر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نام محمد کے بعد ”رسول اللہ“ لکھنے کی مخالفت کی اور اس موضوع پر گفتگو کافی طولانی ہو گئی اور آخر کار رسول خداؐ نے کچھ مصلحتوں کے پیش نظر جو اس عہد و بیان میں پائی جاتی تھیں، مجبور ہو کر موافقت کی اور علیؑ رسول اللہ کا عنوان مٹانے سے کنارہ کش ہو گئے تو آپ نے فرمایا: ایسے حالات تمہارے لئے بھی پیش آئیں گے اور مجبور ہو کر تمہیں بھی ماننا پڑے گا¹ اور یہ پیشین گوئی جنگ صفین میں مسئلہ حکمت کے موقع پر معاویہ کے اصرار پر علیؑ کے نام کے آخر سے ”امیر المومنین کا عنوان“ مٹانے پر پوری ہوئی۔²

صلح حدیبیہ کے آثار و نتائج

چونکہ مسلمان مستقبل میں اس صلح کے آثار و نتائج سے بے خبر تھے، لہذا اس کو ”تفکست“ سمجھتے تھے³ اور کچھ لوگ اس کو منت و سہابت کہتے تھے۔⁴ تاکہ رسول خداؐ کو اس صلح پر دستخط کرنے سے روک سکیں؛ لیکن جیسا کہ پیغمبر اسلامؐ نے پیشین بینی کی تھی، اس صلح میں متعدد سیاسی و سماجی اثرات و نتائج پائے جاتے تھے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں:

۱۔ اس صلح کے نتیجے میں مشرکین نے مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کیا۔ جبکہ اس سے پہلے مشرکین مسلمانوں کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور ان کی نابودی میں لگے ہوئے تھے۔

۲۔ مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان جو آہنی دیوار حائل تھی وہ اس صلح کے نتیجے میں گر گئی اور مکہ و مدینہ میں آمد و رفت، اور دونوں طرف کے لوگوں میں آزادانہ ارتباط اور اعتقادی بحث و مباحثہ کی وجہ سے مشرکین کی ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کے استدلال اور نئی منطق کو

1 طبرسی، مجمع البیان، ج ۹، ص ۱۱۸؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج ۲۰، ص ۳۵۰-۳۳۳؛ صلح حدیبیہ کے سلسلہ میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے رجوع کریں: مکتب الرسول، علی احمد میاں جی، ج ۱، ص ۲۷۵ اور ۲۸۷؛ کتاب وثائق، تالیف محمد حمید اللہ، ترجمہ: محمود مہدوی دامغانی، (تہران: ط و نشر بنیاد، ۱۳۶۵)، ص ۶۸ و ۶۶۔

2 نصر بن مزاحم، گزشتہ حوالہ، ص ۵۰۹-۵۰۸؛ طبرسی، گزشتہ حوالہ، ص ۹۷؛ ابن واضح، تاریخ یعقوبی، (نجف: المکتبۃ الحیدریہ، ۱۳۸۴ھ، ق) ج ۲، ص ۱۷۹؛ ابو حنیفہ دینوری، الاخبار الطوال، تحقیق: عدنان المنعم عامر (قاہرہ: دار احیاء الکتب العربیہ، ۱۹۶۰)، ص ۱۹۴؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ (بیروت: دار صادر)، ج ۳، ص ۳۲؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ص ۷۰۸۔

3 مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج ۲۰، ص ۳۵۰۔

4 واقدی، مغازی، ج ۲، ص ۶۰۷؛ ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۳، ص ۳۳۱؛ طبرسی، تاریخ الامم والملوک، ج ۳، ص ۹۷؛ حلبی، السیرۃ الحلبیہ، ج ۲، ص ۷۰۶؛ اس واقعہ میں پیغمبر کے ارادہ کی بعض مسلمانوں کی طرف سے کھلی مخالفت ایک طرح سے حکم پیغمبرؐ یا درحقیقت حکم خدا کے مقابلہ میں ان کے بے جا اجتہاد یا خود رائے کی علامت تھی۔ اس قسم کی حرکت جو کہ بعد میں بھی پیغمبر کے چند صحابیوں کی طرف تکرار ہوئی، تاریخ اسلام میں تلخ و ناگوار واقعات کا سرچشمہ بنی جبکہ مسلمان ہونے کا مطلب حکم خدا اور پیغمبر کی اطاعت اور پیروی اور ان کے ارادہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: ”وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مَوْبِیةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا“ (سورۃ احزاب، آیت ۳۶)۔

سن کر اسلام کی طرف راغب ہو گئی اور مسلمان ہونے والوں کی تعداد اس صلح کے بعد فتح مکہ والے سال تک، ان کی گزشتہ مجموعی تعداد کے برابر یا اس سے زیادہ ہو گئی۔¹

اس بارے میں یہ جاننا کافی ہو گا کہ اس سفر میں پیغمبرؐ کے اصحاب اٹھارہ سو (۱۸۰۰) سے زیادہ نہیں تھے جبکہ دو سال بعد فتح مکہ کے موقع پر اسلامی سپاہیوں کی تعداد دس ہزار تک پہنچ گئی تھی۔

امام جعفر صادقؑ، اسلام کے حق میں حالات کی اس بڑی تبدیلی کے بارے میں فرماتے ہیں :

”ابھی دو سال صلح کا زمانہ تمام نہیں ہوا تھا کہ قریب تھا کہ اسلام پورے مکہ پر چھا جائے۔“²

۳۔ قریش کی مخالفتیں اور دشمنیاں اور ان کے فوجی حملوں کی وجہ سے، پیغمبرؐ کے لئے اتنا موقع فراہم نہیں ہو سکا تھا کہ جزیرہ العرب کے اندر اور باہر اعلیٰ پیمانے پر تبلیغ کر سکیں، لیکن صلح کے بعد رسول خداؐ کامیاب ہوئے کہ دشمنوں کو مدینہ کے اطراف سے ختم کر کے متعدد تبلیغی جماعتیں مختلف علاقوں میں بھیجیں۔ جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔ دنیا کے سربراہوں اور اہم شخصیتوں کو اسلام کی طرف دعوت کے خطوط، صلح حدیبیہ کے بعد ہی بھیجے گئے ہیں۔

۴۔ یہ صلح ایک طرح سے فتح مکہ کا باعث قرار پائی۔ اس لئے کہ صلح کی چوتھی شرط کے بموجب قبائل کا قریش یا مسلمانوں سے ملنا، آزاد اعلان ہوا تھا اور قبیلہ ”خزاعہ“ مسلمانوں کے ساتھ متحد ہو گئے تھے اور قریش نے اس قبیلے پر حملہ کر کے عہد شکنی کی جس کے نتیجہ میں پیغمبرؐ نے فتح مکہ کا اقدام کیا۔

یہ صلح اپنے درخشندہ آثار و نتائج کے لحاظ سے، مسلمانوں کے لئے بہت بڑی فتح اور کامیابی قرار پائی۔ جیسا کہ حدیبیہ سے پلٹتے وقت، مدینہ کے راستے میں ”سورہ فتح“ پیغمبرؐ پر نازل ہوا³ اور خداوند عالم نے اس صلح کو ”فتح مبین“ کہا۔⁴

1 ابن ہشام گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۳۳۶؛ طبری گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۸۱؛ حلبی گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۷۱۔

2 طبری، اعلام الوری، ص ۹۸؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۰، ص ۳۶۳۔

3 ابن سعد گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۱۰۵-۱۰۴؛ ابن ہشام گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۳۳۴؛ طبری، اعلام الوری، ص ۹۸؛ حلبی گزشتہ حوالہ، ص ۷۱۔

4 ”انا فتحنالک فتحاً مبیناً۔“

پانچواں حصہ

• عالمی دعوت سے رحلت پیغمبر اسلام ﷺ تک

• پہلی فصل: عالمی تبلیغ

• دوسری فصل: اسلام کا پھیلاؤ

• تیسری فصل: حجۃ الوداع اور رحلت پیغمبرؐ

پہلی فصل

عالمی تبلیغ

پیغمبر اکرمؐ کی عالمی رسالت

اگرچہ دین اسلام بظاہر جزیرہ نمائے عرب، اور ایک مختصر سے قبیلے سے شروع ہوا تھا اور پیغمبر اکرمؐ بھی اسی عرب قوم سے تعلق رکھتے تھے لیکن اسلام ایک علاقے یا عربوں سے مخصوص دین نہیں تھا جس پر قرآن مجید کی وہ بہت سی آیات دلیل اور شاہد ہیں جن میں عربوں یا قریش سے خطاب نہیں کیا گیا بلکہ قرآن کے مخاطب ناس (تمام لوگ) ہیں، البتہ جن مواقع پر اسلام کے پیروؤں سے کوئی پیغام مخصوص ہے یا انہیں کچھ شرعی احکامات بتائے گئے ہیں وہاں قرآن مجید کے مخاطب، صرف مومنین یا مسلمان ہیں۔ پیغمبر اکرمؐ نے بھی اپنی بعثت کی ابتداء سے ہی مکہ میں اپنے دین کو عالمی عنوان سے پیش کیا۔ چنانچہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں اسلام کے اس عالمی پیغام کی طرف واضح اشارہ موجود ہے۔ جس کے چند نمونے ہم یہاں پیش کر رہے ہیں:

۱۔ ”اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے۔ اے لوگو! بیشک میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔“^۱

۲۔ ”اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام انسانوں کے لئے بشیر اور نذیر بنا کر۔“^۲

۳۔ ”یہ قرآن مجید تمام عالمین کے لئے یاد آوری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔“^۳

۴۔ ”یہ کتاب ذکر اور قرآن مبین کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جو زندہ ہیں۔“^۴

۵۔ ”پروردگار وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر کامیاب اور کامران کر دے۔“^۵

۶۔ ”اور ہم نے آپ کو عالمین کے لئے سوائے رحمت کے اور کچھ نہیں بنا کر بھیجا ہے۔“^۶

۱ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً، سورۃ اعراف، آیت ۱۵۸۔

۲ وما ارسلناک الا کافۃً للناس بشیراً و نذیراً، سورۃ سبأ، آیت ۳۸۔

۳ وما ہو الا ذکر للعالمین، سورۃ قلم، آیت ۵۲۔

۴ ان ہو الا ذکر و قران مبین لینذر من کان حیاً، سورۃ یس، آیت ۶۰۔ ۶۹۔

۵ ہو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ...، سورۃ توبہ، آیت ۳۳۔

۶ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورۃ انبیاء، آیت ۱۰۷۔

یہ تمام آیتیں مکی سورتوں کی ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پیغمبرؐ کی دعوت اور آپ کا پیغام سب لوگوں کے لئے تھا اور مکہ سے ہی آپ کے پیغام کی یہ خصوصیت واضح اور روشن تھی۔

لیکن ان تمام روشن اور واضح دلائل کے باوجود بعض مغربی لوگوں نے جیسے ”گولت زیہر“ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پیغمبرؐ کے دین اور پیغام نیز آپ کی رسالت کو بعد میں عمومیت دی گئی اور آپ کی ابتدائی تعلیمات اس زمانہ کے عرب ماحول کی ضروریات سے زیادہ نہیں تھیں¹ جبکہ گزشتہ بیان کی روشنی میں یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس مغربی مدعی کی بات میں کتنا دم ہے اور ہمیں اس کے بارے میں مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔

عالمی تبلیغ کا آغاز

اگر پیغمبر اکرمؐ نے مکہ میں قیام کے دوران اس کے بعد ہجرت کے چند سال بعد تک، اسلام کو جزیرہ نمائے عرب سے باہر پھیلانے کے لئے کوئی قدم نہیں اٹھایا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ، یہودیوں اور دوسرے دشمنان دین کی ریشہ دوانیوں نے آپ کو اس کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ لیکن جب صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کے سامنے سے قریش کے تمام حملوں کے خطرات ٹل گئے اور آپ کو مدینہ میں نسبتاً سکون اور اطمینان حاصل ہوا تو آپ نے ذی الحجہ ۶ھ یا محرم ۷ھ میں اس دور کے اہم بادشاہوں کو خطوط لکھے جن میں ان کو اسلام کی طرف دعوت دی، پیغمبر اکرمؐ نے ایک دن کے اندر چھ خطوط اپنے چھ صحابیوں کے ذریعے اس دور کے شہنشاہان مملکت کے نام بھیجے جن کے نام یہ ہیں: نجاشی بادشاہ حبشہ، قیصر روم، خسرو پرویز بادشاہ ایران، مقوقص بادشاہ مصر، حارث بن شمر غسانی حاکم شام، حوضہ بن عدی بادشاہ یمامہ۔²

البتہ یہ پیغمبرؐ کی عالمی تبلیغ کا آغاز تھا اور دنیا کے اہل اقتدار کی طرف آپ کے دعوت نامے صرف انھیں چھ خطوط میں محدود نہیں رہے بلکہ آپ نے اس کے بعد بھی اپنی وفات تک مختلف مواقع پر دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی اپنے سفیر بھیجے تھے³ جن میں خطوط کا مضمون تقریباً ایک جیسا ہی تھا اور سب کے سب بہت ہی سادہ، بے تکلف اور صریح عبارت میں لکھے گئے تھے البتہ دنیا کے شہنشاہان مملکت کا عکس العمل ان کے مقابلے میں یکساں نہیں تھا۔

جنگ خیبر

خیبر چند قلعوں کے مجموعے کا نام تھا، جہاں کے لوگوں کا مشغلہ کھیتی باڑی کرنا اور مویشی پالنا تھا، وہ علاقہ چونکہ بہت ہی زرخیز تھا لہذا اس کو حجاز کے غلے کا گودام کہا جاتا تھا۔ خیبریوں کی اقتصادی حالت بہت اچھی تھی جس کا پتہ اس غذا اور اسلحوں کے اس ذخیرے سے لگایا جاسکتا ہے

1 رجوع کیجئے: محاکمہ گولت زیہر، یہودی، محمد غزالی مصری، صدر بلاغی کا ترجمہ (تہران، حسینہ ارشاد ۱۳۶۳) ص ۸۰-۷۹۔

2 ابن سعد، طبقات الکبریٰ، ج ۱، ص ۲۶۲-۲۵۸۔

3 علی احمد میمنجی، مکاتیب الرسول، ج ۱، ص ۳۱، ابن ہشام نے آنحضرتؐ کے خطوط کو دس عدد (سیرۃ النبویہ، ج ۴، ص ۲۵۴) یعقوبی نے پیغمبرؐ کے کل تبلیغی خطوط کی تعداد تیرہ عدد (تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۶۷-۶۶) اور مسعودی نے کتاب التنبیہ والاشراف میں (ص ۲۳۶-۲۲۷) ان خطوط کی تعداد چھ بتائی ہے۔ اس زمانے کے ایک محقق نے آپ کے خطوط کی کل تعداد بیس بتائی ہے۔ (احمد صابری ہمدانی، محمد و زمانہ اران، (تم: دارالعلم، ج ۲، ص ۱۳۴۶)

4 واقدی، المغازی، تحقیق مارسلن جونز، ج ۲، ص ۶۳۴، سیرۃ النبویہ، ابن ہشام، ج ۴، ص ۳۶۰۔

جو مسلمانوں کے ہاتھوں ان قلعوں کی فتح کے بعد سامنے آیا تھا۔ یہ قلعے نظامی اعتبار سے مستحکم اور مضبوط بنے ہوئے تھے جن کے اندر موجود فوجیوں کی تعداد دس ہزار تھی¹ اسی وجہ سے یہودی اپنے کو سب سے طاقتور سمجھتے تھے اور یہ تصور کرتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر ان سے جنگ کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے۔²

۶ھ میں سلام بن ابی الحقیق جو بنی نضیر کا ایک سردار تھا اور خیبر کے یہودیوں کی لیڈر شب اس کے ہاتھ میں آگئی تھی اس نے قبیلہ غطفان اور دوسرے مشرک قبیلوں کو جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی خاطر بڑی فوج تیار کر لی اس کی ان فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھوں اس کے قتل ہو جانے کے بعد خیبریوں نے اس کی جگہ اسیر ابن زارم³ کو اپنا سردار چن لیا اس نے بھی اسلام دشمنی کی وجہ سے ان قبائل کو اسلام کے خلاف اکسایا۔⁴

پیغمبر اکرمؐ نے گزشتہ دشمنیوں اور جھگڑوں کو مصالحت کے ساتھ حل کرنے کے لئے عبداللہ بن رواحہ کی سرپرستی میں ایک وفد اس کے پاس بھیجا تاکہ اس کو راضی کر سکے وہ جب عبداللہ بن رواحہ اور اپنے کچھ یہودی ساتھیوں کے ساتھ ایک وفد کی صورت میں مدینہ کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں اپنے اس فیصلے سے نادم ہوا اور اس نے سوچا کہ عبداللہ کو قتل کر دے، چنانچہ طرفین کی اس چھڑپ میں وہ اور اس کے ساتھی مارے گئے⁵ اور اس طرح پیغمبر کی یہ مصالحت آمیز کوشش کارگر نہ ہو سکی۔

ان تمام سازشوں اور فتنوں کے علاوہ موجودہ دور کے ایک مورخ کے بقول اس وقت یہ خطرہ بھی پایا جاتا تھا کہ خیبر کے یہودی، مسلمانوں سے پرانی دشمنی کی بنا پر اور بنی قینقاع، بنی نضیر اور بنی قریظہ کی شکست کا بدلہ لینے کے لئے ایران یا روم کے آدھ کار بن سکتے ہیں اور ان کے اشارے پر مسلمانوں پر حملہ کر سکتے ہیں۔⁶

پیغمبر اکرمؐ جب صلح حدیبیہ کے بعد جنوبی علاقے کے خطرات کی طرف سے مطمئن ہو گئے تو آپؐ نے ۶ھ کے آغاز میں ۱۴۰۰ افراد پر مشتمل، لشکر کے ساتھ⁷، یہودیوں کی گوش مالی کے لئے شمال کی طرف روانہ ہوئے اور اسلامی فوج کے لئے ایسے راستے کا انتخاب کیا جس سے غطفان جیسے طاقتور قبیلے کا رابطہ جس کا اس وقت خیبریوں سے معاہدہ تھا خیبریوں سے ٹوٹ گیا، جس کے بعد ان کے درمیان ایک دوسرے کی امداد اور تعاون کا کوئی امکان باقی نہیں رہ گیا۔⁸ یہودیوں پر اچانک اور ان کی بے توجہی سے فائدہ اٹھا کر حملہ کرنے کی حکمت عملی کے نتیجے میں راتوں رات قلعہ خیبر اسلامی فوج کے محاصرے میں آ گیا اور جب صبح ہوئی تو یہودیوں کے سردار اس خطرہ کی طرف متوجہ ہوئے۔

1 واقدی ہگزشتہ حوالہ، ص ۷۰۳-۳۶۷، یعقوبی نے ان کی تعداد بیس ہزار افراد لکھی ہے۔ (ج ۲، ص ۳۶)

2 واقدی ہگزشتہ حوالہ، ص ۷۳۷۔

3 یسیر م بن رزام یا رازم بھی لکھا گیا ہے۔ (ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۴، ص ۲۶۶)۔

4 الکبریٰ ابن سعد، ج ۲، ص ۹۲-۹۱۔

5 ابن ہشام ہگزشتہ حوالہ، ج ۴، ص ۲۶۷-۲۶۶۔

6 محمد حسین بیگل، حیات محمدؐ، (قاہرہ: مکتبۃ النهضة المصریہ، ط ۸)، ص ۳۸۶۔

7 واقدی ہگزشتہ حوالہ، ص ۶۸۹، طبقات الکبریٰ، محمد بن سعد، (بیروت: دار صادر)، ج ۲، ص ۱۰۷ ہگزشتہ حوالہ، ابن ہشام، ج ۴، ص ۳۶۴۔

8 واقدی ہگزشتہ حوالہ، ص ۶۳۹۔

البتہ پھر بھی مسلمانوں اور خبیروں کی یہ جنگ برابر کی لڑائی نہیں تھی کیونکہ وہ لوگ بہت ہی مضبوط و مستحکم اور مورچہ بند قلعوں کے اندر تھے اور انھوں نے قلعوں کے دروازے بند کر رکھے تھے اور میناروں کے اوپر سے تیر اندازی کر کے یا پتھر برساکر اسلامی فوج کو قلعہ کی دیوار سے نزدیک نہیں ہونے دے رہے تھے چنانچہ ایک حملے میں اسلامی فوج کے پچاس سپاہی زخمی ہو گئے۔¹

دوسری طرف سے ان کے پاس کافی مقدار میں خوراک کا ذخیرہ موجود تھا مگر اس محاصرہ کے طولانی ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے پاس خوراک کا ذخیرہ کم ہو گیا انجام کار نہایت دشواریوں اور زحمتوں کے بعد خیبر کے قلعے یکے بعد دیگرے مسلمانوں کے قبضہ میں آنے لگے لیکن آخری قلعہ جس کا نام قنوص تھا اور اس کا سپہ سالار مرحب تھا جو یہودیوں کا مشہور پہلوان بھی تھا یہ قلعہ آخر تک کسی طرح فتح نہ ہو سکا اور اسلامی فوج کے سپاہی اس پر قبضے نہ کر سکے۔ ایک روز پیغمبرؐ نے اسلامی فوج کا پرچم حضرت ابو بکر اور دوسرے روز حضرت عمر کے حوالہ کیا اور فوج کو ان کے ساتھ یہ قلعہ فتح کرنے کے لئے روانہ کیا لیکن دونوں افراد کسی کامیابی اور فتح کے بغیر رسول خدا کے پاس واپس آ گئے۔² آپ نے یہ صورت حال دیکھ کر ارشاد فرمایا: ”کل میں یہ پرچم اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں خداوند عالم اس قلعہ کو فتح کرائے گا وہ ایسا شخص ہے جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے اور خدا اور اس کا رسول بھی اسے دوست رکھتے ہیں وہ کرار غیر فرار ہوگا“ اس رات پیغمبرؐ کے تمام صحابہ کی یہی آرزو تھی کہ کل پیغمبرؐ، اسلامی فوج کا پرچم اس کے حوالے کر دیں جب سورج طلوع ہوا، پیغمبرؐ نے فرمایا: علی کہاں ہیں؟ سب نے عرض کی کہ علیؑ کو آشوب چشم ہے اور وہ آرام کر رہے ہیں، پیغمبر اکرمؐ نے حضرت علیؑ کو طلب کیا اور آپ کی آنکھوں کو اپنی کرامت سے شفا بخشی اور اس کے بعد اسلامی فوج کا علم ان کے حوالے کیا اور فرمایا:

ان کی طرف جاؤ اور جب ان کے قلعہ کے پاس پہنچنا تو پہلے انھیں اسلام کی دعوت دینا اور خدا کے احکام کی اطاعت کے بارے میں جو ان کا وظیفہ ہے وہ ان کو یاد دلانا، خدا کی قسم اگر پروردگار نے تمہارے ہاتھوں ان میں سے ایک شخص کو بھی ہدایت کر دی تو یہ تمہارے لئے اس سے کہیں بہتر ہے کہ تمہارے پاس سرخ بالوں³ والے بہت سے اونٹ ہوں۔⁴

1 وہی حوالہ، ص ۶۴۶۔

2 طبری، تاریخ الامم والملوک (بیروت: دار القاموس الحدیث) ج ۳، ص ۹۳؛ ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۲، ص ۳۹۹؛ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ (بیروت: مکتبۃ المعارف، ط ۲، ۱۹۷۷ء) ج ۲، ص ۱۸۶۔

3 سرخ بالوں والے اونٹ سب سے زیادہ پسندیدہ اور قیمتی ہوتے تھے یہ مثال بہت زیادہ مال و دولت کی طرف اشارہ تھی۔

4 پیغمبر اسلامؐ کا یہ کلام اور حضرت علیؑ کی سرداری تھوڑے سے الفاظ اور تعبیرات کے اختلاف کے ساتھ مندرجہ ذیل کتابوں میں نقل ہوئی ہیں:

صحیح بخاری، تحقیق: الشیخ قاسم اشاعی الرفاعی (بیروت: دار القلم، ط ۱، ۱۴۰۷ھ، ق) ج ۵؛ کتاب المغازی، باب ۱۵۵، ص ۲۴۵؛ صحیح مسلم، بشرح النوی (بیروت: دار الفکر، ۱۴۰۱ھ، ق) ج ۱۵، ص ۷۷-۷۸؛ ابن سعد، طبقات الکبریٰ (بیروت: دار صادر) ج ۲، ص ۱۱۱-۱۱۰؛ صدوق، کتاب الخصال (قم: منشورات جماعۃ المدرسین، ۱۴۰۳ھ، ق) ج ۳۱۱ (باب الخمسة)؛ طبری، تاریخ الامم والملوک (بیروت: دار القاموس الحدیث) ج ۳، ص ۹۳؛ شیخ سلیمان قدوسی حنفی، ینایج المودۃ (بیروت: مؤسسۃ العلمی للمطبوعات) ج ۱، ص ۷۷؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ (بیروت: دار صادر) ج ۲، ص ۲۱۹؛ ابن عبد البر، الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب (در حاشیہ الاصابہ) ج ۳، ص ۳۶؛ حاکم نیشاپوری، المستدرک علی الصحیحین (بیروت: دار المعرفہ، ۱۴۰۶ھ، ق) ج ۳، ص ۱۰۹؛ ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۳، ص ۳۹۹؛ ابن حجر ہیثمی، صواعق المحرقة، مکتبۃ القاہرہ، ۱۳۸۵ھ، ق) ج ۱، ص ۱۲۱؛ واقدی، المغازی، ج ۲، ص ۲۳۵؛ ابن واضح، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۳۶؛ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ج ۲، ص ۱۸۶؛ علی، انسان العیون (السیرۃ الجلیلیہ) ج ۲، ص ۳۶-۳۳؛ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، الامالی (قم: دار الشفاء، ۱۴۱۴ھ، ق) ص ۳۸۰۔

حضرت علیؓ۔ پیغمبر اکرمؐ کے حکم کے مطابق روانہ ہوئے اور ایک دلیرانہ جنگ میں مرحب کو قتل کیا اور بے نظیر و لاجواب شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مستحکم اور مضبوط قلعے کو فتح کر لیا۔ جیسا کہ آپؐ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس فتنہ اور فساد اور سازشوں کے اڈے یعنی خیبر کی فتح میں چند اسباب اور عوامل کار فرما تھے جن میں سے پیغمبر اکرمؐ کی بہترین سپہ سالاری اور جنگی حکمت عملی (جیسے دشمن کی غفلت سے فائدہ اٹھانا دشمن سے متعلق خبریں اور ان کے قلعوں کی اندرونی معلومات حاصل کرنا) اور بالآخر حضرت علیؓ کی بے نظیر شجاعت کا بھی اس میں کافی اہم کردار تھا۔ پیغمبر اکرمؐ نے حضرت علیؓ کی اس بہادری اور فداکاری کو اس انداز سے سراہا کہ اس دور کے ہر مسلمان بچے بچے کی زبان پر آپؐ کی بہادری کا کلمہ تھا اور اس کے مدتوں بعد تک آئندہ نسلوں کو بھی یہ واقعہ معلوم تھا اور اس دور کی تاریخ میں اسے اتنا عیاں اور روشن سمجھا جاتا تھا کہ معاویہ نے اپنی حکومت میں حضرت علیؓ پر سب و شتم کو عام کرنے کے باوجود جب ایک دن سعد و قاص سے کہا کہ تم علیؓ پر سب و شتم کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا: میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے بخوبی یاد ہے کہ پیغمبرؐ نے ان کی ایسی تین فضیلتیں بیان فرمائی ہیں کہ میری آرزو اور تمنا ہے کہ کاش ان میں سے صرف ایک ہی فضیلت میرے اندر بھی پائی جاتی۔

۱۔ ایک جنگ (جنگ تبوک) میں جاتے وقت پیغمبرؐ نے ان کو مدینہ میں اپنا جانشین بنادیا تھا تو انھوں نے پیغمبرؐ سے کہا تھا کہ آپؐ نے مجھے شہر میں بچوں اور عورتوں کے ساتھ چھوڑ دیا! پیغمبرؐ نے فرمایا: ”کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ ویسی ہی ہو جو ہارونؑ کو موسیٰؑ سے حاصل تھی (یعنی ان کی جانشینی اور خلافت) بس فرق اتنا سا ہے کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔“

۲۔ آپؐ نے جنگ خیبر میں فرمایا: کل میں پرچم اس شخص کے سپرد کروں گا جو خدا اور پیغمبرؐ کو دوست رکھتا ہو گا اور خدا اور پیغمبرؐ بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے اس دن ہم سب کی یہی آرزو تھی کہ یہ مقام اور منصب ہمیں مل جائے۔ پیغمبرؐ نے فرمایا: علیؓ کو بلاؤ! ان کو بلایا گیا جبکہ ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی پیغمبرؐ نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا اور آپؐ کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں اور آپؐ نے فوج کا علم ان کے حوالے کیا اور خدا نے ان کے سر پر قلعہ قموص کی فتح کا سہرا باندھا۔

۳۔ جب مباہلہ سے متعلق قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی ”فقل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائکم“¹ تو پیغمبر اکرمؐ نے علیؓ، فاطمہؓ، حسنؓ اور حسینؓ کو بلایا اور کہا: ”خدا یا! یہ میرے اہل بیت ہیں“²

حضرت علیؓ۔ نے اس تاریخ ساز جنگ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا: ”ہمیں جنگجوؤں، اسلحوں اور جنگی ساز و سامان کے ایک پہاڑ (طوفان) سے مقابلہ کرنا پڑا، ان کے قلعہ ناقابل تسخیر اور ان کی تعداد بہت زیادہ تھی ان کے دلاور اور بہادر ہر روز قلعوں سے باہر آتے تھے، مبارز طلب کرتے تھے اور ہماری فوج کا جو شخص بھی میدان میں قدم رکھتا تھا مارا جاتا تھا جس وقت جنگ کی آگ بھڑک گئی اور دشمن نے مبارز طلب کیا، ہمارے سپاہیوں کے ہاتھ پیر دہشت اور خوف کے مارے لرزنے لگے اور وہ ایک دوسرے کو عاجزانہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے سب

1 سورہ آل عمران، آیت ۶۱۔

2 شرح صحیح مسلم، النووی، ج ۱۵، ص ۱۷۶، سعد و قاص (قبیلہ بنی زہرہ سے) جو کہ سابقین اسلام میں سے تھا اور ۷۷ سال کی عمر میں (الطبقات الکبریٰ، ج ۳، ص ۱۳۹، ۱۹ سال کی عمر میں) (السیرۃ الحلبیہ، ج ۹، ص ۴۳۴) مکہ میں دائرہ اسلام میں آگیا وہ جب مدینہ میں تھا تو اس کا شمار بڑے مہاجروں میں ہوتا تھا اور سیاسی طور پر حضرت علیؓ کا رقیب اور عمر کے قتل ہو جانے کے بعد خلافت کی چھ رکنی کمیٹی کا ایک ممبر تھا۔ اور اس کمیٹی میں اس نے علیؓ کو ووٹ نہیں دیا، (ابن ابی الحدید، شرح نہج البلاغہ، ج ۱، ص ۱۸۸) عثمان کے قتل ہو جانے کے بعد حضرت علیؓ لوگوں کے عظیم استقبال پر ظاہری طور پر خلافت و حکومت کی باگ ڈور سنبھالی اس وقت بہت ہی لوگ تھے جنھوں نے آپؐ کی بیعت نہیں کی ان میں یہ بھی ایک تھا۔ (مسعودی، مروج الذهب، ج ۲، ص ۳۵۳؛ ابن اثیر، الکافی فی التاریخ، ج ۳، ص ۱۹۱) لیکن ان تمام باتوں کے باوجود علیؓ کی تین بڑی فضیلتوں کا معترف تھا۔

نے مجھ سے آگے بڑھنے کے لئے کہا: پیغمبرؐ نے بھی مجھ سے کہا کہ آگے بڑھو اور قلعہ پر حملہ کرو، میں نے قدم آگے بڑھایا اور ان کے جس پہلوان اور بہادر سے روبرو ہوا اس کو ہلاک کر ڈالا اور ان کے جس جنگجو نے میرا مقابلہ کرنا چاہا وہ زمین پر نظر آیا اور آخر کار وہ عقب نشینی پر مجبور ہو گئے، اس کے بعد اس شیر کی طرح جو اپنے شکار کا پیچھا کر رہا ہو میں نے ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ انھوں نے قلعے میں پناہ لے لی اور اس کے دروازے کو بند کر لیا، میں نے قلعہ کے دروازے کو اکھاڑ پھینکا اور تنہا قلعہ میں داخل ہو گیا... اس موقع پر خداوند عالم کے علاوہ میرا اور کوئی معاون و مددگار نہیں تھا۔¹

آخری قلعہ فتح ہونے کے بعد خیبر یوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور ہتھیار ڈال دئے اور جنگ تمام ہو گئی۔ مورخین کے مطابق یہودیوں کے ۹۳ آدمی² مارے گئے اور شہداء اسلام کی تعداد ۲۸ تھی۔³

یہودیوں کا انجام

جب خیبر کے یہودیوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی تو انھوں نے اس بات کو دلیل بنا کر کہ وہ لوگ کھیتی باڑی کے ماہر ہیں، پیغمبرؐ سے یہ خواہش کی کہ وہ لوگ اپنے اس علاقہ میں اسی طرح باقی رہیں اور کھیتی باڑی کرتے رہیں۔ پیغمبرؐ نے ان کی اس درخواست کو قبول فرمایا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ ہر سال اپنی کھیتی باڑی اور غلہ کی آمدنی کا آدھا حصہ اسلامی حکومت کو ادا کریں گے⁴ اور جس وقت بھی آنحضرت کہیں ان لوگوں کو اس ملک سے باہر جانا ہوگا⁵ یہ معاہدہ حضرت عمر کی خلافت کے زمانہ تک اسی طرح باقی رہا مگر خلیفہ دوم کے دور حکومت میں ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف پھر شورش کرنا چاہی تو حضرت عمر نے ان کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا۔⁶

فدک

اہل خیبر کی شکست کے بعد، فدک کے یہودی کسی مقابلہ کے بغیر پیغمبرؐ کے سامنے تسلیم ہو گئے اور خیبر یوں کے معاہدے کی طرح، پیغمبرؐ سے ایک معاہدہ کیا اور چونکہ فدک کسی جنگ کے بغیر فتح ہوا تھا لہذا اس کی آدھی آمدنی ”خالصہ“ یعنی رسول خدا کی ذاتی ملکیت قرار پائی۔⁷

1 صدوق، الخصال، ص ۳۶۹، باب السبع.

2 بحار الانوار، مجلسی، ج ۲۱، ص ۳۲.

3 تاریخ پیامبر اسلام: محمد ابراہیم آیتی، (تہران: ناشر دانشگاه تہران، ج ۳، ۱۳۶۱) ص ۷۵-۷۳.

4 واقدی، المغازی، ج ۲، ص ۶۹۰، معجم البلدان، یاقوت حموی، ج ۲، ص ۴۱۰ (لغت خیبر)

5 ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۳، ص ۳۵۲.

6 یاقوت حموی، گزشتہ حوالہ، ص ۴۱۰، فتوح البلدان (بیروت: ۱۳۹۸) ص ۷۳-۳۶.

7 بلاذری، گزشتہ حوالہ، ص ۴۲، گزشتہ حوالہ، ابن ہشام، ج ۲، ص ۳۵۲، الکامل فی التاریخ، ابن اثیر، ج ۲، ص ۲۲۲، گزشتہ حوالہ، واقدی، ج ۲، ص ۷۰، گزشتہ

حوالہ، یاقوت حموی، ج ۴، ص ۲۳۸ (لغت فدک): الاموال، ابو عبیدہ قاسم بن سلام: تحقیق محمد خلیل ہر اس (بیروت: دار الفکر، ط ۲، ۱۳۹۵ھ) ص ۱۶.

دوسری فصل

اسلام کا پھیلاؤ

جنگ موتہ

جیسا کہ گزر چکا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے صلح حدیبیہ کے بعد اپنی عالمی رسالت کا آغاز کیا اور دنیا کے شہنشاہان مملکت کو اسلام کی طرف دعوت دی اس زمانے کے ملکوں میں روم اور ایران جیسی بڑی حکومتیں سپر پاور سمجھی جاتی تھیں، قیصر روم تک پیغمبر اکرمؐ کی نبوت کے بارے میں خبریں پہنچی تھیں جس کی بنا پر وہ اسلام قبول کرنے کی طرف مائل تھا لیکن جب اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو اسے عیسائیوں اور روم کی فوج کی بہت سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جس کی بنا پر اسے مجبوراً اپنے فیصلہ کو تبدیل کرنا پڑا،¹ اس سے صاف واضح ہے کہ ان کے دوسرے امراء اور عہدے دار اسلام کے بارے میں معاندانہ رویہ رکھتے تھے۔ اس زاویہ نگاہ سے جنگ موتہ کی ابتدا کی صحیح علت تلاش کی جاسکتی ہے!! پیغمبر اسلامؐ نے جزیرہ نمائے عرب سے باہر اپنی دعوت اور تبلیغ کو عام کرنے کے لئے ۸ھ میں حارث بن عمیر ازدی کو یہ خط دے کر بُصریٰ "شام" کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔²

شرخیل بن عمرو غسانی جو اس وقت قیصر روم کی طرف سے شام کا گورنر تھا³ اس نے رسول خدا کے سفیر کو قید کر لیا اور ان سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ تاچھ کرنے کے بعد "موتہ" نامی گاؤں میں انہیں قتل کر ڈالا، پیغمبرؐ کے لئے یہ حادثہ تلخ اور ناگوار تھا اور آپ اس سے بہت غمزدہ اور متاثر ہوئے۔⁴

اگرچہ ایک آدمی کے قتل ہو جانے سے کوئی جنگ نہیں چھڑتی ہے لیکن اس دور میں سفرائے ملت کو جو اہمیت اور حقوق حاصل تھے ان کے مطابق اور دوسرے اخلاقی اصولوں کے برخلاف پیغمبرؐ کے سفیر کا قتل درحقیقت آپ کے لئے ایک طرح کی نظامی اور فوجی دھمکی تھی اور شام کے گورنر کی طرف سے پیغمبرؐ کی مسالمت آمیز دینی دعوت کے مقابلے میں اپنی قدرت کا اظہار تھا اسی وجہ سے پیغمبر اکرمؐ نے اس علاقہ میں ایک فوج روانہ کرنے کا ارادہ کیا آپ کے اس اقدام کو اسلام کا پیغام عزت اور دشمن کے مقابل اپنی نظامی قوت کے اظہار کا نام بھی دیا جاسکتا

1 زین دحلان، السیرۃ النبویہ والاکثار المحمدیہ (بیروت: دار المعرفہ، ط ۲) ج ۲، ص ۷۰-۷۱-۷۲؛ حلبی، السیرۃ الحلبیہ (انسان العیون) (بیروت: دار المعرفہ) ج ۳، ص ۲۸۹-۲۹۰۔

2 حلبی لکھتا ہے کہ یہ خط روم کے بادشاہ ہرقل کے نام تھا جو اس وقت شام میں رہتا تھا، سیرۃ الحلبیہ، ج ۲، ص ۷۸۶۔

3 وہی حوالہ، ج ۲، ص ۷۸۶۔

4 واقدی، المغازی، تحقیق مارسڈن جونز (بیروت: مؤسسۃ العلمی للمطبوعات) ج ۲، ص ۷۵۵، طبقات الکبریٰ، ابن سعد، بیروت: دار احیاء، ج ۲، ص ۱۲۸۔

ہے۔ اس بنیاد پر رسول خدا نے ۳ ہزار سپاہیوں پر مشتمل ایک لشکر سرزمین موتہ کی طرف روانہ کیا جس کی سپہ سالاری بالترتیب جناب جعفر بن ابوطالب¹، زید بن حارثہ اور عبد اللہ بن رواحہ کے حوالے کی۔ یعنی اگر ان میں سے کوئی ایک شخص شہید ہو جائے تو دوسرا شخص اس کے بعد فوج کا سپہ سالار ہوگا۔²

موتہ نامی ایک دیہات کے کنارے اسلامی فوج کا سامنا روم کی فوج سے ہوا جس کے فوجیوں کی تعداد ایک لاکھ تھی۔ تینوں سپہ سالاروں نے ترتیب وار اسلامی فوج کا پرچم اپنے ہاتھوں میں بلند کرتے ہوئے جنگ کی اور منزل شہادت پر فائز ہو گئے اس کے بعد اسلامی فوج کے سپاہیوں نے خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اس نے مختلف طریقوں سے پہلے تو دشمن کو مرعوب کیا اور اس کے بعد عقب نشینی کا حکم دیدیا اور اسلامی فوج کو مدینہ واپس لے آیا۔³

واقدی نے... اس جنگ کے شہداء کی تعداد آٹھ⁴ اور ابن ہشام نے بارہ⁵ ذکر کی ہے اور بعض جدید کتابوں میں ان کی تعداد سترہ (۱۷)⁶ ذکر کی گئی ہے آج بھی ان شہداء کی قبریں شہر موتہ⁷ کے نزدیک موجود ہیں اور تینوں سپہ سالاروں کی قبروں کے اوپر بہترین گنبد موجود ہیں اور جناب جعفر کی قبر کے نزدیک ایک خوبصورت مسجد بھی موجود ہے۔⁸

1 جعفر بن ابی طالب حبشہ میں برسوں سکونت کے بعد مدینہ پلٹ کر آئے اور فتح خیبر کے بعد اسی علاقہ میں پیغمبر اسلام کی خدمت میں شرفیاب ہوئے اور آنحضرتؐ نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ (ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، (بیروت: دار صادر)، ج ۴، ص ۳۵: ابن اثیر، اسد الغابہ (تہران: المکتبۃ الاسلامیہ، ۱۳۳۶ ش)، ج ۱، ص ۲۸: ابن عبد البر، الاستیعاب، (حاشیہ اصابہ میں)، ج ۱، ص ۲۱۰: ابوالفرج اصفہانی، مقاتل الطالیین، تحقیق سید احمد صفر (قم: منشوراتناشریف الرضی، ۱۴۱۶ھ)، ص ۳۰: ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، (بیروت: مکتبۃ المعارف)، ج ۴، ص ۲۰۶)

2 طبری، اعلام الوریٰ باعلام الہدیٰ (دار الکتب الاسلامیہ)، ط ۳، ص ۱۰۷۔ مشہور یہ ہے کہ اس لشکر کی سپہ سالاری میں جناب زید جناب جعفر پر مقدم تھے لیکن کچھ شیعہ روایات (جیسا کہ طبری نے نقل کیا ہے) جناب جعفر کے مقدم ہونے پر دلالت کرتی ہیں اور قرآن و شواہد بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔ (جعفر سبحانی، فروغ ابدیت (قم: مرکز انتشارات و فترت تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۸، ط ۵، ج ۲، ص ۲۹۳-۲۹۱)۔ محمد بن سعد کی ایک روایت بھی اسی مضمون کی تائید کرتی ہے۔ (الطبقات الکبریٰ، ج ۲، ص ۱۳۰) مزید اطلاع کے لئے مجموعہ مقالات ”دراسات و بحوث فی التاریخ والاسلام“، جعفر مرتضیٰ، ج ۱، ص ۲۱۰ کے بعد، مراجعہ کریں۔

3 ابن ہشام، السیرۃ النبویہ (قاہرہ: مطبعۃ مصطفیٰ البابی الحلبی، ۱۳۵۵ھ)، ج ۴، ص ۲۱-۱۹: محمد بن جریر طبری، تاریخ الامم والملوک (بیروت: دار القاموس الحدیث)، ج ۳، ص ۱۱۰-۱۰۷: واقدی، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۵۶۹-۵۵۵: ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۱۳۰-۱۲۸: حلبی، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۷۹۳-۷۸۷: طبری، اعلام الوریٰ، ج ۱، ص ۱۰۲-۱۰۱: زینی دحلان، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۷۸-۷۷: مجلسی، بحار الانوار (تہران: دار الکتب الاسلامیہ، ۱۳۸۳ھ)، ج ۲، ص ۶۳-۵۰: طوسی، الامالی (قم: دار الشفاء، ط ۱، ۱۴۱۴ھ)، ص ۱۴۱۔

4 المغازی، ج ۲، ص ۷۹۔

5 السیرۃ النبویہ، ج ۴، ص ۳۰۔

6 محمد ابراہیم آیتی، تاریخ پیامبر اسلام (تہران: ناشر: تہران یونیورسٹی، ۱۳۶۱)، ص ۵۰۱۔

7 یہ شہر ملک اردن کے جنوبی صوبہ کرک میں ہے جو کہ شہر امان (اردن کا دار الحکومت) سے ۱۳۵ کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔

8 جعفر سبحانی، ملک اردن کے سفر کی رپورٹ (موتہ: ایک یادگاری جگہ ہے) مجلہ در سہائی از مکتب اسلام، سال ۳۸، شمارہ ۷، ماہ مہر ۷۷، ص ۱۳۔

فتح مکہ

جیسا کہ گزر چکا صلح حدیبیہ کے معاہدے کی ایک شق دس سال تک مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان جنگ بندی تھی، اس کی بنا پر پیغمبر اسلام کو قریش کی شرارتوں اور ان کے فوجی حملوں کی طرف سے سکون اور اطمینان حاصل ہو گیا تھا۔ اسی کے بعد آپ نے بہت بلند اقدامات کئے اور مختلف علاقوں میں تبلیغ کے لئے متعدد لوگوں کو بھیجا اور اپنی عالمی رسالت کا باقاعدہ آغاز کیا۔ مدینہ کے اطراف میں بہت سے دشمن قبائل کو غیر مسلح کر دیا یا ان سے صلح اور دوستی کا معاہدہ کیا اور خیبر جو تمام فتنوں کا اڈہ اور مرکز تھا وہ تو آپ کے ہاتھ پہلے ہی فتح ہو چکا تھا۔

قریش کی عہد شکنی

صلح حدیبیہ کے معاہدے کے دو سال بعد قریش نے اس معاہدے کو توڑ دیا کیونکہ اس صلح نامہ کی چوتھی شق کے مطابق ہر قبیلہ کو یہ اختیار تھا کہ وہ یا پیغمبر کے ساتھ معاہدہ کر لے یا قریش کے ساتھ دوستی کر لے۔ اسی دوران قبیلہ خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ اور قبیلہ بنو بکر (بنی کنانہ) نے قریش کے ساتھ اتحاد کر لیا۔¹ ۸ ہجری میں قبیلہ بنی بکر نے قبیلہ خزاعہ پر حملہ کر دیا اس حملہ میں قریش نے فوجی ساز و سامان اور لاؤ لشکر کے ساتھ بنی بکر کا تعاون کیا اور کچھ خزاہیوں کو قتل کر ڈالا۔ جس کی بنا پر حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔² اس کی وجہ سے قبیلہ خزاعہ کے سردار نے پیغمبر اکرم سے مدد طلب کی۔ حضرت نے عمومی تعاون کا اعلان کر دیا³ اور یہ ارادہ کیا کہ مکہ پر حملہ کر دیا جائے مگر اس حملہ کی اطلاع قریش کو نہ ہونے پائے اور دشمن کو اس بات کا پتہ نہ چلے اور مکہ کسی طرح کی خونریزی اور جنگ کے بغیر مسلمانوں کے قبضہ میں آ جائے آپ نے اپنے مقصد کو پوشیدہ رکھا⁴ اور یہ حکم دیا کہ مکہ کے راستہ کو زیر نظر رکھا جائے⁵ اور خدا سے دعا کی کہ قریش کو آپ کے اس اقدام سے بے خبر رکھے۔⁶ پیغمبر اکرم تمام قوت و طاقت کو جمع کر کے دس ہزار⁷ لشکر لیکر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے آپ کی یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور جب تک اسلامی فوج نے مکہ کے دروازہ کے سامنے (مرّ الظہران کے مقام پر) پڑاؤ نہ ڈال دیا قریش کے جاسوس اس سے باخبر تک نہ ہو سکے۔

جناب عباس، پیغمبر کے چچا اس وقت تک مکہ میں موجود تھے اور جب اسلامی لشکر مکہ کی طرف آ رہا تھا تو یہ مدینہ کی طرف جا رہے تھے، جحفہ کی منزل پر وہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں پہنچے اور مسلمانوں کے ساتھ مکہ واپس پلٹ آئے۔ اسلامی لشکر نے مکہ کے باہر جو پڑاؤ ڈال رکھا تھا اس کی

1 ظہور اسلام سے قبل ان دو قبیلوں کے درمیان دشمنی اور خون خرابہ ہوتا رہتا تھا۔ (السیرۃ النبویہ، ابن ہشام، ج ۲، ص ۳۱) اسی زمانہ سے خزاعہ نے عبدالمطلب کے ساتھ عہد باندھا تھا۔ (الغازی، واقدی، ج ۲، ص ۷۸۱)

2 السیرۃ النبویہ، ابن ہشام، ج ۱، ص ۳۳، الغازی، واقدی، ج ۲، ص ۷۸۳، تاریخ یعقوبی، ابن واضح (نصف، المکتبۃ الحیدریہ، ۱۳۸۴ھ، ق) ابن ہشام کہتا ہے: ”اس حملہ میں ایک شخص قبیلہ خزاعہ کا مارا گیا“ (ج ۲، ص ۳۳) لیکن واقدی اور ابن سعد نے مارے جانے والوں کی تعداد ۲۰ عدد لکھی ہے (الغازی، ج ۲، ص ۷۸۲، طبقات الکبریٰ، ج ۲، ص ۱۳۲)

3 واقدی، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۸۰۰-۷۹۹، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۱۳۵۔

4 واقدی، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۸۰۲-۷۹۹؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۱۳۲۔

5 واقدی، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۷۹۶-۷۸۶؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۱۳۲۔

6 ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۳۲-۳۳؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۳۴؛ تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۷۔

7 ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۳۲-۳۳؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۱۳۵؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۸۰۱۔

آخری شب میں شہر سے باہر ابوسفیان سے آپ کا سامنا ہوا آپ اس کو پیغمبر اکرمؐ کی خدمت میں لائے¹ ابوسفیان اسلامی لشکر کی عظمت اور کثرت کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا رسول خدا نے اس کو معاف فرمادیا اور جناب عباس کی اس درخواست کے مطابق کہ جو شخص بھی مسجد الحرام میں پناہ لے لے یا اپنے گھر میں بیٹھا رہے یا ابوسفیان کے گھر میں پناہ لے لے، وہ امان میں ہے۔

اسلامی لشکر کے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ابوسفیان نے رسول خدا کی طرف سے جاری امان نامے کی اطلاع اہل مکہ کو دیدی اس تدبیر کی وجہ سے آپ کو کسی طرح کے خون خرابے کی نوبت نہیں آئی اور اہل شہر کی طرف سے کسی قسم کی مزاحمت اور مقابلہ کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور مکہ آسانی کے ساتھ فتح ہو گیا، شہر کے صرف ایک حصہ میں جہاں کچھ ہٹ دھرم قسم کے قریش رہتے تھے انھوں نے پیغمبرؐ کا مقابلہ کرنا چاہا جن میں سے کچھ لوگ مارے گئے۔²

پیغمبر اکرمؐ نے مکہ میں داخل ہونے کے بعد اونٹ پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اس دوران آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس کے ذریعہ کعبہ کے چاروں طرف رکھے ہوئے بتوں کو گراتے رہے اور فرماتے رہے: (حق آگیا اور باطل چلا گیا بیشک باطل، تو نابود ہونے والا ہے)۔³ اور اس کے بعد جیسا کہ مورخین اور محدثین کے درمیان مشہور ہے حضرت علیؓ پیغمبرؐ کے حکم سے آپ کی دوش مبارک پر چڑھے اور وہ بڑا بت جو کعبہ کے اوپر تھا اس کو نیچے گرا دیا اور وہ زمین پر گرتے ہی چکنا چور ہو گیا۔⁴

1 ابن ہشام مگزشتہ حوالہ، ص ۴۲، ۴۳، ۴۶؛ واقدی مگزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۸۱۹-۸۱۷.

2 ۱۵ سے ۲۸ افراد۔ (ابن ہشام مگزشتہ حوالہ، ص ۵۰؛ واقدی مگزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۸۲۵؛ ابن سعد مگزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۱۳۶).

3 (جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً) سورة اسراء آیت ۸۱.

4 ابن ہشام مگزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۵۹؛ واقدی مگزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۸۳۲؛ ابن سعد مگزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۱۳۶؛ اسی طرح رجوع کریں، طوسی، امالی (قم): دار الشافہ، ۱۴۱۲ھ، ص ۳۳۶؛ حلبی، السیرۃ الجلبیہ (بیروت: دار المعرفہ)، ج ۳، ص ۳۰؛ زینی دحلان، السیرۃ النبویہ و الآثار المحمدیہ (بیروت: دار المعرفہ، ط ۱، ۱۴۱۲ھ)، ج ۱، ص ۳۲۲؛ علی بن موسیٰ بن طاووس، الطرائف فی معرفۃ مذاہب الطوائف (قم: مطبعۃ النجیام)، ج ۱، ص ۸۱-۸۰؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب (قم: المطبعۃ العلمیہ)، ج ۲، ص ۱۳۶-۱۳۵؛ جلال اللہ زنجشیری، تفسیر کشاف، مکتبہ مصطفیٰ البابی الحبلی، ج ۲، ص ۲۴۴. علامہ امینی نے اس واقعہ کو اہل سنت کے ۴۱ محدثین سے نقل کیا ہے (الغدير، ج ۷، ص ۱۲۱، تذکرۃ الخواص، اور بحار اور دوسری کتابوں میں منقول کچھ روایات کے مطابق) یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کسی سال میں رونما ہوا ہے اور شب میں قریش کی نظروں سے دور انجام پایا ہے اور اس بات کا احتمال پایا جاتا ہے کہ واقعہ دو طرح سے رونما ہوا ہے۔ پیغمبر اسلامؐ کے شانے پر علیؓ کے سوار ہونے کا واقعہ قدیم زمانے سے متعدد شعراء کے اشعار میں بیان ہوا ہے ان میں سے ابن العرندس حلی نویں صدی ہجری کے شاعر نے ایک بہترین قصیدہ کے ضمن میں کہا ہے: و صعد غارب احمد فضل لہ دون القرینہ والصحابہ افضل (الغدير، ج ۷، ص ۸) یعنی علیؓ کا احمدؓ کے شانے پر سوار ہونا ایک ایسی بڑی فضیلت ہے اور ان کے لئے یہ فضیلت قرابتداری اور صحابی ہونے کے علاوہ ہے۔ اسی طرح ابن ابی الحدید نے اپنے ”سبع علویات“ قصائد میں سے ایک قصیدے میں جو کہ فتح مکہ کے موقع کا ہے، کہا ہے کہ:

رغبت بأسمى غارب احدثت به ملائک يتلون الكتاب المسطورا

بغارب خير المرسلين و اشرف الأنام و ازكى فاعل و طيء الثرى

”قرآن کی تلاوت کرنے والے ملائکہ جس بلند ترین دوش مبارک کا احاطہ کئے ہوئے تھے اس پر آپ سوار ہوئے، جو اس دنیا میں سب سے بہترین ذات گرامی رسولوں میں سب سے بہتر لوگوں میں سب سے زیادہ باعظمت اور مقدس جس نے اس زمین پر قدم رکھا“ (دکتر محمد ابراہیم آیتی بیر جندی، تاریخ پیامبر اسلام، انتشارات دانشگاہ تہران، ص ۵۳۰-۵۲۹)

امام جعفر صادقؑ سے منقول روایت کے مطابق حضرت علیؑ نے جس بت کو توڑا تھا اس کا نام ”ہبل“ تھا جس کو پیغمبر کے حکم سے باب بنی شیبہ میں دفن کر دیا جو مسجد الحرام کا ایک دروازہ ہے تاکہ لوگ مسجد الحرام میں داخل ہوتے وقت اس کے اوپر سے گزر کر جائیں اور اسی بنا پر اس دروازے سے مسجد الحرام میں داخل ہونا مستحب قرار پایا ہے۔¹

پیغمبر اسلام کی طرف سے عام معافی کا اعلان

اگرچہ قریش اور مشرکین مکہ نے آغاز اسلام سے لیکر اب تک مسلمانوں کی دشمنی، مخالفت اور ان پر دباؤ اور ظلم اور تشدد میں کسی قسم کی فروگزاشت نہیں کی تھی اور اس دن پیغمبر کے پاس ہر قسم کا انتقام لینے کی قوت اور طاقت تھی اس کے باوجود آپ نے چند لوگوں کے علاوہ کہ جنہوں نے کچھ زیادہ ہی بڑے جرائم کا ارتکاب کیا تھا² بقیہ سب لوگوں کو عام معافی دینے کا اعلان کر دیا اور فرمایا:

میں اپنے بھائی یوسف کی بات ہی کہوں گا کہ آج تمہارے اوپر کوئی سرزنش نہیں ہے خدا تمہیں معاف کرے اور وہ ارحم الراحمین، سب سے زیادہ مہربان ہے³ جاؤ تم لوگ جاؤ، تم لوگ آزاد شدہ ہو۔⁴

قریش جو ذلت کے ساتھ تسلیم ہوئے تھے اور انھیں حضرت کی طرف سے سخت انتقامی کاروائی کا خدشہ تھا آپ کی اس شرافتمندانہ اور کریمانہ عفو و بخشش سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ رسول خدا نے خانہ کعبہ کے پاس لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

خداوند عالم نے اول تخلیق سے مکہ کو محترم اور مقدس قرار دیا ہے یہ شہر روز قیامت تک حرم اور مقدس سرزمین ہے کسی مسلمان کو حق نہیں ہے کہ اس سرزمین پر خون ریزی کرے اس کا درخت کاٹے، اس شہر کی حرمت مجھ سے پہلے کسی شخص پر حلال نہیں ہوئی اور نہ میرے بعد کسی پر حلال ہوگی اور میرے لئے بھی صرف اسی وقت (یہاں کے لوگوں پر غصہ کی وجہ سے) حلال ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کی وہی صورت حال رہے گی یہ بات حاضرین، غائبین تک پہنچادیں۔⁵

1 حر عالمی، وسائل الشیعہ (بیروت: دار احیاء التراث الاسلامی)، ج ۹، ص ۳۲۳، ابواب مقدمات الطواف، باب استحباب دخول المسجد الحرام من باب بنی شیبہ، حدیث ۱۔

2 مورخین نے ان کی تعداد آٹھ سے دس تک لکھی ہے (السیرۃ النبویہ، ابن ہشام، ج ۴، ص ۵۳-۵۱: المغازی واقدی، ج ۲، ص ۸۲۵، طبقات الکبریٰ ابن سعد، ج ۲، ص ۱۳۶، البتہ ان میں سے کچھ لوگوں کو معاف کر دیا گیا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا۔

3 ”لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم و ہو ارحم الراحمین“ سورۃ یوسف، آیت ۹۲۔

4 حلبی، السیرۃ العلویہ (انسان العیون)، ج ۳، ص ۴۹: زبیری دحلان، السیرۃ النبویہ والاکبار المحدثہ، ج ۲، ص ۹۸۔

5 ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۵۸: ابن واضح، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۵۰: واقدی، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۸۴۴: الفاظ کے کچھ اختلاف کے ساتھ۔

پیغمبر اسلامؐ نے فتح مکہ کے بعد وہاں کی مسلمان عورتوں سے یہ عہد لیا کہ کسی کو خدا کا شریک نہ بنائیں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، اپنے بچوں کو قتل نہ کریں، اپنے ناجائز بچوں کو بہتان اور حیلے کے ذریعے اپنے شوہروں کے سر نہ تھوپیں اور نیک کاموں میں پیغمبرؐ کی نافرمانی نہ کریں۔¹

بعض شہرت یافتہ لوگوں نے جو بعد میں بہت ہی مشہور ہوئے اور کسی عہدے یا مقام تک پہنچے انھوں نے بھی فتح مکہ میں اسلام کا اظہار کیا، جس میں ابوسفیان² اور اس کا بیٹا معاویہ³ بھی شامل تھا۔

فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کے سخت اور دشوار گزار حالات کی بنا پر اور فتح مکہ کے بعد اس کی جگہ، امن و سکون اور اطمینان کا ماحول پیدا ہو جانے کی وجہ سے پروردگار عالم نے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو جانے والے افراد کو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے لوگوں سے بہتر اور با عظمت قرار دیا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ”تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم راہ خدا میں انفاق نہیں کرتے ہو جب کہ آسمان اور زمین کی میراث کا تعلق خدا سے ہے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق اور جہاد کیا ان کا درجہ یقیناً ان لوگوں سے زیادہ افضل ہے جنھوں نے بعد میں انفاق اور قتال کیا ہے خدا کا ہر وعدہ نیک ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے۔“⁴

فتح مکہ کے آثار اور نتائج

چونکہ مکہ مشرکین بلکہ اسلام مخالف تمام طاقتوں کا سب سے اہم اڈا اور سب سے مضبوط قلعہ اور مورچہ تھا اور مخالفین اسلام کی اصل حمایت اور پشت پناہی یہیں سے ہوتی تھی اور اسی کی بنا پر ان کے حوصلے بلند رہتے تھے۔ اس بنا پر اس شہر کی پسپائی اور اس شہر پر مسلمانوں کا قبضہ تاریخ اسلام میں ایک اہم باب ہے جس کے بعد یہ بالکل مسلم ہو گیا کہ اب یہاں بت پرستی کا کوئی وجود باقی نہیں رہ سکتا۔ دوسری طرف عرب کے دوسرے قبیلے بھی فتح مکہ اور قریش جیسے بڑے قبیلے کے اسلام لانے کے منتظر تھے اور جس وقت مکہ فتح ہوا اور قریش مسلمان ہو گئے تو ہر طرف سے تمام قبائل کے نمائندے یکے بعد دیگرے دائرۃ اسلام میں داخل ہو گئے⁵ صرف دو قبیلوں، ہوازن اور ثقیف کے علاوہ تمام عرب قبائل نے اسلام کے مقابلے میں اطاعت کا اظہار کیا،⁶ جن میں مندرجہ ذیل قبیلوں کے نمائندے شامل تھے:

1 سید محمد حسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۹، ص ۲۴۶۔ یہ عہد نامہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر ۱۰ ”یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات بیاہنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئاً ولا یسر قن ولذین ولای یقتلن اولادہن ولایاتین بجهتان یفرینہ بین یدینہن وارجلہن ولایعصینک فی معروف فبایعنہ واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم“ کے نازل ہونے کے بعد انجام پایا، اس کو بیعت النساء بھی کہا جاتا ہے۔

2 ابن سعد، طبقات الکبریٰ، ج ۲، ص ۱۳۵؛ ابن اثیر، اسد الغابہ، (تہران: المکتبۃ الاسلامیہ، ۱۳۳۶) ج ۴، ص ۳۸۵ و ج ۵، ص ۲۱۶؛ ابن عبد البر، الاستیعاب (در حاشیہ الاصابۃ) ج ۲، ص ۸۵۔

3 ابن اثیر، گزشتہ حوالہ، ج ۴، ص ۳۸۵؛ زبئی، دحلان، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۹۶۔

4 ”وما لکم ان لا تنفقوا فی سبیل اللہ و للہ میراث السموات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلاً وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر“ سورہ حدید، آیت ۱۰۔

5 شہاب الدین احمد نویری، نہایۃ الارب فی فنون الادب، ترجمہ محمود مہدی دامغانی، (تہران: امیر کبیر، ۱۳۶۵) ج ۳، ص ۱۱۔

6 حلبی، السیرۃ الخلبیہ (بیروت: دار المعرفہ)، ج ۳، ص ۶۱۔

قتیر بن کعب¹، باہلہ²، ثعلبیہ³، صدأ⁴، بنی اسد⁵، بلی⁶، عذرة⁷، ثمالہ⁸ اور حدان⁹ ان سب نمائندوں نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچ کر آپ کی اطاعت کا اعلان کر دیا۔

جنگ حنین (ہوازن) اور جنگ طائف کے بعد جو فتح مکہ کے بعد ہوئیں، قبیلہ ثقیف، جس کی حیثیت طائف میں وہی تھی جو مکہ میں قبیلہ قریش کو حاصل تھی اس طاقتور قبیلے کے نمائندے بھی رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے اور اسلام قبول کرنے کے لئے آپ کے سامنے کچھ شرائط رکھے لیکن آپ نے ان میں سے کوئی ایک شرط بھی قبول نہیں کی جس کے بعد وہ لوگ کسی شرط کے بغیر اسلام لے آئے¹⁰ جو اسلام کی پیش رفت کے لئے ایک بڑی کامیابی تھی۔

جنگ حنین¹¹

پیغمبر اسلام فتح مکہ کے بعد (جو بیس رمضان المبارک¹² کو حاصل ہوئی) دو ہفتے تک اسی شہر میں قیام پذیر رہے۔¹³ اور اس شہر کی صورت حال اور حالات کو درست کیا اور اپنے منادی کے ذریعے یہ اعلان کرایا کہ جس شخص کے گھر میں بھی کوئی بت ہو وہ اس کو توڑ دے۔¹⁴ اس کے علاوہ آپ نے کچھ لوگوں کو مکہ اور اس کے اطراف کے بتوں اور بتکدوں کو توڑنے کے لئے مامور کیا۔¹⁵

1 ابن سعد، طبقات الکبریٰ (بیروت: دار صادر)، ج ۱، ص ۳۰۳۔

2 گزشتہ حوالہ، ص ۳۰۷۔

3 گزشتہ حوالہ، ص ۲۹۸؛ نویری، گزشتہ حوالہ، ص ۳۷۔

4 ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ۳۲۶۔

5 ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ۲۹۲؛ نویری، گزشتہ حوالہ، ص ۳۸۔

6 ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ۳۳۰؛ نویری، گزشتہ حوالہ، ص ۸۹۔

7 ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ۳۳۱؛ نویری، گزشتہ حوالہ، ص ۸۳۔

8 ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ۳۵۲؛ نویری، گزشتہ حوالہ، ص ۱۰۳۔

9 ابن سعد، گزشتہ حوالہ۔

10 واقدی، المغازی، ج ۱، ص ۹۶۶۔

11 ذوالحجاز کے قریب ایک درہ جس کا نام حنین تھا۔ یا طائف کے قریب ایک پانی کی جگہ جس کا فاصلہ مکہ تک تین رات تک کا تھا۔ (المواہب اللدنیہ، ج ۱، ص ۳۲۸)

12 واقدی، المغازی، تحقیق مارسدن جونز (بیروت: مؤسسۃ الاعلمی للمطبوعات)، ج ۳، ص ۸۸۹؛ طبری، تاریخ الامم والملوک (بیروت: دار القاموس الحدیث)، ج ۳، ص ۱۴۵۔

13 واقدی، گزشتہ حوالہ، طبری، گزشتہ حوالہ؛ قسطلانی، المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ (بیروت: دار الکتب العلمیہ، ط ۱، ۱۴۱۱ھ)، ج ۱، ص ۲۲۶۔

14 ابن واضح، تاریخ یعقوبی، (نجف: المکتبۃ الحیدریہ، ۱۳۸۳ھ)، ج ۲، ص ۵۰۔

15 قسطلانی، گزشتہ حوالہ، ص ۲۲۷؛ نویری، نہایۃ الارباب فی فنون الادب، ترجمہ محمود مہدوی دامغانی (تہران: امیر کبیر، ط ۱، ۱۳۶۵)، ج ۲، ص ۲۸۱-۲۸۰؛ ابن سعد، طبقات الکبریٰ (بیروت: دار صادر)، ص ۱۴۷-۱۴۵۔

اسی دوران رسول خدا کو یہ اطلاع دی گئی کہ قبیلہ ہوازن، قبائل ثقیف، نصر، جشم، سعد بن بکر اور قبیلہ بنی ہلال کے ایک گروہ کی پشت پناہی میں، مالک بن عوف نصری کی سرکردگی میں مکہ کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں،¹ جب تحقیق کی گئی تو یہ اطلاع بالکل صحیح نکلی کہ مذکورہ بالا قبائل پر مشتمل ایک بڑی فوج مکہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے اوطاس نامی سرزمین پر پڑاؤ ڈال چکی ہے۔ رسول خدا نے مزید تحقیق کے لئے اپنے ایک آدمی کو بھیجا اس نے خفیہ تحقیق کی جس کے نتیجے میں مکہ کی طرف ہوازن کی فوج کی پیش رفت مسلم ہو گئی۔²

اس وقت پیغمبر اکرمؐ نے یہ فیصلہ کیا کہ فوجی حکمت عملی کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ ترکیب اپنائی جائے کہ دشمن کو حملے کا موقع ہی نہ ملے اسی لئے آپ نے بڑی سرعت کے ساتھ عتاب بن اسید کو مکہ کا حکمران قرار دیا³ اور بارہ ہزار کی فوج (جن میں دس ہزار آپ کے ساتھ مدینہ سے آئے تھے اور دو ہزار مکہ میں تازہ مسلمان ہونے والے شامل تھے)⁴ لیکر دشمن کی فوج کی طرف چل پڑے اور قبیلہ بنی سلیم کو اپنی فوج کا مقدمہ الجیش قرار دیا۔⁵

راستے میں مسلمانوں کی فوج کی کثرت کو دیکھ کر بعض مسلمانوں کو غرور ہو رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم فوج کی قلت کی بنا پر نہیں ہاریں گے۔⁶ لیکن عملاً بات اس کے برعکس ثابت ہوئی چنانچہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اس امر کی صاف یاد دہانی کرائی ہے کہ اس جنگ میں افراد کی کثرت اور فوجیوں کی زیادتی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔

آغاز جنگ میں مسلمانوں کی شکست اور عقب نشینی

اسلامی فوج صبح کی تاریکی میں وادی حنین پہونچی، وادی حنین میں پہنچتے ہی ہوازن کے جنگجو اور سپاہی جو پہلے ہی پتھروں کے پیچھے شگافوں اور دروں کے اندر چھپے ہوئے تھے اور وہاں سے مورچے سنبھال رکھے تھے انھوں نے اچانک مسلمانوں پر دھاوا بول دیا،⁸ دشمن کا اچانک یہ حملہ اتنا کاری تھا کہ مسلمان بالکل وحشت زدہ ہو کر رہ گئے۔ پہلے قبیلہ بنی سلیم نے جو مقدمہ الجیش تھا عقب نشینی اور راہ فرار اختیار کی،⁹ اس کے بعد دوسرے لوگ بھی فرار کرنے لگے۔ اور نوبت یہاں تک پہونچی کہ صرف حضرت علیؓ دوسرے چند لوگوں کے ساتھ رسول خدا کے پاس باقی

1 ابن ہشام، سیرۃ النبویہ (قاہرہ: مطبعۃ مصطفیٰ البابی الحلبي)، ج ۴، ص ۸۰؛ تاریخ الامم والملوک (بیروت: دار القاموس الحدیث)، ج ۳، ص ۱۲۶۔

2 ابن ہشام، مغازی حوالہ، ج ۴، ص ۸۲؛ طبری، مغازی حوالہ، ج ۲، ص ۱۲۷؛ واقدی، مغازی حوالہ، ج ۳، ص ۸۹۳۔

3 واقدی، مغازی حوالہ، ص ۸۸۹؛ طبری، مغازی حوالہ، ص ۱۲۷۔

4 ابن ہشام، مغازی حوالہ، ص ۸۳؛ طبری، مغازی حوالہ، ص ۱۲۷؛ ابن سعد، طبقات الکبریٰ (بیروت: دار صادر)، ج ۲، ص ۱۵۰؛ طبری، اعلام الوری، ط ۳، المکتبۃ الاسلامیہ، ص ۱۱۳؛ ابن واضح، ابن واضح، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۵۲۔

5 واقدی، مغازی حوالہ، ص ۸۹۳؛ ابن سعد، مغازی حوالہ، ص ۱۵۰۔

6 واقدی، مغازی حوالہ، ص ۸۸۹؛ ابن سعد، مغازی حوالہ، ص ۱۵۰؛ طبری، مغازی حوالہ، ص ۱۱۳؛ شیخ مفید، الارشاد (قم: مکتبۃ بصیرتی)، ص ۷۴۔

7 سورہ توبہ، آیت ۹۔

8 ابن ہشام، مغازی حوالہ، ص ۸۵؛ واقدی، مغازی حوالہ، ص ۸۹۵؛ طبری، مغازی حوالہ، ص ۱۲۸؛ طبری، اعلام الوری، ص ۱۱۴؛ مجلسی، بحار الانوار، (تہران: دار الکتب

الاسلامیہ، ۱۳۸۴ھ) ج ۲۱، ص ۱۶۹؛ شیخ مفید، مغازی حوالہ، ص ۷۵۔

9 واقدی، مغازی حوالہ، ص ۸۹۷؛ ابن سعد، مغازی حوالہ، ص ۱۵۰۔

رہ گئے اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا¹ شیخ مفید کی نقل کے مطابق صرف بنی ہاشم سے نو افراد رسول خدا کے پاس باقی رہ گئے تھے جن میں ایک حضرت علیؑ تھے، عباس بن مطلب آپ کے چچا آپ کے دائیں طرف اور فضل بن عباس رسول خدا کے بائیں طرف تھے اور حضرت علیؑ آپ کے روبرو تلوار سے جہاد کر رہے تھے۔²

مسلمانوں کی عالیشان فتح

اتنے مسلمانوں کے فرار کر جانے کے باوجود پیغمبر اسلام صبر و استقامت، شجاعت اور بہادری کا بہترین نمونہ تھے چنانچہ آپ کے اندر کسی قسم کا ضعف و ترنزل یا گھبراہٹ پیدا نہ ہوئی اور آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہے اور فرار ہونے والوں سے فرمایا: اے لوگو! تم لوگ کہاں بھاگ رہے ہو؟ واپس آؤ کہ میں پیغمبر خدا محمد بن عبد اللہ ہوں اور اپنے چچا جناب عباس (جو اس وقت آپ کے ساتھ میدان جنگ میں بنی ہاشم کے بچے افراد میں سے تھے اور بلند آواز رکھتے تھے) سے فرمایا کہ لوگوں کو آواز دو اور پکارو اور انھوں نے مجھ سے جو عہد و پیمان اور بیعت کی ہے اس کو انھیں یاد دلاؤ، جناب عباس نے ان لوگوں کو بلند آواز سے پکار کر کہا: ”اے اہل بیعت شجرہ! اے اصحاب سورہ بقرہ! تم کہاں فرار کر رہے ہو؟ تم نے پیغمبر اکرمؐ سے جو عہد اور پیمان کیا تھا اس کو یاد کرو“³

پیغمبرؐ کی استقامت آپ کی ثابت قدمی اور پائیداری نیز مسلمانوں کو بار بار واپسی کی دعوت دینے کا یہ اثر ہوا کہ بھاگ جانے والے مسلمان آہستہ آہستہ واپس پلٹنا شروع ہوئے اور رسول خدا کے پرچم تلے دوبارہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گئے، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ دشمن کی فوج کا سپہ سالار اور علمبردار حضرت علیؑ کے ہاتھوں مارا گیا⁴ اور خداوند متعال کی غیبی امداد⁵ کے ذریعہ ہوازن کی فوج کو بہت سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا اور چار ہزار اسیر، بارہ ہزار اونٹ اور بہت زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔⁶ جنگ کے اختتام پر جن قبائل کے سردار مسلمان ہو گئے تھے ان کی خواہش اور درخواست کی بنا پر پیغمبر اسلامؐ نے اسیروں کو آزاد کر دیا۔⁷ اس جنگ کے شہداء کی تعداد چار افراد ذکر ہوئی ہے۔⁸

خداوند عالم نے اس جنگ میں مسلمانوں کی ابتدائی شکست اور آخر میں امداد غیبی کے سہارے ان کی بہترین کامیابی کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے :

1 واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ۹۰۰؛ ابن واضح، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۵۲۔

2 الارشاد، ص ۷۴، اس جنگ میں حضرت علیؑ کی شجاعت کے متعلق رجوع کریں: امالی، شیخ طوسی (قم: دارالافتاء، ط ۱۴۱۲ھ)، ص ۵۷۵-۵۷۴۔

3 ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ۱۵۱؛ ابن واضح، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۵۲؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۱، ص ۱۵۰۔

4 ابن واضح، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۵۲۔

5 سورہ توبہ، آیت ۲۶۔

6 طبری، اعلام الوری، ج ۲، ص ۱۱۶ کے مطابق اسیروں کی تعداد اور مال غنیمت کی مقدار چھ ہزار اسیر اور چوبیس ہزار اونٹ، چالیس ہزار سے زیادہ گوسفند اور چار ہزار چاندی (طبقات الکبریٰ، بیروت: دار صادر)، ج ۲، ص ۱۵۲۔

7 ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ۱۵۵-۱۵۳؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ص ۱۱۳۲ اور ۱۳۵۔

8 ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ۱۰۱؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ۱۵۲؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ۲۲۹؛ ابن واضح، گزشتہ حوالہ، ص ۵۲؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ص ۱۳۲۔

”پروردگار عالم نے بہت سارے مواقع پر تمہاری مدد کی ہے اور حنین کے دن بھی کہ جب تمہاری کثرت نے تم کو غرور میں مبتلا کر دیا تھا لیکن تم سے اس نے کوئی خطرہ دور نہیں کیا اور زمین اپنی تمام وسعتوں سمیت تمہارے اوپر تنگ ہو گئی اور تم دشمن کو پیٹھ دکھا کر فرار کر گئے“¹ تب پروردگار عالم نے اپنے رسول اور مومنین کے اوپر اپنا سکون نازل کیا اور ایسے لشکر نازل کئے جن کو تم نے نہیں دیکھا اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تھا ان پر عذاب نازل کیا اور کافرین کی سزا یہی تھی۔“

جنگ تبوک²

جنگ موتہ کے اسباب اور عوامل پر غور اور فکر کے درمیان ہم اس سے واقف ہو چکے ہیں کہ شہنشاہ روم کو اس تازہ اور جدید اسلامی حکومت سے کس قدر دشمنی تھی اور آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ رومی فوج سے مسلمانوں کی فوج کی پہلی ٹڈ بھڑ میں مسلمانوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا، اس زمانے میں روم اور ایران دو بڑی طاقتیں تھیں اور ان میں آپس میں بہت طویل جنگیں بھی ہو چکی تھیں لیکن اس کے باوجود ان کو یہ ہرگز برداشت نہیں تھا کہ ان کے مقابلہ میں دنیا کی کوئی تیسری طاقت سر اُبھار سکے! اس لئے یہ فطری بات تھی کہ فتح مکہ میں مسلمانوں کی بے مثال کامیابی اور جنگ حنین میں ان کے ہاتھوں قبیلہ ہوازن کی شکست، رومیوں کے لئے (جو جزیرہ نمائے عرب کے شمال میں شام کے علاقہ میں واقع تھا) ایک اچھی خبر نہ تھی، ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے اور جنگ موتہ میں رومیوں کی کامیابی کو نظر میں رکھتے ہوئے شہنشاہ روم کی طرف سے فوجی نقل و حرکت ایک فطری بات تھی³۔ ۹ھ میں مدینہ اور شام کے درمیان تجارت کرنے والے قافلوں نے پیغمبرؐ کو یہ اطلاع دی کہ شہنشاہ روم ہر قل مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہے۔⁴

حضرتؐ نے اس خبر کو سنجیدگی سے سنا اور اس سے مقابلہ کے لئے تیاریاں شروع کر دیں کیونکہ شہنشاہ روم اپنی سیاسی اور فوجی قدرت اور طاقت اور مسلمانوں سے سابقہ دشمنی کی بنا پر اسلام اور مسلمانوں کا بدترین اور خطرناک ترین دشمن تصور کیا جاتا تھا۔⁴

اطلاعات سے پتہ چلا تھا کہ ہر قل نے کچھ عرب قبائل جیسے لحم، حزام، غلامہ اور غسان کو بھی اپنی اس نقل و حرکت میں اپنے ساتھ کر رکھا ہے اور اس کے لشکر کا مقدمہ الجیش عنوان سے بلقاء نامی علاقہ تک پیش روی کر کے آگے بڑھ آیا تھا۔⁵

1 سورۃ توبہ، آیت ۲۶-۲۵۔

2 تبوک مدینہ اور دمشق کے بالکل درمیان ایک مشہور و معروف جگہ ہے (قسطانی، المواہب اللدنیہ بالملخ المحمدیہ (بیروت: دار الکتب العلمیہ، ۱۳۱۶ھ، ج ۱) ص ۳۴۶؛ زینی دحلان، السیرۃ النبویہ والاثار المحمدیہ (بیروت: دار المعرفہ، ج ۲، ص ۱۲۵) مدینہ سے اس کا فاصلہ نوے فرسخ ہے اور یہ مسافت بارہ (۱۲) رات میں طے ہوتی تھی۔ (مسعودی، التنبیہ والاشراف (قاہرہ: دار الصاوی للطبع والنشر، ص ۲۳۵) اور اس زمانہ میں جزیرہ نمائے عربستان کا سرحدی علاقہ تھا جو روم کی سرحد سے شام میں ملتا تھا آج تبوک سعودی عرب کا ایک شہر ہے جو اردن کی سرحد کے نزدیک ہے اور مدینہ سے اس کا فاصلہ تقریباً چھ سو کلومیٹر ہے۔

3 واقدی، المغازی، تحقیق: مارسلن جانس (بیروت: مؤسسۃ الاعلیٰ للطبوعات) ج ۳، ص ۹۹۰؛ ابن سعد، طبقات الکبریٰ (بیروت: دار صادر) ج ۲، ص ۱۶۵؛ قسطانی، مگزشتہ حوالہ، ص ۳۴۶؛ حلبی، السیرۃ الجلبیہ (بیروت: دار المعرفہ) ج ۳، ص ۹۹۔ یہ گزارش نبطی تاجروں کے ذریعے دی گئی تھی جو تیل اور سفید آٹا مدینہ لے جاتے تھے۔ (واقدی، مگزشتہ حوالہ، ص ۹۹۰-۹۸۹۔

4 واقدی، مگزشتہ حوالہ، ص ۹۹۰۔

5 واقدی، مگزشتہ حوالہ، ابن سعد، مگزشتہ حوالہ۔

اور ہر قل نے خود حمص کے علاقہ میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے۔¹

پیغمبرؐ تک یہ اطلاع اس وقت پہونچی جب گرمی اپنی شباب پر تھی،² فصل کاٹنے اور پھلوں کے چنے کا زمانہ آچکا تھا لوگ بہت تنگی میں تھے اور اپنے گھروں اور کاروبار زندگی کو ترک کرنا ان کے لئے بہت دشوار تھا۔³ پیغمبر اسلامؐ نے سب کی رضا کارانہ شرکت کا اعلان کر دیا اور مکہ کے علاوہ عرب کے دوسرے بادیہ نشین قبیلوں سے مدد طلب کی اور مسلمانوں سے یہ خواہش بھی کی کہ جنگ کے وسائل اور اخراجات پورا کرنے میں مدد کریں،⁴ اس سے پہلے حضرتؐ کا طریقہ کار یہ تھا کہ عام طور پر کسی بھی جنگ کے لئے نکلنے وقت اپنے مقصد اور اپنی منزل کا اعلان نہیں کرتے تھے لیکن اس بار آپؐ نے صاف طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہماری منزل اور ہمارا مقصد تبوک ہے تاکہ لوگ اس طویل اور مشکل سفر کی زحمتوں کو نظر میں رکھ کر اس کے لئے تیاری کریں۔⁵

ایسے نامناسب وقت اور حالات کے باوجود مسلمانوں نے بہت ہی اخلاص، لگن، انتہائی جوش اور جذبہ کے ساتھ آپؐ کی مدد کی۔⁶ تقریباً تیس ہزار⁷ کی فوج دس ہزار⁸ گھوڑوں، بارہ ہزار اونٹوں⁹ کے ساتھ روانگی کے لئے تیار ہو گئی اس کے برخلاف منافقوں نے نہ صرف یہ کہ کسی عذر کے بغیر میدان جنگ کی طرف حرکت نہیں کی،¹⁰ بلکہ انھوں نے دوسرے لوگوں کو بھی مختلف بہانوں، جیسے گرمی زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ میدان میں جانے سے روک دیا۔¹¹ جن کی مذمت میں قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی۔¹²

بعض مسلمان کسی معقول عذر کے بغیر، اسلامی لشکر کے ساتھ نہیں گئے ان کو قرآن کریم نے متخلفین (اپنی جگہ پر رہ جانے والا) قرار دے کر ان کی مذمت فرمائی ہے۔¹³ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو واقعاً جہاد میں جانے کا بے پناہ شوق تھا لیکن ان کے پاس جنگی ساز و سامان نہیں تھا اس کی بنا پر وہ جنگ میں جانے سے محروم رہ گئے۔¹⁴

1 ابن سعد مغازی شتہ حوالہ، ص ۱۶۶۔

2 ابن سعد مغازی شتہ حوالہ، قسطلانی مغازی شتہ حوالہ، حلبی مغازی شتہ حوالہ، طبری، تاریخ الامم والملوک (بیروت: دار القاموس الحدیث)، ج ۳، ص ۱۴۲۔

3 واقدی مغازی شتہ حوالہ، قسطلانی مغازی شتہ حوالہ، ص ۹۹۲؛ طبری مغازی شتہ حوالہ، ابن ہشام، السیرۃ النبویہ (قاہرہ: مکتبۃ مصطفیٰ البابی الحبشی، ۱۹۵۵ھ، ق)، ج ۴، ص ۱۵۹۔

4 ابن سعد مغازی شتہ حوالہ، واقدی مغازی شتہ حوالہ، ص ۹۹۱-۹۹۰؛ قسطلانی مغازی شتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۴۷؛ حلبی مغازی شتہ حوالہ، ابن ہشام مغازی شتہ حوالہ، ص ۱۶۰؛ طبری، اعلان الوری، دار الکتب الاسلامیہ ص ۱۲۲۔

5 ابن سعد مغازی شتہ حوالہ، ص ۱۶۵ اور ۱۶۷؛ واقدی مغازی شتہ حوالہ، قسطلانی، ص ۳۴۶؛ طبری مغازی شتہ حوالہ، حلبی مغازی شتہ حوالہ، ص ۹۹؛ ابن ہشام مغازی شتہ حوالہ، ص ۱۵۹۔

6 واقدی مغازی شتہ حوالہ، ص ۹۹۱؛ طبری مغازی شتہ حوالہ، ج ۳، ص ۱۴۲۔

7 ابن سعد مغازی شتہ حوالہ، ص ۱۶۶؛ واقدی مغازی شتہ حوالہ، ص ۹۹۶ و ۱۰۰۲؛ قسطلانی مغازی شتہ حوالہ، ص ۳۴۹؛ حلبی مغازی شتہ حوالہ، ص ۱۰۲۔

8 واقدی مغازی شتہ حوالہ، ص ۱۰۰۲؛ ابن سعد مغازی شتہ حوالہ، ص ۱۶۶۔

9 مسعودی، التنبیہ والاشراف (قاہرہ: دار الصاوی للطبع والنشر)، ص ۲۳۵۔

10 ابن سعد مغازی شتہ حوالہ، ص ۱۶۶-۱۶۵؛ واقدی مغازی شتہ حوالہ، ص ۹۹۵۔

11 واقدی مغازی شتہ حوالہ، ص ۹۹۳؛ ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۴، ص ۱۰۶؛ قسطلانی مغازی شتہ حوالہ، ص ۳۴۲۔

12 سورہ توبہ، آیت ۸۱۔

13 سورہ توبہ، آیت ۸۱۔

14 سورہ توبہ، آیت ۹۳-۸۷۔

مدینہ میں حضرت علیؑ کی جانشینی

مدینہ کے حالات بھی کچھ کم حساس نہ تھے جیسا کہ آپؐ نے ملاحظہ فرمایا کہ اسلامی فوج کو بہت دور دراز علاقے کا سفر درپیش تھا اور دوسری طرف منافقین، اسلام کا اظہار کرنے کے باوجود، پیغمبرؐ کی ہمراہی سے سرپیچی کر چکے تھے اور عبد اللہ بن ابی جو منافقوں کا سرغنہ تھا اس نے کافی لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کر رکھا تھا۔¹

نیز منافقین کے علاوہ مکہ کے شکست خوردہ دشمنان اسلام یا مکہ اور مدینہ کے اطراف میں بادیہ نشین قبیلوں کی طرف سے بھی فتنہ اور فساد کا امکان تھا اس بنا پر یہ ضروری تھا کہ پیغمبرؐ کی عدم موجودگی میں کوئی ایسا طاقت ور اور مضبوط شخص نئی اور تازہ حکومت کی باگ ڈور سنبھالے اور کسی قسم کے فتنہ کا سر نہ ابھرنے دے کیونکہ بہت ممکن تھا کہ کچھ ناگوار حادثات پیش آجائیں، اسی بنا پر پیغمبر اسلامؐ نے حضرت علیؑ کو مدینہ میں اپنا جانشین قرار دیا اور فرمایا: ”مدینہ کو سنبھالنے کے لئے یا میرا رہنا ضروری ہے یا تمہارا رہنا ضروری ہے“²

مسعودی لکھتے ہیں: سب سے زیادہ مشہور قول یہی ہے کہ رسول خداؐ نے علیؑ کو مدینہ میں اپنا جانشین اس لئے قرار دیا تاکہ جو لوگ پیغمبرؐ کے ساتھ سفر میں نہیں جا رہے ہیں ان کی نگرانی کرتے رہیں اور انھیں قابو میں رکھیں۔³

حضرت علیؑ اس جنگ کے علاوہ تمام جنگوں میں پیغمبر اسلامؐ کے ہمراہ⁴ اور آپؐ کے لشکر کے علمبردار رہ چکے تھے⁵ اسی بنا پر منافقین نے یہ مشہور کر دیا کہ رسول خداؐ نے حضرت علیؑ کو مدینہ میں اس لئے چھوڑ دیا ہے کہ آپؐ کو ان سے کوئی لگاؤ اور محبت نہیں رہ گئی ہے، یہ افواہ سننے کے بعد حضرت علیؑ کو بہت ملال ہوا، آپؐ اسلحہ سجا کر منزل جرف⁶ میں رسول خداؐ کے پاس پہنچے اور منافقین کی افواہ کو آپؐ کی خدمت میں بیان کیا اور آپؐ کے سامنے اس بات کا شکوہ بھی کیا، رسول خداؐ نے فرمایا: ”وہ لوگ جھوٹے ہیں میں نے تم کو اپنا جانشین قرار دیا ہے۔ تم واپس جاؤ اور میرے اہل اور عیال اور اپنے گھر والوں کے درمیان میرے جانشین رہو کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔“⁷

1 واقدی مگزشتہ حوالہ، ص ۹۹۵؛ ابن ہشام مگزشتہ حوالہ، ج ۴، ص ۱۶۲۔

2 مفید الارشاد (تم: مکتبہ بصیرتی)، ص ۸۲؛ طبری، اعلام الوری، ص ۱۲۲۔

۳ و الاشہر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم استخلف علیاً علی المدینۃ لیکون مع من ذکرنا من المتخلفین۔ (التنبیہ و الاشرف۔ ص ۲۳۶)۔

۱۴ ابن عبد البر، الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب (حاشیہ الاصابہ میں)، ج ۳، ص ۳۴؛ حلبی، السیرۃ الحلبیہ، ج ۳، ص ۱۰۴؛ قسطلانی، المواہب اللدیہ، ج ۱، ص ۳۴۸۔

۱۵ ابن عبد البر مگزشتہ حوالہ، ص ۲۷؛ جعفر مرتضیٰ العالی، الصحیح من سیرۃ النبی الاعظم، ۱۴۰۳ھ، ج ۲، ص ۱۹۶-۱۹۳۔

۱۶ جرف، مدینہ سے تین میل کے فاصلہ پر ایک محلہ تھا۔

۱۷ افلا ترضی یا علی ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی (ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۴، ص ۱۶۳؛ حلبی، السیرۃ الحلبیہ، ج ۳، ص ۱۰۴) ۲ (ارجع یا اخی الی مکانک، فان المدینۃ لاتصلح الا بی او بک، فانک خلیفتی فی اہل بیتی و دار ہجرتی و قومی، اما ترضی... (الارشاد، ص ۸۳)

شیخ مفیدؒ کی روایت کے مطابق آپ نے یوں ارشاد فرمایا: ”اے میرے بھائی! تم اپنی جگہ واپس پلٹ جاؤ؛ چونکہ مدینہ کا نظام میرے یا تمہارے بغیر نہیں چل سکتا، بیشک تم میرے اہل بیت، دار ہجرت اور میری قوم کے درمیان میرے خلیفہ ہو۔ کیا تم راضی نہیں ہو کہ...“¹

ابن عبد البر قرطبی پانچویں صدی ہجری کے عالم اہل سنت تحریر کرتے ہیں کہ جنگ تبوک میں حضرت رسول خداؐ نے حضرت علیؑ کو مدینہ میں اپنے اہل خانہ کے درمیان اپنا جانشین قرار دیا تھا۔ اور ان سے فرمایا تھا کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی...“²

بخاری اور مسلم کی نقل کے مطابق پیغمبر اسلامؐ نے حضرت علیؑ کے شکوہ کے بعد جناب موسیٰ کے بھائی، ہارون سے ان کی تشبیہ دی اور مذکورہ جملہ ارشاد فرمایا۔³

رسول اکرمؐ کی یہ مشہور حدیث اور آپ کا یہ مشہور فرمان جو حدیث منزلت کے نام سے مشہور ہے یہ حضرت علیؑ کی امامت اور جانشینی کی بہترین اور واضح دلیل ہے کیونکہ اگرچہ پیغمبر اسلامؐ کا یہ فرمان صرف ایک خاص واقعہ یعنی سفر تبوک سے متعلق تھا لیکن اس میں مستثنیٰ منقطع اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علیؑ صرف عہدہ نبوت کے علاوہ دوسرے تمام عہدوں میں جس میں سے ایک پیغمبرؐ کی جانشینی بھی ہے جناب موسیٰ کے بھائی جناب ہارون کے مثل اور برابر ہیں۔⁴

۱ خلفہ رسول اللہ علی المدینہ و علی عیالہ بعدہ فی غزوۃ تبوک و قال لہ انت منی.. (الاستیعاب، ج ۳، ص ۳۴)

2 صحیح بخاری، شرح و تحقیق: شیخ قاسم شامی رفاعی، (بیروت: دار القلم، ط ۱، ص ۱۴۰ھ، ق) ج ۶، ص ۳۰۹؛ المغازی، باب ۱۹۵، ج ۸۵۷؛ صحیح مسلم، بشرح النووی (بیروت: دار الفکر، ۱۴۰۱ھ، ق) ج ۱۵

3 ص ۱۷۵ فضائل الصحابہ، فضائل علی بن ابی طالب۔ رسول اسلامؐ کی یہ حدیث منزلت، مذکور کتابوں کے علاوہ مندرجہ ذیل کتب میں بھی آئی ہے: المواہب اللدنیہ، ج ۱، ص ۳۸؛ الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب، (الاصابہ کے حاشیہ میں) ج ۳، ص ۳۴؛ البدایہ والنہایہ، ج ۵، ص ۷۷؛ مسند احمد، ج ۱، ص ۱۷۹؛ کنز العمال، ج ۲۲، ص ۲۸۸؛ الجامع الصحیح، ترمذی، المناقب، باب ۲۱، ج ۳۰، ص ۱۴؛ امالی شیخ طوسی، ص ۵۹۹۔ بعض کتابوں کی نقل کے مطابق، پیغمبر اسلامؐ نے اس سفر میں محمد بن سلمیٰ کو اور بعض دوسرے نقل کے مطابق سباع بن عرفطہ کو اپنا جانشین مدینہ میں مقرر کیا تھا۔ (رجوع کریں: ابن ہشام، سیرۃ النبویہ، ج ۴، ص ۱۶۲؛ السیرۃ الحلبیہ، ج ۳، ص ۱۰۲؛ تاریخ الامم والملوک، ج ۳، ص ۱۳۳؛ طبقات الکبریٰ، ج ۲، ص ۱۶۵؛ المواہب اللدنیہ، ج ۱، ص ۳۸) لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ روایات کی کثرت اور تواتر کے باوجود علیؑ کی جانشینی کے متعلق جو شیعہ سنی کی معتبر کتابوں میں موجود ہیں ان کی مخالف روایتوں کے اوپر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ ابن عبد البر، پانچویں صدی کا بزرگ مورخ، رجال نوہیں اور فقیہ لکھتا ہے: حدیث ”انت منی بمنزلة ہارون من موسیٰ...“ کو صحابہ کے ایک گروہ نے نقل کیا ہے۔ اور یہ حدیث صحیح ترین اور موثق ترین روایات میں سے ہے۔ اور اس کو سعد بن ابی وقاص، ابن عباس، ابو سعید خدری، ام سلمہ، اسماء بنت عمیس، جابر بن عبد اللہ انصاری، اور بے شمار راویوں نے نقل کیا ہے کہ جن کے نام یہاں پر نقل کرنے سے بہت طویل فہرست بن جائے گی۔ (الاستیعاب، ج ۳، ص ۳۴)

4 اس واضح اور روشن بیان کے باوجود علمائے اہل سنت کے درمیان حلبی شامی اور ابن تیمیہ نے تعصب کی بنا پر اس حدیث کی دلالت میں شک و شبہ ڈال دیا ہے۔ اس حدیث کی دلالت اور اس کے حوالوں اور تقریباً سو سے زیادہ طرق سے منقول اس حدیث کے بارے میں مزید آگاہی کے لئے، کتاب الغدیر، ج ۳، ص ۲۰۱-۱۹۷؛ احقاق الحق، ج ۵، ص ۲۳۴-۱۳۳؛ کتاب پیشوائی از نظر اسلام، تالیف استاد آیت اللہ جعفر سبحانی (انتشارات مکتب اسلام، ۱۳۷۴ ش)؛ پندرہویں فصل میں مراجعہ فرمائیں۔

راستے کی دشواریاں

ان تمام زخمتوں اور مشکلات کے باوجود اسلامی فوج مدینہ سے کوچ کر گئی لیکن جیسا کہ پہلے سے ہی اس بات کا اندازہ لگایا جا رہا تھا مسلمانوں کو تبوک کے راستے میں چند وجوہ کی بنا پر مثلاً راستہ طولانی ہونے کی وجہ سے، سواروں کی قلت (کہ ہر تین آدمیوں کے لئے ایک گھوڑا تھا) گرمی کی شدت، پانی کی کمی اور تشنگی جیسی بے پناہ مشکلات اور زخمتوں کا سامنا کرنا پڑا اسی بنا پر تاریخ اسلام میں اس جنگ کو ”غزوۃ العسرة“¹ یعنی مشکلات کی جنگ یا ”جیش العسرة“² یعنی زحمت اور مشکلات کے لشکر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔

بہر حال اسلامی فوج اتنی طویل مسافت طے کرنے کے بعد سرزمین تبوک پہنچی، لیکن وہاں رومی فوج کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ رومی فوج کی نقل و حرکت کی خبریں سب بے بنیاد تھیں۔³ اور یہ افواہ صرف مسلمانوں کے اندر رعب اور اضطراب پیدا کرنے کے لئے پھیلائی گئی تھی۔⁴

اس علاقہ کے سرداروں سے پیغمبر کے معاہدے

رسول خدا نے بیس دن تک تبوک میں قیام فرمایا⁵ اور اس مدت میں ”ایلہ“ کے حاکم اور سرزمین ”جرباء“ اور ”اذرخ“ کے لوگوں سے صلح کا معاہدہ ہوا اور انھوں نے جزیہ ادا کرنے کا عہد کیا اس کے علاوہ پیغمبر اکرمؐ نے ایک مختصر فوجی نقل اور حرکت کے ذریعہ دعوۃ الجندل کے مقتدر بادشاہ کے ساتھ ایک صلح نامہ پر دستخط کئے اور وہ بھی جزیہ اور ٹیکس دے کر آپ کے سامنے تسلیم ہو گیا۔⁶

غزوہ تبوک رجب ۹ھ میں پیش آیا۔⁷ جس کے کچھ مناظر سورۃ توبہ میں منعکس ہوئے ہیں خاص طور سے اس میں وہ دشواریاں مشکلات اور فوج کے کوچ کرنے سے پہلے یا اس کے بعد بعض مسلمانوں کی سستی، کاہلی، اور منافقین کی خیانت اور گڑبڑیاں شامل ہیں۔ مسجد ضرار کا مشہور واقعہ بھی غزوہ تبوک کے ساتھ ہی پیش آیا جس کا ذکر سورۃ توبہ کی ۷۰ ویں آیت میں ہوا ہے۔

غزوہ تبوک کے آثار اور نتائج

اگرچہ اس رنج و مشکلات بھرے سفر میں کوئی جنگ نہ ہوئی لیکن اس کے بہت ہی مفید نتائج سامنے آئے جن میں سے کچھ مندرجہ ذیل ہیں:

- 1 ابن سعد، طبقات الکبریٰ، ج ۲، ص ۱۶۷؛ قسطلانی، المواہب اللدنیہ، ج ۱، ص ۳۴۶؛ حلبی، غزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۱۰۶
- 2 صحیح بخاری، ج ۶، ص ۳۰۸؛ مسعودی، التنبیہ والاشراف، ص ۲۳۵؛ قسطلانی، غزشتہ حوالہ، ص ۳۴۶۔ یہ نام اور عنوان، سورۃ توبہ کی آیت ۱۱ ”لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرة...“ سے لیا گیا ہے۔
- 3 واقدی، المغازی، ج ۳، ص ۱۹۱۔ ۱۹۹۰

4 حلبی، غزشتہ حوالہ، ص ۹۹۔

5 ابن سعد، غزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۱۶۶، ۱۶۸؛ واقدی، غزشتہ حوالہ، ص ۱۰۱۵۔

6 طبری، اعلام الوری، ص ۱۲۳؛ قسطلانی، غزشتہ حوالہ، ص ۳۵۰؛ طبری، تاریخ الامم والملوک، ج ۳، ص ۱۴۶۔

7 ابن سعد، طبقات الکبریٰ، ج ۲، ص ۱۶۵؛ ابن شام، سیرۃ النبویہ، ج ۴، ص ۱۵۹؛ حلبی، غزشتہ حوالہ، ص ۹۹؛ قسطلانی، غزشتہ حوالہ، ص ۳۴۶۔

۱۔ پیغمبر اکرمؐ نے اس سفر میں حجاز اور شام کے سرحدی علاقوں کے قبائل اور سرداران قوم سے صلح کا معاہدہ کر کے ان علاقوں کی امنیت کو یقینی کر دیا اور آپ کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اب یہ لوگ قیصر روم سے ساز باز نہیں کریں گے۔

۲۔ آپ کی اس فوجی نقل و حرکت سے اسلامی فوج کے سپہ سالار اس علاقے کی مشکلات راہ و روش اور پانی کے ذخائر سے اچھی طرح واقف ہو گئے اور انھوں نے اس زمانے کی بڑی طاقتوں کے مقابلہ میں لشکر کشی کا طریقہ بھی سیکھ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلامؐ کی وفات کے بعد مسلمانوں نے سب سے پہلے سرزمین شام کو ہی فتح کیا۔

۳۔ اس عمومی رضا کارانہ مشن میں مومن اور منافق کی باقاعدہ پہچان ہو گئی اور مسلمانوں کی صفوں میں ایک طرح کا تصفیہ ہو گیا اور کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو گئی۔¹

۴۔ اسلامی فوج کے اندر اعتماد نفس پیدا ہوا اور ان کا اعتبار بڑھ گیا اور دوسرے عرب قبائل بھی اسلام کی طرف مائل ہو گئے اور ان کے نمائندے بھی پیغمبر اسلامؐ کی اطاعت اور پیروی کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ بھی اس فوجی نقل و حرکت کا ایک بہترین اور اہم نتیجہ ہے جس کی وضاحت ہم مندرجہ ذیل سطروں میں پیش کر رہے ہیں۔

جزیرہ نمائے عرب میں اسلام کا نفوذ اور اس کا پھیلاؤ

جس طرح کہ فتح مکہ جزیرہ نمائے عرب میں اسلام کے نفوذ اور اس کی وسعت کا اہم ترین موڑ تھا اسی طرح جنگ تبوک بھی اس راستے میں دوسرا اہم قدم تھا۔ کیونکہ یہ نقل و حرکت جو درحقیقت ایک بڑی فوجی مشق کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس سے مسلمانوں کی فوجی قوت اور طاقت کے اعتماد میں اضافہ ہوا اور سب نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام کی فوجی طاقت اس منزل تک پہنچ چکی ہے کہ جو دور دراز علاقوں میں پہنچ کر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکر لے سکتی ہے۔ اس فوجی نقل و حرکت کا سیاسی، فوجی اور نظامی اثر اتنا زیادہ تھا کہ پیغمبر اسلامؐ کے واپس مدینہ پہنچ جانے کے بعد بہت سے قبیلوں کے وہ سردار جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انھوں نے بھی سمجھ لیا کہ اب شرک اور بت پرستی کے خاتمہ کا دور آپہنچا ہے۔ چنانچہ وہ بھی مدینہ آئے اور پیغمبر اسلامؐ کی اطاعت کا اعلان کر دیا۔ اس سال جن قبیلوں کے نمائندے اور ان کے وفود پیغمبر اسلامؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ۹ھ کو ”سبہ الوفود“ یعنی قبیلوں کے وفد اور ان کے سفیروں کے آنے کا سال قرار دیا گیا ہے۔²

مشرکین سے برائت کا اعلان

فتح مکہ کے بعد توحید کے پھلنے پھولنے اور شرک اور بت پرستی کے جڑ سے خاتمے اور دوسرے خرافات اور باطل افکار و خیالات جن کی بنیاد بھی بت پرستی ہی تھی سب کے خاتمے کا بہترین ماحول پیدا ہو چکا تھا اور اکثر شہروں اور دیہاتوں میں لوگ بت پرستی سے دور ہو کر اسلام کے پرچم

1 جعفر سبحانی، فروغ ابدیت، (قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ط ۵، ۱۳۶۸) ج ۲، ص ۴۰۴-۴۰۳۔

2 ابن ہشام، سیرۃ النبویہ، ج ۴، ص ۲۰۵۔ سیرت لکھنے والوں نے ان فہرستوں کو ثبت کیا ہے اور ان کی تعداد کو ۶۰ سے زیادہ لکھا ہے۔ رجوع کریں: طبقات الکبریٰ، ج ۱، ص ۲۹۱؛ تاریخ پیامبر اسلام، محمد ابراہیم آیتی، ص ۶۴۲-۶۰۹۔

تلے آگئے تھے لیکن کچھ متعصب، نادان اور ہٹ دھرم اب بھی اپنے جابلانہ رسم و رواج سے دست بردار نہیں تھے اور پیغمبرؐ کے اس نئے دین کو قبول کرنا ان کے لئے بہت ہی دشوار تھا۔

دوسری طرف اگرچہ رسول خداؐ نے اس زمانہ تک چند بار عمرہ کیا تھا۔ لیکن آپؐ کو ابھی تک حج کرنے کا کوئی موقع نہیں مل سکا تھا اور مشرکین مکہ، حج کو اپنے اسی پرانے طور طریقے اور خرافات کے ساتھ بجالاتے تھے اور تیسرے یہ کہ فتح مکہ کے بعد رسول خداؐ اور مشرکین کے درمیان دو طرح کے معاہدے ہوئے تھے:

۱۔ ایک عام معاہدہ یہ تھا کہ حج میں ہر ایک کی شرکت آزاد ہے اور کسی کو حج سے نہیں روکا جائے گا اور محترم مہینوں میں ہر ایک کے لئے امنیت قائم رہے گی اور کسی سے کوئی برا سلوک نہیں کیا جائے گا۔

۲۔ دوسرا معاہدہ بعض عرب قبیلوں سے ایک معین مدت تک کیا گیا تھا۔¹

غزوہ تبوک کے بعد سورہ برائت نازل ہو اور پیغمبرؐ کو خدا کی طرف سے یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ آپؐ مشرکین مکہ سے بیزاری کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ ان معاہدوں کی ایک آخری مدت معین کر دیں اور اس کے علاوہ ان آیتوں میں جو دوسرے دستور العمل آئے ہیں ان کو بھی نافذ اور لاگو کریں۔

سورہ برائت کی ابتدائی آیات کا ترجمہ یہ ہے :

مسلمانوں جن مشرکین سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا اب ان سے خدا اور رسول کی طرف سے مکمل بیزاری کا اعلان ہے۔ لہذا کافرو! چار مہینے تک آزادی سے زمین میں سیر کرو اور یہ یاد رکھو کہ خدا سے بچ کر نہیں جاسکتے ہو اور خدا کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے۔ اور اللہ و رسولؐ کی طرف سے حج اکبر کے دن انسانوں کے لئے اعلان عام ہے کہ اللہ اور اس کے رسولؐ دونوں مشرکین سے بیزار ہیں لہذا اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر انحراف کیا تو یاد رکھنا کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو اور پیغمبرؐ آپؐ کافروں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے، علاوہ ان افراد کے جن سے تم مسلمانوں نے معاہدہ کر رکھا ہے اور انھوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے اور تمہارے خلاف ایک دوسرے کی مدد نہیں کی ہے تو چار مہینے کے بجائے جو مدت طے کی ہے اس وقت تک عہد کو پورا کرو کہ خدا تقویٰ اختیار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر جب یہ محترم مہینے گزر جائیں تو کفار کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور گرفت میں لے لو اور قید کر دو اور ہر راستہ اور گزرگاہ پر ان کے لئے بیٹھ جاؤ اور راستہ تنگ کر دو۔ پھر اگر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو کہ خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔²

1 ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۴، ص ۱۹۰۔

2 سورہ برائت، آیت ۵۔ ا۔

پیغمبر اکرمؐ کا مخصوص نمائندہ اور سفیر

ان آیات کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام نے اس سورہہ برائت کی ابتدائی آیتوں کی تعلیم حضرت ابو بکر کو دی اور ان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ ان آیتوں کو عید قربان کے دن حاجیوں کے درمیان پڑھ کر سنائیں حضرت ابو بکر مکہ کے لئے روانہ ہو گئے۔ اسی دوران وحی الہی نازل ہوئی اور پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ یہ پیغام یا آپ خود پہنچائیں یا وہ شخص پہنچائے جو آپ سے ہو۔¹

یہ حکم الہی نازل ہونے کے بعد آپ نے حضرت علیؓ کو حکم دیا کہ مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں اور راستے میں ابو بکر سے آیتوں کو لے لیں اور پھر حاجیوں کے مجمع میں ان کو مشرکین سامنے پڑھ کر سنادیں۔ حضرت علیؓ رسول اکرمؐ کے مخصوص اونٹ پر سوار ہو کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور پیغمبر اکرمؐ کا پیغام ابو بکر تک پہنچایا، انھوں نے آیتیں حضرت علیؓ کے حوالے کر دیں اور مایوس و دل ملول اور ناراض و غمگین ہو کر مدینہ واپس پلٹ آئے اور پیغمبر اکرمؐ کی خدمت میں پہنچ کر یہ عرض کیا کہ ”آپ نے مجھے اس کام کے لئے لائق اور شائستہ سمجھا لیکن کچھ وقت نہیں گزرا تھا کہ آپ نے مجھے اس عہدے سے معزول کر دیا۔

کیا اس بارے میں خدا کا کوئی پیغام آیا ہے؟“

پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: ”ہاں! خدا کا نمائندہ آیا ہے جس نے یہ کہا ہے کہ میرے علاوہ یا جو شخص مجھ سے ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے شخص میں اس کام کی صلاحیت نہیں ہے۔“

اعلان برائت کا متن اور پیغمبر اکرمؐ کا الٹی میٹم

حضرت علیؓ مکہ میں داخل ہوئے اور دس ذی الحجہ کو سورہ برائت کی ابتدائی آیات کو حاجیوں کے عام مجمع کے درمیان پڑھ کر سنایا،² اور پیغمبر اکرمؐ درج ذیل شرح کے ساتھ الٹی میٹم تمام حاجیوں کے گوش گزار کر دیا۔

۱۔ خدا اور پیغمبر اسلامؐ مشرکین سے بیزار اور دور ہیں۔

۲۔ آئندہ سال کسی مشرک کو حج کرنے کا حق نہیں ہے۔

۳۔ کسی شخص کو برہنہ ہو کر طواف کعبے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔³

1 ”لایؤدیہا عنک الا انت اور جل منک۔“

2 یہ واقعہ تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ مندرجہ ذیل کتابوں میں نقل ہوا ہے۔ تاریخ الامم والملوک، ج ۳، ص ۱۵۴؛ سیرۃ ابن ہشام، ج ۴، ص ۱۹۰؛ الکامل فی التاریخ، ج ۲، ص ۲۹۱؛ تفسیر مجمع البیان، ج ۵، ص ۳؛ تذکرۃ الخواص، ص ۵۷؛ البدایہ والنہایہ، ج ۵، ص ۳۷ اور ج ۳۸ اور ج ۷، ص ۳۵۸؛ تفسیر روح المعانی، ج ۱، تفسیر سورہ توبہ؛ تفسیر المنار، ج ۱۰، ص ۱۵۷۔

3 برہنہ ہو کر طواف کرنا مشرکوں کی دینی پستی کا ایک نمونہ تھا اور یہ قریش کی انحصار طلبی کی بنا پر تھا۔ اس سلسلے میں اس کتاب کے پہلے حصہ کی تیسری فصل میں ”پریشان کن“ دینی حالات کے بحث میں توضیح دی گئی ہے۔

۴۔ مشرکین کو آج سے لے کر چار مہینے تک یہ مہلت ہے کہ وہ اپنی پناہ گاہ اور اپنی سر زمین کی طرف لوٹ جائیں اور چار مہینے کے بعد کسی مشرک کیلئے کوئی عہد و پیمان نہیں رہے گا مگر وہ لوگ جو رسول اللہ سے عہد و پیمان رکھتے ہیں، ان لوگوں کا معاہدہ اس کی معینہ مدت تک اپنی پرانی شکل و صورت پر باقی رہے گا۔

۵۔ کوئی کافر جنت میں نہیں جاسکتا۔¹

آپ کے اس الٹی میٹم اور اعلان برائت کے بعد جب تمام مشرکین اپنے وطن واپس گئے تو انھوں نے ایک دوسرے کی ملامت کرنا شروع کر دی اور یہ کہا کہ جب قریش ہی مسلمان ہو گئے تو اب ہم کیا کریں چنانچہ وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔² اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہیں آیا کسی شخص نے برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا۔³

نجران کے عیسائی نمائندوں کی انجمن سے پیغمبر کا مباہلہ⁴

پیغمبر اسلام جس طرح دنیا کے مختلف بادشاہوں اور اہل حکومت کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لئے خطوط لکھتے تھے اسی طرح آپ نے ایک خط اسقف نجران کے پاس بھی لکھا۔ اس خط میں آپ نے جناب ابراہیم واسماعیل، اسحاق و یعقوب کے خدا کی حمد و ثناء کیساتھ اس سے (اور دوسرے عیسائیوں سے) یہ تقاضا اور خواہش کی کہ بندوں کی عبادت سے پرہیز کرتے ہوئے خداوند عالم کی اطاعت کریں۔ اور بندوں کی ولایت و بندگی سے نکل کر خدا کی بندگی کریں اور اس کی ولایت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں یا ٹیکس ادا کرو۔ ورنہ جنگ کیلئے تیار رہیں⁵ بعض روایات کے مطابق پیغمبر اسلام نے سورہ آل عمران کی ۶۴ ویں آیت⁶ کو بھی اپنے خط میں ذکر کیا تھا۔⁷

1 پیغمبر اسلام کا یہ الٹی میٹم اختصار یا تفصیل کے ساتھ مندرجہ ذیل کتابوں میں نقل ہوا ہے: سیرۃ ابن ہشام، ج ۴، ص ۱۹۱؛ تفسیر المیزان، ج ۹، ص ۱۶۳ اور ۱۶۵؛ تفسیر المنار، ج ۱۰، ص ۱۵۷؛ البدایہ والنہایہ، ج ۷، ص ۵۸؛ الغدير، ج ۶، ص ۳۷۷ اور ۳۷۸۔
2 طبری، تاریخ الامم والملوک، ج ۳، ص ۱۵۴؛ ابن اثیر، الکامل فی التاريخ، ج ۲، ص ۲۹۱۔
3 ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۴، ص ۱۹۱؛ ابن اثیر، البدایہ والنہایہ، ج ۷، ص ۳۷۔
4 نجران یمن کا ایک علاقہ تھا جو مکہ کی سمت تھا۔ (یا قوت حموی، معجم البلدان (بیروت: دار احیاء التراث العربی، ج ۵، ص ۲۶۶) عماد الدین ابوالفداء، (۷۳۲-۷۷۲) لکھتے ہیں کہ ”نجران ایک چھوٹا سا شہر ہے جو نخلستان سے بھرا ہوا ہے، معتدل راستہ کے ذریعے مکہ سے نجران تک کا فاصلہ تقریباً بیس دن میں طے ہوتا ہے۔ (تقویم البلدان، عبد الحمید آیتی، انتشارات فرہنگ بنیاد ایران، ۱۳۴۱، ص ۱۲۷)۔ یہ شہر چند صدیوں کے بعد وسیع و عریض ہو گیا تھا؛ کیونکہ زینی دحلان (۱۳۰۴-۱۲۳۱ھ-ق) لکھتے ہیں: کہ نجران ایک بڑا شہر ہے جو مکہ سے سات منزلوں پر ہے۔ یمن کی سمت جس میں ۷۳ قریہ ہیں، سعودی عرب کے موجودہ نقشہ کے مطابق نجران اسی ملک کا ایک شہر ہے۔ جو یمن کی سرحد کے پاس ہے۔

5 ابن واضح، تاریخ یعقوبی (نجف: مکتبۃ الحیدریہ، ۱۳۸۴ھ-ق) ج ۲، ص ۷۱-۷۰؛ رجوع کریں: البدایہ والنہایہ (بیروت: مکتبۃ المعارف، ۱۹۷۷ء) ج ۵، ص ۵۳؛ بحار الانوار، ج ۲۱، ص ۲۸۵؛ وفاق، محمد حمید اللہ، ترجمہ: ڈاکٹر محمود مہدوی دامغانی، ص ۳۴؛ علی احمدی، مکتب الارسول، (ط ۳، ۱۳۶۳ش) ج ۱، ص ۱۷۵۔

6 ”قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سوائہ بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرب بہ شیئاً ولا نتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون۔“
7 سید بن طاووس، الاقبال بالاعمال الحسنہ فیما یعمل مرۃ فی السنہ، تحقیق: جواد الفیومی الاصفہانی (قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات حوزہ علمیہ قم، ط ۲، ص ۷۷-۱۳) ج ۲، ص ۳۱۱۔

پیغمبر اسلام کا خط ملنے کے بعد نجران کے پادری نے بزرگان نجران اور وہاں کی مذہبی اور سیاسی شخصیتوں کو ایک جگہ جمع کیا تاکہ ان سے اس موضوع کے بارے میں گفتگو کر سکے، کیونکہ عیسائی علماء کے پاس بعثت پیغمبر کی قریب الوقوع علامتیں موجود تھیں، لہذا ان کی میٹنگ میں یہ طے پایا کہ ایک وفد مدینہ جائے جو قریب سے پیغمبر سے گفتگو کرے اور آپ کی نبوت کے دلائل کے بارے میں تحقیق کرے۔

نصارائے نجران کا یہ وفد جب مدینے پہونچا۔ تو اس میں اس وقت کی ان کی تینبڑی شخصیتیں بھی موجود تھیں جس میں خود اسقف (پاپ) بھی موجود تھا، پیغمبر اسلام نے ان سے گفتگو کر کے ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی نیز ان کے سامنے قرآن مجید کی بعض آیتوں کی تلاوت بھی فرمائی۔ عیسائیوں نے کہا: ہم آپ سے پہلے ہی مسلمان تھے۔

حضرت نے فرمایا: تم لوگ جھوٹ کہتے ہو اسلام لانے سے تمہارے لئے تین چیزیں مانع ہیں (یعنی تم لوگوں کو تین چیزوں کی بنا پر مسلمان نہیں کہا جاسکتا) تم لوگ صلیب کی عبادت کرتے ہو، سور کا گوشت کھاتے ہو اور خدا کو صاحب اولاد سمجھتے ہو (یعنی جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو)۔

اس کے بعد جناب عیسیٰ کی بندگی اور الوہیت کے بارے میں بحث شروع ہو گئی انھوں نے جناب عیسیٰ کے معجزات کو دلیل بنا کر، جیسے آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، غیب کی خبر دیتے تھے، مریضوں کو شفا عطا کرتے تھے۔ کیونکہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے لہذا آپ کو وہ لوگ خدا کہہ رہے تھے۔ جب کہ پیغمبر اسلام آپ کی بشریت اور آپ کے بشر ہونے کے بارے میں تاکید فرما رہے تھے، یہ بحث اور گفتگو کافی طولانی ہو گئی اور انھوں نے بالآخر جناب عیسیٰ کی بشریت کو قبول نہیں کیا، اسی دوران خداوند عالم کی طرف سے پیغمبر پر یہ وحی نازل ہوئی۔

جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ خدا وہی عیسیٰ بن مریم ہے وہ کافر ہو گئے ہیں¹ درحقیقت جناب عیسیٰ کی مثال خدا کے نزدیک خلقت آدم کی طرح ہے کہ جن کو خاک سے پیدا کیا اور ان سے کہا ہو جاؤ تو وہ وجود میں آگئے۔² (اگر جناب عیسیٰ کا بن باپ کے متولد ہونا ان کے فرزند خدا ہونے کی دلیل ہے تو جناب آدم تو اس منصب کے لئے زیادہ اولیٰ اور برتر تھے کیونکہ ان کا کوئی باپ تھا اور نہ ماں۔) (جو کچھ جناب عیسیٰ کے بارے میں کہا گیا وہ) حق (ہے جو) آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے پس آپ انکار کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں،³ پیغمبر علم کے آجانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ جیتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزندوں، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔⁴

ان آیات کے نزول کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا: ”خداوند عالم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ”مباہلہ“ کروں۔“

1 سورہ مائدہ، آیت ۱۷۔

2 طبری کے نقل کے مطابق سورہ آل عمران کی تقریباً ستر (۷۰) آیتیں اسی مناسب سے نازل ہوئیں ہیں۔ (اعلام الوری، ص ۱۲۹)

3 سورہ آل عمران، آیت ۶۰۔

4 سورہ آل عمران، آیت ۶۱۔

5 حلبی، السیرۃ الحلبیہ (بیروت: دار المعرفہ)، ج ۳، ص ۲۳۶-۲۳۵؛ زینی دحلان، السیرۃ النبویہ، ج ۲، ص ۱۳۴؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۱، ص ۳۴۷ (تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ) علامہ مجلسی نے عیسائیوں کے وفد کے ساتھ پیغمبر اسلام کے مناظرہ اور ملاقات کو بحار الانوار کی ۲۱ ویں جلد میں صفحہ ۳۱۹ سے ۳۵۵ تک مختلف کتابوں سے جمع کیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ ہم اس بارے میں غور کریں گے۔ اس کے بعد وہ اپنی اپنی قیام گاہ کی طرف واپس چلے گئے پھر آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا ان کے پادری اور وفد کے سردار نے ان کو اس خطرے کی طرف متوجہ کر دیا کہ دیکھو محمدؐ خدا کے رسول ہیں اور اگر تم ان سے مباہلہ کرو گے تو عذاب نازل ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھیوں نے اس کی ایک نہ سنی، مباہلہ پر اصرار کرتے رہے۔ آئندہ روز، مباہلے کا وقت طے پایا۔ اس وقت ان کے پادری نے کہا دیکھو کل یہ دیکھنا کہ محمدؐ مباہلہ کے لئے کس طرح آتے ہیں اگر اپنے بچوں اور اہل خانہ کے ساتھ آئیں تو ان سے مباہلہ نہ کرنا کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انھیں اپنی بات پر یقین و اعتماد ہے اور وہ اس راستے میں صرف اپنی ہی جان نہیں بلکہ اپنے قریب ترین بچوں اور خاندان والوں کی جان کو بھی خطرے میں ڈالنے کے لئے تیار ہیں اور اگر بالفرض وہ اپنے ساتھیوں اور اصحاب کے ساتھ آتے ہیں تو ان سے مباہلہ کر لو اور یاد رکھو کہ ان کی بات اور دعویٰ بے بنیاد اور بے دلیل ہے۔ یعنی وہ اپنے ساتھ ان لوگوں کو لا کر اپنے ظاہری عظمت و جلال کو ہمارے اوپر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔¹

آئندہ روز پیغمبر اکرمؐ مقررہ وقت پر اپنے ساتھ حضرت علیؑ، جناب فاطمہؑ، امام حسنؑ اور امام حسینؑ کو لیکر مباہلہ کے لئے روانہ ہوئے۔² پادری نے آپ کے ساتھ ان حضرات کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ جواب دیا گیا کہ پیغمبر کے ابن عم ہیں وہ آپ کی بیٹی ہیں اور یہ دونوں آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔³

پادری نے کہا: میں اس وقت ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ خدا سے دعا کریں کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور روئے زمین پر ایک عیسائی بھی باقی نہ رہ جائے گا۔

پادری کی اس خطرے کی گھنٹی سے عیسائی مباہلہ کرنے سے باز رہے⁴ اور پیغمبرؐ کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے ٹیکس دینے کے لئے تیار ہو گئے جس کی تفصیل تاریخی کتابوں میں موجود ہے۔⁵

1 طبری، اعلام الوری، (تہران: دارالکتب الاسلامیہ، ط ۳)، ص ۱۲۹؛ مجمع البیان، ج ۲، ص ۵۲؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۱، ص ۳۳۔

2 حلبی، سیرۃ الحلبيہ، ج ۳، ص ۲۳۶؛ زینی دحلان، السیرۃ النبویہ والاثار المحمدیہ، ج ۲، ص ۱۴۴۔

3 ابن واضح، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۷۲؛ طبری، اعلام الوری، ص ۱۲۹۔

4 حلبی، مگزشتہ حوالہ، زینی دحلان، مگزشتہ حوالہ، زرخشری، تفسیر الکشاف، (بیروت: دار المعرفہ)، ج ۱، ص ۱۹۳؛ فخر رازی، مفتاح الغیب، (التفسیر الکبیر) (بیروت: دار التراث الاسلامی)، ج ۸، ص ۸۲؛ سید محمد حسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۲۳۱ (تفسیر لغابی کی نقل کے مطابق)؛ قاضی بیضاوی، انوار التنزیل، ص ۷۴۔

5 رجوع کریں: تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۷۲؛ طبقات الکبریٰ، ج ۲، ص ۳۵۸؛ فتوح البلدان، ص ۷۶۔ ۷۵۔ وثائق، ترجمہ: محمود مہدوی دامغانی، ص ۱۳۵۔ ۱۳۴؛ السیرۃ النبویہ والاثار المحمدیہ، ج ۲، ص ۱۴۴؛ السیرۃ الحلبيہ، ج ۳، ص ۲۳۶؛ تفسیر کشاف، ج ۱، ص ۱۹۱؛ التفسیر الکبیر (مفتاح الغیب)، ج ۸، ص ۸۲؛ المیزان فی تفسیر ان، ج ۳، ص ۲۳۲۔

تیسری فصل

حجۃ الوداع اور رحلت پیغمبرؐ

حجۃ الوداع

حج؛ اسلام کا ایک عبادی اور سیاسی رکن ہے جس کے بانی حضرت ابراہیمؑ تھے، اس کتاب کے پہلے حصہ کی دوسری فصل میں ہم نے ظہور اسلام سے پہلے تک قدرت و طاقت اور قریش کے نفوذ اور ان کی دینی حالتوں کی بحث میں روشنی ڈالی ہے کہ قریش اور تمام مشرکین کس طرح حج اور عمرہ کیا کرتے تھے جو ایک واقعی حج نہیں تھا بلکہ انھوں نے حج ابراہیمی کو بالکل مسخ کر کے رکھ دیا تھا اور اس میں طرح طرح کی رسم و رواج اور خرافات کی آمیزش کر دی تھی۔

یہاں پر یہ بھی بیان کرنا مناسب ہوگا کہ قریش اپنے کو ”سکان حرم اللہ“ (حرم نشین)¹ سمجھتے تھے اور چونکہ سرزمین ”عرفہ“ حرم سے باہر ہے اس لئے قریش حج کے زمانے میں مشرکین کے برخلاف، میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے بلکہ وہ لوگ مزدلفہ ”مشعر“ میں وقوف (ٹھہرا) کرتے تھے۔² اور وہاں سے منیٰ چلے جاتے تھے۔ دوسری طرف یثرب کے لوگ ”منات“ نامی بت کے پاس جو یثرب اور مکہ کے راستے میں سمندر کے کنارے پر موجود تھا۔ وہاں سے احرام باندھتے تھے۔³ اور جو لوگ وہاں مُحَرَّم ہوتے تھے وہ لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کرتے تھے۔⁴

اسی طرح مشرکین حج کرتے وقت سنت ابراہیمی کے برخلاف غروب سے پہلے ہی میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف کوچ کر جاتے تھے⁵ ان تمام باتوں کی وجہ سے حج ابراہیمی کا چہرہ بالکل تبدیل ہو گیا تھا اور یہ عظیم الہی اور توحیدی عبادت، شرک اور خرافات کا پلندہ بن گئی تھی وجوب حج کی آیت⁶ نازل ہونے کے بعد رسول خداؐ اپنے پہلے سے اعلان شدہ پروگرام کے مطابق مدینہ اور اطراف کے مسلمانوں کے ساتھ

1 ازرقی، اخبار مکہ، تحقیق: رشیدی (تم: منشورات الرضی، ط ۱۱۴۱ھ-ق) ج ۱، ۱۷۶؛ ابن عبد ربہ، العقد الفرید، (بیروت: دار الکتب العربی، ۱۴۰۳ھ-ق) ج ۳، ص ۳۱۳۔

2 واقدی، المغازی، ج ۳، ص ۱۱۰۲؛ زینی دحلان، السیرۃ النبویہ، ج ۲، ص ۱۲۳۔

3 ہشام کلبی، الاصابہ، ترجمہ: سید محمد رضا جلالی نائینی، ۱۳۴۸ ش، ص ۱۳؛ ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج ۱، ص ۸۸؛ محمود شکاری آلوسی، بلوغ الارب فی معرفۃ احوال العرب، تصحیح محمد بھجۃ الاثری، (قاہرہ: دار الکتب الحدیث) ج ۲، ص ۲۰۲۔

4 حلبی، السیرۃ الجلبیہ، ج ۳، ص ۳۱۷۔

5 واقدی، محرز شتہ حوالہ، ج ۳، ص ۱۱۰۲۔

6 سورہ حج، آیت ۲۷۔

حج کی طرف روانہ ہوئے اور¹ اس سفر میں آپ نے جناب ابراہیمؑ کے حقیقی اور واقعی حج کی، عملی طور پر مسلمانوں کو تعلیم دی، حضرت، مناسک حج کے دوران مسلسل یہ تاکید فرماتے رہے کہ مسلمان مناسک حج کو آپ سے اچھی طرح سیکھ لیں کیونکہ شاید آئندہ سال آپ کو حج نصیب نہ ہو،² آپ فرماتے تھے کہ موافق اور مشاعر حج کو دھیان میں رکھو کیونکہ یہ جناب ابراہیمؑ کی میراث ہے۔³

آپ نے اس سفر میں، مشرکین، خاص طور سے قریش کی بدعتوں سے حج کو پاک اور صاف کر دیا باوجودیکہ آپ خود قریش سے تعلق رکھتے تھے آپ نے عرفات میں وقوف کیا اور وہاں سے مزدلفہ تشریف لے گئے۔⁴ کیونکہ حکم خدا یہی تھا کہ ”پھر جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں وہیں سے آپ بھی روانہ ہوں“⁵ اسی طرح آپ نے میدان عرفات سے سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ کی طرف کوچ کیا۔⁶ یہ حج مختلف اسباب اور مناسبتوں کی وجہ سے ”حجۃ الوداع“ ”حجۃ الاسلام“ اور ”حجۃ البلاغ“ کہا گیا۔⁷

پیغمبر اسلام کا تاریخی خطبہ

پیغمبر اسلام نے مناسک حج کے دوران روز عرفہ، عرفات کے میدان میں حاجیوں کے جم غفیر میں ایک بہت ہی اہم اور تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے دوران بہت سے اہم مسائل پر روشنی ڈالی اور ان کے بارے میں بار بار تاکید اور وصیت فرمائی اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جب آپ نے ذی الحجہ اور خاص طور سے اس روز عرفہ کی عظمت اور قداس کا تمام حاضرین سے اعتراف لے لیا تو فرمایا:

اے لوگو! جب تک تم لوگ خدا سے ملاقات نہ کر لو تم سب لوگوں کے خون، اموال ناموس اور آبرو بالکل اس مہینے اور اس دن کی حرمت اور قداس کی طرح محترم ہیں اور ان میں سے کسی پر تجاوز کرنا حرام ہے آپ نے فرمایا: جاہلیت میں بہائے جانے والے خون کا بدلہ، اسلام کے زمانہ میں ناقابل اجراء ہے۔ اور رباحرام ہے۔

اسی طرح آپ نے حرام مہینوں میں تبدیلی یا ان کے مؤخر کرنے کا سبب کفر میں افراط کو قرار دیا اور فرمایا کہ یہ بات بھی آج کے بعد ممنوع ہے۔⁸

عورتوں کے حقوق کے بارے میں یہ تاکید اور وصیت فرمائی: ”عورتوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرو کیونکہ وہ تمہارے ہاتھوں میں خدا کی امانتیں ہیں اور قوانین الہی کے ذریعہ تمہارے اوپر حلال ہوئی ہیں“ اس کے بعد فرمایا: ”حاضرین، غائبین تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں کہ میرے بعد

1 کلیئ، الفروع من الکافی (تہران: دارالکتب الاسلامیہ، ۱۳۸۴ھ، ق) ج ۲، ص ۳۹۰۔

2 ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، ج ۲، ۱۸۱؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج ۳، ص ۳۲۔

3 واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ۱۱۰۴۔

4 واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ۱۱۰۲؛ زینی دحلان، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۱۴۳؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۳۹۲۔

5 سورۃ بقرہ، آیت ۱۹۹۔

6 واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ۱۱۰۴؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ص ۳۷۹۔

7 زینی دحلان، گزشتہ حوالہ، ج ۲، ص ۱۴۳۔

8 حرام مہینوں کی تبدیلی اور ان کے ناموں میں الٹ پھیر اس کتاب کے پہلے حصہ میں ”اسلام سے پہلے عرب کی معاشرتی صورت حال“ کی بحث میں ”حرام مہینوں“ کے عنوان کے تحت کی ہے۔

کوئی پیغمبر نہیں ہے اور تم مسلمانوں کے بعد کوئی امت نہ ہوگی۔“ اس کے بعد آپ نے جاہلیت کی رسم و رواج اور عقائد کو بالکل باطل اور کالعدم قرار دیدیا۔¹

عظیم فضیلت

جیسا کہ بزرگ محدثین اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ آیہ مباہلہ کے نزول کے بعد پیغمبر اسلام کے ساتھ چار لوگ مباہلہ کے لئے آئے تھے، یہ ان کے لئے بہت بڑی اور عظیم فضیلت ہے کیونکہ آیت اور واقعہ مباہلہ نے یہ واضح کر دیا کہ حسن و حسین ۲۲۸ رسول خدا کے فرزند اور حضرت علیؑ آپ کا نفس ہیں اور آپ کی بیٹی جناب فاطمہؑ وہ تنہا خاتون ہیں جو مباہلہ میں تشریف لائیں آیت میں نساء کا مصداق آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔

جناب عائشہ سے نقل ہوا ہے کہ روز مباہلہ، پیغمبر اسلام نے ان چاروں افراد کو اپنی سیاہ (اور لکیر دار) عبا کے نیچے لیکر اس آیت کی تلاوت فرمائی:

(انما يريد الله ليزب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا)²

اس بارے میں تمام علماء شیعہ اور اہل سنت کا اتفاق ہے کہ مباہلہ کے دن بھی چاروں حضرات پیغمبر اسلام کے ساتھ آئے تھے اور کتب تاریخ و تفسیر و حدیث میں اس بارے میں بے شمار روایتیں نقل ہوئی ہیں³ اور تمام محققین نے ان حضرات کی اس عظیم فضیلت پر تاکید کی ہے۔

1 ابن ہشام، السيرة النبوية، ج ۴، ص ۲۵۲-۲۵۰؛ حلبی، السيرة الحلبیة، ج ۳، ص ۳۱۲؛ ابن سعد، طبقات الکبری، ج ۲، ص ۱۸۶؛ واقدی، المغازی، ج ۳، ص ۱۱۱؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۱، ص ۳۸۰۔ اس بات کا خیال رہے کہ ابن سعد اور واقدی کے کہنے کے مطابق پیغمبر اسلام نے یہ خطبہ میدان منی میں ارشاد فرمایا ہے۔

2 (سورۃ احزاب، آیت ۳۲): ”مَنْ حَشَرِيْ مِّنْ حِوَالِهِ“؛ فخر رازی نے عائشہ کا نام لئے بغیر، اس روایت کو نقل کیا ہے اور یہ جملہ بڑھایا ہے ”جان لو کہ یہ روایت اہل تفسیر و حدیث کے درمیان صحیح حدیث کی طرح ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے“ (تفسیر کبیر، ج ۸، ص ۸۲)؛ شبلیؒ کہتا ہے: ”یہ روایت متعدد صحیح سندوں کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔“

3 منجملہ مندرجہ ذیل منابع: تفسیر الکشاف، ج ۱، ص ۱۹۳؛ مفتاح الغیب، (تفسیر الکبیر)، ج ۸، ص ۸۲؛ الدر المنثور، (دار الفکر)، ج ۲، ص ۲۳۱-۲۳۳؛ (کتاب الدلائل میں حاکم، ابن مردویہ، ابوعیثم کے نقل کے مطابق: ترمذی، ابن المنذر، بیہقی، در کتاب السنن، وابن جریر) تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۷۱؛ ابوسعید واعظ خرگوشی، شرف النبی، ترجمہ: نجم الدین محمود راوندی (تہران: انتشارات بابک، ۱۳۶۱) ص ۲۶۲؛ قاضی بیضاوی، انوار التنزیل، (ط قدیم رحلی)، ص ۷۴؛ نور الابصار، ص ۱۱۱؛ مناقب علی بن ابی طالب، ابن مردویہ، تدوین و ترتیب و مقدمہ: عبدالرزاق حرز الدین، ص ۲۶۶۔ لیکن اس ضمن میں وسیع ترین اور تفصیلی بحث مرحوم سید بن طاووس کی کتاب ”الاقبال بالاعمال الحسبۃ فیما یعمل مرۃ فی السنہ“، ج ۲، ص ۳۸-۳۱۰ میں پائی جاتی ہے۔ میدان مباہلہ میں الملبیۃ کی موجودگی کے بارے میں ان تمام روایات کی حکایت کے باوجود بعض مورخین کی طرف سے تعصب کے تحت مباہلہ کی روایت میں خرد برد ہوئی ہے اور اپنے اپنے سلیقہ کے مطابق اس میں کمی اور زیادتی کی گئی ہے ان میں سے، بلاذری، ابن کثیر اور شعبی نے حضرت علیؑ کے نام کو حدیث مباہلہ سے حذف کر دیا ہے (رجوع کریں: فتح البلدان، ص ۷۵؛ البدایہ والنہایہ، ج ۵، ص ۵۴؛ الدر المنثور، ج ۲، ص ۲۳۲) اور حلبی و زینی و دحلان نے عائشہ اور حفصہ کو میدان مباہلہ میں موجودگی کیلئے نامزد قرار دیتے ہوئے عمر سے نقل کیا ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا: اگر عیسائیوں سے میں مباہلہ کرتا تو علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ، حسینؑ، ۲۲۳ عائشہ اور حفصہ کو لیتا اور حاضر ہوتا۔ (السیرۃ الحلبیہ، ج ۳، ص ۲۳۶۔ السیرۃ النبویہ والاثار المحمدیہ، ج ۲، ص ۱۴۵-۱۴۴) اور سیوطی نے ابن عساکر سے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے مباہلہ کے لئے ابو بکر اور ان کے لڑکوں کو، عمر اور ان کے لڑکوں کو، عثمان اور ان کے لڑکوں کو اور علیؑ اور ان کے لڑکوں کو دعوت دی!! (الدر المنثور، ص ۳۳۳)۔ ان روایات کا جعلی اور تحریف شدہ ہونا اس قدر واضح ہے کہ توضیح کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف بطور اشارہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ اگر کلمہ ”نساء“ پیغمبرؐ کی ازواج کو بھی شامل ہوتا تو کیوں اور کس طرح صرف ان میں سے دو بیویاں (دو خلیفہ کی لڑکیاں) مباہلہ میں حاضر ہونے کی لیاقت رکھتی تھیں!؟

اہل سنت والجماعت کے عظیم محدث ”مسلم“ سعد وقاص سے نقل کرتے ہیں کہ ان کا بیان ہے کہ جس روز یہ آیت ”فقل تعالوا ندرع ابنائنا وابنائکم“ نازل ہوئی، رسول خداؐ نے علیؑ اور فاطمہؑ اور حسنؑ اور حسینؑ کو بلایا اور فرمایا: ”خدا یا! یہ میرے اہل بیت ہیں“¹

زنجبیری نے واقعہ مباہلہ اور روایت عائشہ کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ واقعہ اصحاب کساء کی سب سے طاقتور دلیل ہے اور پیغمبر اسلام کی حقانیت کا سب سے واضح اور روشن برہان ہے۔²

قاضی بیضاوی نے بھی واقعہ مباہلہ کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ واقعہ پیغمبر کی نبوت کی حقانیت اور آپ کے ساتھ آنے والے آپ کے اہل بیت کی فضیلت کی بہترین دلیل ہے۔³

سید بن طاووس نے کتاب سعد السعود میں تحریر کیا ہے کہ ”محمد بن عباس بن مروان نے اپنی کتاب ”مازل من القرآن فی النبی واہل بیته“ میں حدیث مباہلہ کو صحابہ اور غیر صحابہ کی ۵۱ سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے“⁴

اس بحث کے اختتام پر صرف یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ واقعہ مباہلہ کی تاریخ، سن اور مہینہ کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے⁵ کیونکہ اس مقام پر اس کی تحقیق کی گنجائش نہیں ہے لہذا ہم نے مورخین کے طریقہ کار اور سنت کے مطابق اس کو ۱۰ھ کے واقعات میں ذکر کر دیا ہے۔

مصر عراق اور مدینہ کا راستہ وہیں سے جدا ہوتا تھا۔

واقعہ غدیر اور مستقبل کے رہنما کا تعارف

حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر ۱۸ ذی الحجہ کے دن جحفہ سے تین میل کے فاصلہ پر سرزمین ”غدیر خم“⁶ میں آیہ (یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ...) ⁷

کے نزول کے بعد پیغمبر اسلامؐ نے بے آب و گیاہ میدان میں شدید گرمی کے باوجود ایک لاکھ حاجیوں کے کاروان کو رکنے کا حکم دیا اور نماز ظہر ادا کرنے کے بعد ایک بلند مقام پر تشریف لے گئے اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا: اس میں پہلے تو آپ نے اپنی عمر کے تمام ہونے کی اطلاع دی اور اس کے بعد اپنی تبلیغ اور رسالت سے متعلق مسلمانوں کے خیالات معلوم کئے تو سب نے ایک زبان ہو کر آپ کی تبلیغ، ہدایت اور ارشاد و راہنمائی کی تعریف کی۔ اس کے بعد آپ نے کتاب و عنترت یعنی ثقلین کے بارے میں نصیحت فرمائی اور یہ تاکید کی کہ مسلمان

1 صحیح مسلم، بشرح النووی، ج ۱۵، ص ۱۷۶۔

2 تفسیر الکشاف، ج ۱، ص ۱۹۳۔

3 انوار التزیل، طبع قدیم، ر حلی، ص ۷۴۔

4 مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۱، ص ۳۵۰۔

5 اس کے متعلق مزید معلومات کے لئے رجوع کریں: مکاتیب الرسول، ج ۱، ص ۷۹ اور فروغ ابدیت، ط ۵، ج ۲، ص ۴۴۵-۴۴۱۔

6 یہ وہ جگہ تھی جہاں سے مختلف ممالک کے حاجیوں کے راستے الگ ہو جایا کرتے تھے۔

7 اے پیغمبر! آپ اس حکم کو پہنچادیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ (سورہ مائدہ، آیت ۶۷)

دونوں سے متمسک رہیں تاکہ گمراہ نہ ہوں اور آپ نے مزید فرمایا کہ خداوند عالم نے ان کو یہ اطلاع دی ہے کہ یہ دونوں قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے لہذا لوگ ان سے آگے نہ بڑھیں اور نہ ہی ان سے پیچھے رہ جائیں۔

اس موقع پر اپنے حضرت علیؑ کا ہاتھ بلند کیا اور ان کو مسلمانوں کے آئندہ رہبر اور خلیفہ کے عنوان سے پہنچواتے ہوئے یہ فرمایا: خداوند عالم میرا مولا ہے اور میں تمام مومنین کا مولا ہوں (اور ان کے اوپر ان سے زیادہ اولویت رکھتا ہوں) اور جس کا میں مولا ہوں علیؑ اس کے مولا ہیں۔ پروردگار! تو اس سے محبت فرما جو علیؑ سے محبت کرے اس کو دشمن رکھنا جو علیؑ سے دشمنی رکھے۔ خدایا! علیؑ کے مددگاروں کی مدد فرما ان کے دشمنوں کو خوار اور ذلیل فرما، پروردگار! علیؑ کو حق کا محور قرار دے۔

اسی وقت یہ آیہ قرآن نازل ہوئی: (الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً...) ¹ جس میں دین کی تکمیل اور ہدایت کی نعمت کے اتمام کا اعلان پیغمبرؐ کے ہاتھوں حضرت علیؑ کے خلیفہ منسوب ہو جانے کے بعد کر دیا گیا اس کے بعد پیغمبرؐ کے اصحاب نے حضرت علیؑ کو اس منصب کی مبارکبادی۔ ²

یہ واقعہ غدیر کا ایک مختصر سا خاکہ ہے اور چونکہ یہ اہم واقعہ اتنا مشہور اور متواتر ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس پورے واقعہ کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، کیونکہ دوسرے اسلامی محققین اور دانشوروں نے اس واقعہ کے مختلف گوشوں اور پہلوؤں کو بیان کیا ہے خاص طور سے علامہ امینیؒ نے اپنی بیش قیمت اور اہم کتاب الغدیر میں اس واقعہ کی سند اور متن اور دلالت پر ہر اعتبار سے بحث کی ہے اور اس واقعہ کے تمام اہم پہلوؤں کے بارے میں تحقیق اور جستجو فرمائی ہے لہذا اسی بنا پر ہم اس مقام پر صرف چند نکات کو بطور یاد دہانی ذکر کر کے چند اہم سوالات کے جوابات دینا چاہتے ہیں۔

۱۔ واقعہ غدیر، حضرت علیؑ کی ولایت اور امامت کی اہم دلیل اور سند ہے اور زمانہ کی ترتیب کے اعتبار سے یہ آخری سند ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی امامت کی صرف یہی ایک تہہ دلیل ہے کیونکہ جیسا کہ آپ نے اس کتاب میں بھی ملاحظہ فرمایا کہ امت کی رہبری اور امامت کی اہمیت کے پیش نظر، پیغمبر اسلامؐ نے بعثت کے ابتدائی ایام میں ہی اپنے اعضاء اور اقرباء کو اپنی رسالت اور اسلام کی طرف دعوت دیتے وقت واقعہ ذوالعشیرہ میں آپ کی امامت کا بھی تذکرہ کیا تھا اور اس کے بعد بھی آپ مختلف مواقع پر (جیسا کہ تبوک میں) اس بات کی مسلسل یاد دہانی کراتے رہے۔

پیغمبرؐ کی جانشینی، ایک خدائی مسئلہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ پہلے یہ پڑھ چکے ہیں کہ پیغمبرؐ نے علنی دعوت کے ابتدائی سالوں میں جب مختلف قبائل کو اسلام کی دعوت دی تو قبیلہ بنی عامر بن صعصعہ کے سردار کے جواب میں آپ نے فرمایا: ”میری جانشینی خدا سے مربوط ہے اور وہ اس کو جہاں چاہے گا قرار دیدے گا“ ³

اپنی جانشینی سے متعلق پیغمبر اکرمؐ نے اپنی تبلیغ کے دوران جو طریقہ کار اپنایا تھا اور ایک ہی شخصیت پر آپ کی نگاہ مسلسل ٹکی ہوئی تھی اگر ہم اس کو انصاف کے ساتھ دیکھیں نیز اگر ہم علمی برتری، ایثار و فداکاری، لیاقت و شائستگی اور تجربہ کے لحاظ سے اصحاب پیغمبرؐ کے درمیان غور سے

1 آج کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں لہذا تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسندیدہ بنا دیا ہے۔ (سورہ مائدہ، آیت ۳)

2 علامہ امینیؒ، الغدیر فی الکتاب والسنن والادب (بیروت: دار الکتاب العربیہ) ج ۱، ص ۱۱۰۔

3 الامر للہ یضع حیث یشاء۔

دیکھیں اور ان تمام باتوں اور فضیلتوں کو پیغمبرؐ کی جانشینی کا معیار قرار دیں تو ہم اس نتیجہ تک پہنچیں گے کہ حضرت علیؑ ہر لحاظ سے بے مثال اور لاجواب نظر آتے ہیں کیونکہ پیغمبرؐ کھلم کھلا اور علی الاعلان آپ کو اپنی جانشینی کے لئے پیش کرنے پر تاکید فرماتے تھے اور ہر موقع اور مناسبت پر کسی نہ کسی طرح آپ کی برتری، فضیلت اور فضیلت کو لوگوں کے گوش گزار کرتے تھے اور ان تمام فضائل اور کمالات میں پیغمبرؐ کا کوئی صحابی بھی حضرت علیؑ کے ہم پلہ نہیں تھا۔

۲۔ جیسا کہ اس بارے میں اشارہ کیا گیا ہے کہ حدیث غدیر کی شہرت اور تواتر کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا اور علماء اہل سنت کے ایک گروہ نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے۔¹ جیسا کہ علامہ امینی نے الغدیر میں یہ ثابت کیا ہے کہ اس اہم تاریخی واقعہ کو ایک سو دس (۱۱۰) صحابیوں اور ۸۴ تابعیوں نے نقل کیا ہے اور ۳۶۰ علماء و محققین اہل سنت نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا اور ان میں سے کچھ لوگوں نے اس کی سند کی صحت کا بھی اعتراف کیا ہے² اسلامی تاریخ کے اہم واقعات میں سے شاید ہی کوئی واقعہ ہو جس کی شہرت اور سند اتنی محکم اور مستحکم ہو۔

البتہ واقعہ غدیر کو اکثر محدثین نے نقل کیا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ (مختلف اسباب کی بنا پر جو اہل علم اور تحقیق سے پوشیدہ نہیں ہے) مورخین نے اس واقعہ کو ہضم کر لیا ہے صرف مورخین کے درمیان یعقوبی نے اس کو حجة الوداع کے بعد مختصر طور پر ذکر کیا ہے۔³

1 وہ لوگ حضرت علیؑ کی امامت سے متعلق اس کی دلالت کی بارے میں شک و شبہ پیدا کرتے ہیں کہ جس کی وضاحت ہم پیش کریں گے۔ مثلاً ۱۳۔ ش میں ترکی کے شہر استانبول میں شیعہ شاسی سے متعلق ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی تھی جس میں اسلامی ممالک کے علماء اور دانشوروں نے شرکت کی تھی اور اس میں ایک وفد ایران کے برجستہ علماء اور محققین پر مشتمل تھا اسی کانفرنس میں کسی مقرر نے جب حدیث غدیر کا انکار کیا تو سوریہ یونیورسٹی کے مشہور اور معروف دانشمند ڈاکٹر محمد سعید رمضان بونی نے یہ کہا تھا کہ حدیث غدیر پیغمبر اسلامؐ کا ارشاد ہے یہ آپ سے نقل ہوئی ہے اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ یہ شیعوں کے مدعا پر دلالت نہیں کرتی۔۔۔ البتہ اگرچہ اس کے بعد اس جملہ کا جواب بھی ایران کے محقق نے اس طرح سے پیش کر دیا کہ ”یہ شیعہ عقیدہ پر دلالت کرتی ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں: ”منطق شیعہ ہادر کنکرھا و مجامع علمی“ آیۃ اللہ سبحانی، انتشارات مکتب اسلام ط ۱۳۷۶، ص ۲۱، ۲۷۔

2 الغدیر، ج ۱، ص ۱۵۱-۱۳۔

۳ ... و خرج صلى الله عليه وآله وسلم ليلاً منصرفاً الى المدينة فصار الى موضع بالقرب من الحففة يقال له ”غدير خم“ لثمانية عشر ليلة من ذي الحجة و قام خطيباً و أخذ بيد علي بن ابي طالب عليه السلام فقال: أليست اولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: فمن كنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه۔ (ج ۲، ص ۱۰۲) مسعودی نے (مشہور کے خلاف) اس کو حدیثیہ کے سفر سے پلٹتے وقت ذکر کیا ہے، وہ یوں رقمطراز ہے: ... ”و في منصرفه عن الحديبية قل لأمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه بغدير خم: من كنت مولاه فعلى مولاه و ذلك في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة...“ (التنبيه و الاشراف (قاهرة: دار الصاوى للطبع و النشر و التأليف)، ص ۲۲۱)

وہ مروج الذہب میں حضرت علیؑ کے برجستہ فضائل کو شمار کرتے ہوئے حدیث ولایت کو اختصار کے ساتھ یوں نقل کرتے ہیں:

”الاشياء التي استحق بها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفضل هي: السبق الى الايمان، والهجرة، والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والقربى منه، والقناعة بذل النفس له، والعلم بالكتاب و التنزيل، والجهاد في سبيل الله، والورع، والزهد، والقضاء، والحكم، والفقه، والعلم، و كل ذلك لعلي عليه السلام، منه النصيب الاوفر، و الحظ الأكبر، الى ما ينفرد به من قول رسول الله حين آخى بين اصحابه: ”انت أخي“ و هو صلى الله عليه وآله وسلم لاضد له و لاند. و قوله صلوات الله عليه: ”انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي“ و قوله عليه الصلاة والسلام: ”من كنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه...“ (مروج الذہب، (بيروت: دار الاندلس، ط ۱، ۱۹۶۵)، تحقيق: يوسف اسعد داغر، ج ۲، ص ۳۲۵)

اگرچہ تاریخ طبری میں جن کا طریقہ کار ہی یہ ہے کہ وہ ہر واقعہ کی تفصیل اور گہرائی تک جاتے ہیں لیکن توقع کے برخلاف اس واقعہ کو ذکر ہی نہیں کیا، اگرچہ انھوں نے غدیر کے اثبات کے لئے ایک مستقل کتاب ”کتاب الولایۃ“¹ کے نام سے تالیف کی کہ جو آٹھویں صدی ہجری تک موجود تھی اور نجاشی² [متوفی ۵۲۰ھ] اور شیخ طوسی³ [متوفی ۴۶۰-۳۸۵ ہجری قمری] نے اس کتاب کا تذکرہ کیا ہے اور اس کتاب تک اپنی سند کو بھی ذکر کیا ہے۔

ابن کثیر متوفی ۷۴۷ھ نے بھی واقعہ غدیر کو حجۃ الوداع کے بعد ذکر کر کے یہ کہا ہے: ابو جعفر محمد بن جریر طبری مولف تفسیر اور تاریخ نے اس حدیث پر توجہ کی ہے اور اس کی سند اور الفاظ کو دو جلدوں میں جمع کیا۔⁴ اس کے بعد انھوں نے طبری کی کچھ روایات کو حدیث غدیر سے متعلق نقل کیا وہ دوسرے مقام پر لکھتے ہیں: میں نے طبری کی ایک کتاب دیکھی ہے جو دو بڑی جلدوں پر مشتمل تھی اور اس میں انھوں نے حدیث غدیر کو جمع کیا ہے۔⁵

ابن شہر آشوب متوفی ۵۸۸ھ لکھتے ہیں اس (طبری) نے کتاب غدیر خم کو تالیف کی اور اس میں اس واقعہ کی شرح کی اور اس کتاب کا نام ”الولایۃ“ رکھا۔⁶

ابن طاووس بھی راوی حدیث غدیر کو شمار کرتے وقت کہتے ہیں: حدیث غدیر کو محمد بن جریر مولف تاریخ نے ۷۵ سندوں کے ساتھ روایت کیا اور اس بارے میں ایک مستقل کتاب تالیف کی ہے جس کا نام حدیث الولایۃ ہے۔⁷

1 ابن شہر آشوب، معالم العلماء (نجف: المطبعة الحیدریہ، ۱۳۸۰ھ ق)، ص ۱۰۶؛ ابن طاووس، الطرائف فی معرفۃ مذاہب الطوائف (قم: مطبعة الخیام، ۱۴۰۰ھ ق)، یہ بطریق، عمدة عیون صحاح الاخبار، تحقیق: مالک المحمودی و ابراہیم البھادری (قم: ۱۴۱۲ھ ق)، ج ۱، ص ۱۵۷۔ اس کتاب کے دوسرے نام بھی ذکر ہوئے ہیں۔ جیسے: کتاب الفضائل، حدیث الولایۃ اور کتاب غدیر خم، گویا انہیں سے کچھ عنوان ایسے ہیں جو کتاب کے مطالب کے لحاظ سے کتاب شناس لوگوں کے ذریعہ سے رکھے گئے ہیں۔ اور کچھ دوسرے نام شاید کتاب کے ایک خاص حصہ کا ہے جو مستقل طور پر شائع ہوا ہے جیسا کہ بعد کے حاشیہ میں آیا ہے نجاشی نے اس کو ”الرد علی الحر قوسیہ“ کے نام ذکر کیا ہے۔ ”حر قوس بن زہیر“ خوارج کا ایک سردار تھا۔ گویا اس نام گزاری کا مقصد یہ تھا کہ مخالفین ولایت علی کو ناصبی اور خارجی بتائیں۔

2 محمد بن جریر ابو جعفر الطبری عامی لہ کتاب الرد علی الحر قوسیہ ذکر طرق خبر یوم الغدیر اخبارنا القاضی ابواسحاق ابراہیم بن مخلد قال حدثنا ابی قال حدثنا محمد بن جریر بکتابہ ”الرد علی الحر قوسیہ“ (نجاشی، فہرست مصنفی الشیعہ، قم: مکتبۃ الداوری، ص ۲۲۵) ”سید ابن طاووس“ نے بھی کتاب الاقبال، ج ۲، ص ۲۳۹، میں اسی نام سے ذکر کیا ہے۔

3 محمد بن جریر طبری، ابو جعفر صاحب تاریخ، عامی المذہب لہ کتاب غدیر خم و شرح امرہ بصفۃ اخبارنا بہ احمد بن عبدون عن الدوری عن ابن کامل عنہ (طبری، الفہرست، مشہد: مشہد یونیورسٹی ۱۳۵۱ ش، ص ۲۸۱)۔

4 وقد اعتنى بأمر هذا الحديث ابو جعفر محمد بن جریر طبری صاحب التفسیر و التاريخ فجمع فيه مجلدین اورد فیہما طرقہ والفاظہ... (البدایہ والنہایہ، ج ۵، ص ۲۰۸)۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ابن کثیر نے عین حادثہ غدیر کو نقل کرتے وقت اس میں خدشہ ظاہر کیا ہے انشاء اللہ ہم بعد میں اس کے متعلق بحث کریں گے۔

5 و قدرأیت لہ کتاباً فجمع فیہا احادیث غدیر خم فی مجلدين ضخمين۔ (گزشتہ حوالہ، ج ۱۱، ص ۱۴۷، حوادث سال ۳۱۰ کے ضمن میں جو کہ طبری کے مرنے کا سال ہے)۔

6 لہ (طبری) کتاب غدیر خم و شرح امرہ و سماہ کتاب الولایۃ۔ (معالم العلماء، ص ۱۰۶)

7 و قد روی الحدیث فی ذالک محمد بن جریر الطبری صاحب تاریخ من خمس و سبعین طریقاً وافر دہ کتاباً سماہ حدیث الولایۃ۔ (الطرائف، ج ۱، ص ۱۴۲)

یہی بن حسن معروف جو ”ابن بطریق“ کے نام سے معروف ہیں (۶۰ھ - ۵۲۳ھ) تحریر کرتے ہیں: محمد ابن جریر طبری مولف کتاب تاریخ نے روایت غدیر کو ۷۵۰ سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے اور اس بارے میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس کا نام کتاب ”الولایہ“ ہے۔¹

جن محققین اور مورخین کے نام ہم نے ذکر کئے ہیں ان لوگوں نے کتاب الولایہ کا ایک مختصر اور اجمالی خاکہ ہی بیان کیا ہے اور بعض حضرات جیسے ابن کثیر نے اس کی صرف بعض روایات نقل کرنے پر اکتفا کی ہے، قاضی نعمان مغربی مصری (ابو حنیفہ نعمان بن محمد تمیمی متوفی ۳۶۳ھ) وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے طبری کی روایات میں سے ۷۵ روایتیں حضرت علیؑ کے فضائل میں اپنی کتاب ”شرح الاخبار فی فضائل الائمۃ الاطہار“ میں نقل کی ہیں اور اسی طرح انہوں نے طبری کی باتوں کو آئندہ نسلوں کے لئے منتقل کر دیا۔²

وہ کہتے ہیں کہ: ”یہ کتاب بہت ہی دلچسپ کتاب ہے جس میں طبری نے حضرت علیؑ کے فضائل کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔“³

طبری نے اس کتاب کو کس بنا پر تالیف کیا ہے۔⁴ قاضی نعمان اس سبب اور وجہ کو بیان کرنے کے بعد مزید یہ کہتے ہیں کہ طبری نے اس کتاب میں ولایت علیؑ سے متعلق ایک باب مختص کیا ہے اور اس میں پیغمبر اسلامؐ سے مروی صحیح روایات کو ذکر کیا ہے کہ آنحضرتؐ نے خواہ حجۃ الوداع سے پہلے یا حجۃ الوداع کے بعد فرمایا:

”من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله“ اور یہ بھی فرمایا:

على امير المؤمنين ، على اخى ، على وزيرى ، على وصيى ، على خليفتى على امتى من بعدى ، على اولى الناس بالناس من بعدى“

اور اس کے علاوہ دوسری روایتیں بھی ہیں جو حضرت علیؑ کی جانشینی کو ثابت کرتی ہیں اور جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امت کی رہبری اور اس کی قیادت کی باگ ڈور آپ کو ہی ملنا چاہئے تھی اور کسی کو آپ سے آگے بڑھنے کا یا آپ کے اوپر حکومت کرنے کا حق نہیں ہے۔“⁵

1 و قد ذکر محمد بن جریر الطبری، صاحب التاریخ خبر یوم الغدیر و طرقة من خمسة و سبعین طریقاً و افرادہ کتاباً باسماء کتاب الولایہ۔ (عمدة عیون صحاح الاخبار، ج ۱، ص ۱۵۷)

2 یہ کتاب ۱۴۱۴ھ ق، میں مؤسسہ نشر اسلامی در قم، کے توسط سے تین جلدوں میں طبع ہو چکی ہے اور پہلی جلد میں صفحہ ۱۳۰ کے بعد طبری کی روایات نقل ہوئی ہیں۔

3 و ہو کتاب لطیف بسط فی ذکر فضائل علی علیہ السلام (گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۱۳۰)

4 گزشتہ حوالہ، ج ۱، ص ۳۱۰؛ ان کے کتاب تالیف کرنے کا سبب یہ تھا کہ انھیں اطلاع ملی کہ علمائے بغداد میں سے ایک نے حدیث غدیر کا انکار کیا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت علیؑ حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر رسول خداؐ کے ساتھ نہیں تھے بلکہ یمن میں تھے، طبری کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا اور انھوں نے اس کی رد میں کتاب الولایہ تحریر کی اور اس میں حدیث غدیر کو مختلف سندوں کے ساتھ ذکر کر کے اس کی صحت کو ثابت کیا۔ حافظ ابن عساکر اور شمس الدین محمد ذہبی کے بقول مذکورہ شخص ابو بکر ابو داؤد [سلیمان بن اشعث] سبستانی مؤلف [سنن] تھا۔ اور یہ حضرت علیؑ کے بغض و دشمنی میں مشہور تھا۔ (تاریخ مدینہ دمشق، ج ۲، ص ۸۷؛ میزان الاعتدال، ج ۲، ص ۴۳۴؛ تاریخ بغداد، ج ۹، ص ۴۶۸-۴۶۷)۔

5 شرح الاخبار، ج ۱، ص ۱۳۵-۱۳۴۔ اسی طرح کتاب الولایہ کے متعلق مزید معلومات کے لئے رجوع کریں: پارہ ہای۔ بر جای ماندہ کتاب فضائل علی بن ابی طالب، رسول جعفریان، فصلنامہ میقات حج، شمارہ ۳۴۔

۳۔ اس بارے میں جو لائق ذکر شبہ ایجاد کیا گیا ہے وہ بعض علمائے اہل سنت جیسے فخر رازی اور قاضی عضد الدین کی طرف سے اس کے مفاد میں شک و شبہ پیدا کرنا ہے۔ انھوں نے اصل واقعہ کو تو قبول کیا ہے لیکن رسول خداؐ نے خطبہ غدیر میں حضرت علیؑ کے بارے میں جو کلمہ مولیٰ استعمال کیا ہے اور اس سے ولایت الہیہ اور امامت کے معنی سمجھ میں آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ کلمہ مولیٰ، دوست اور ناصر وغیرہ کے معنی میں ہے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت علیؑ کی ولایت اور خلافت پر دلالت نہیں کرتا ہے بلکہ پیغمبر اکرمؐ نے اس خطبہ میں حضرت علیؑ کی دوستی اور محبت کا حکم دیا تھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ مفعّل (مولیٰ) لغت میں افعّل (اولیٰ) کے معنی میں نہیں آیا ہے اس بنا پر پیغمبر اکرمؐ کے اس خطبہ میں لفظ مولیٰ کے معنی دوست کے ہیں۔¹

علامہ امینیؒ نے اپنی بہت ہی علمی، تحقیق اور جستجو کے بعد قرآنی، حدیثی، لغوی اور دوسرے شواہد ذکر کرنے کے بعد ادیبوں اور بڑے بڑے لغت شناس کے کلام سے استشاد کرنے کے بعد اس دعویٰ کی بے مائیگی اور کمزوری کو ثابت کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان تینوں مقامات پر لفظ مولیٰ، اولیٰ کے معنی میں شائع اور رائج تھا۔ نمونہ کے طور پر مندرجہ ذیل آیتوں میں سیاق و سباق کا لحاظ رکھتے ہوئے لفظ مولیٰ کے معنی ولی یا متولی امر یا صاحب اختیار کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتے۔

آیہ: (فالیوم لایؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا مأویکم النار ہی مولیکم و لبس المصیر)²

واعتصموا باللہ ہو مولیکم فنعم المولیٰ و نعم النصیر۔³ ذلک بأن اللہ مولیٰ الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولیٰ لہم۔⁴ بل اللہ مولیکم و ہو خیر النصیرین۔⁵ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہو مولینا۔⁶

یدعوا لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبس المولیٰ و لبس العشر۔⁷

مفسرین نے ان آیات میں ”مولیٰ“ کے معنی کی تفسیر اور اس کے معنی ”اولیٰ“ ہی ذکر کئے ہیں۔

حدیث میں یہ بھی آیا ہے ”ایما امرأۃ نکحت بغير اذن مولاه فنکاحها باطل“⁸

(جو عورت اپنے مولیٰ کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو اس کا نکاح باطل ہے) محدثین اور فقہاء نے اس حدیث میں مولیٰ کے معنی بھی عورت کا ولی اور سرپرست بیان کئے ہیں۔

1 الغدير، ج ۱، ص ۳۵۰، ۳۵۳ و ۳۵۶۔

2 سورۃ حدید، آیت ۱۵۔

3 سورۃ حج، آیت ۸۔

4 سورۃ محمد، آیت ۱۱۔

5 سورۃ آل عمران، آیت ۱۵۰۔

6 سورۃ توبہ، آیت ۵۱۔

7 سورۃ حج، آیت ۱۳۔

8 ابو جعفر محمد بن الحسن طوسی، الاقتصاد البہادی الی طریق الرشاد (تہران: مکتبہ جامع چہل ستون، ۱۴۰۰ھ-ق)، ص ۲۱۷۔ منہ احمد کے نقل کے مطابق، ج ۶، ص ۴۴؛ یہ بطریق عمدۃ عیون صحاح الاخبار، ج ۱، ص ۱۵۹؛ ابن حزم، ابو محمد علی بن احمد، المحلی، تحقیق: احمد محمد شاہر، (بیروت: دارالآفاق الحدیث)، ج ۹، ص ۴۷۷، مسأله ۱۸۳۸۔

علامہ امینی نے ”لفظ مولا“ کے ستائشیں احتمالی معنی گنوائے ہیں اور یہ ثابت کیا ہے کہ بروز غدیر خطبہ پیغمبرؐ میں ان معانی میں سے بعض معنی کا مراد لینا مستلزم کذب ہے اور بعض کا ارادہ کرنا مستلزم کفر ہے، بعض دوسرے معنی کا مراد لینا ناممکن اور بعض کا مراد لینا لغو اور بے فائدہ، یا بالکل ہلکا اور سبک، لہذا صرف اور صرف ”اولیٰ بالشیء“ ہی مراد لیا جاسکتا ہے۔¹

اس کے بعد علامہ امینیؒ نے ان چودہ جید علماء اور محدثین اہل سنت کی گفتگو کو بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے ”خطبہ غدیر“ میں لفظ مولیٰ سے اولیٰ بالشیء کے معنی مراد لیے ہیں جن میں شمس الدین ابوالمظفر سبط ابن جوزی حنفی (۶۵۴-۵۱۱ ہجری قمری) بھی ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں :

”اہل سیرت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ واقعہ غدیر حجۃ الوداع سے پینچمبر کی واپسی کے موقع پر ۱۸ ذی الحجہ کو اصحاب کی کثیر تعداد اور ایک کثیر مجمع کے درمیان جنگی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار تھی پیش آیا اور رسول خداؐ نے فرمایا: ”جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں“

اس کے بعد انھوں نے لفظ مولا کے دس احتمالی معنی ذکر کئے اور پھر اس کے نو معنی میں رد و قدح کرنے کے بعد صرف دسویں معنی یعنی وہی اولیٰ بالتصرف کے معنی کی تصدیق کی ہے اور اس کے لئے سورہ حدید کی ۱۵ویں آیت کو شاہد اور دلیل کے طور پر پیش کیا ہے اور تعبیر مولیٰ کو، حضرت علیؑ کی امامت اور آپ کی اطاعت کو قبول کرنے کے بارے میں صریح اور واضح نص قرار دیا ہے۔²

اس کے بعد اس زمانے کے کچھ شعراء کے اشعار منجملہ حسان بن ثابت (جو خود واقعہ غدیر میں موجود تھے) کے اشعار نقل کئے ہیں کہ انھوں نے کلمہ مولیٰ سے لفظ ”امام“ سمجھا ہے اور اس کو اپنے اشعار میں نظم بھی کیا ہے۔

شواہد اور قرائن

خطبہ کے اندر اور اس سے الگ ایسے متعدد شواہد و قرائن بھی موجود ہیں جن سے معنی مذکور کی تائید ہوتی ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسئلہ حضرت علیؑ کی دوستی اور محبت کے اعلان سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے جن میں سے کچھ مندرجہ ذیل ہیں :

الف: ایک لاکھ حاجیوں کو اس چلچلاتی دھوپ میں، صرف حضرت علیؑ کی دوستی اور محبت کے اعلان کے لئے رکنے کا حکم دینا کوئی معقول بات نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں کی برادری اور بھائی چارگی اور آپسی محبت کوئی ایسے ڈھکی چھپی بات نہیں تھی جو مسلمانوں سے پوشیدہ ہو اور اس کے لئے پیغمبرؐ کو اعلان کی ضرورت پیش آئے خاص طور سے حضرت علیؑ کی شخصیت سے دوستی اور محبت، کس سے پوشیدہ رہ سکتی ہے۔

ب: خطبے کا مقدمہ جو پیغمبر کی رحلت کے قریب ہونے کے بارے میں ایک طرح کی پیشین گوئی ہے آنحضرت کی جانشینی سے ارتباط اور مناسبت رکھتا ہے نہ کہ حضرت علی کی دوستی سے۔

1 الغدير، ج ١، ص ٣٤٠-٣٦٤.

2- فتعين الوجه العاشر وهو "الاولى" ومعناه من كنت اولى به من نفسه فعلى اولى به--- فعلم ان جميع المعانى راجعة الى الوجه العاشر ودل عليه ايضاً قوله صلى الله عليه وآله وسلم، الست اولى بالمؤمنين من أنفسهم- و بهذا نص صريح في اثبات امامته وقبول طاعته--- (تذكرة الخواصر، (نحف: المكتبة الحيدرية، ١٣٨٣هـ-ق) ص٣٣-٣٠-

ج: پیغمبر اسلام نے پہلے اپنے بارے میں ”اولی بالنفس“ کی تعبیر استعمال کی اس کے بعد حضرت علیؑ کو دوسروں سے اولی ہونے کے طور پر پہنچوایا یہ مقارنت واضح اور روشن دلیل ہے کہ آنحضرتؐ، حضرت علیؑ کے لئے اسی مقام ولایت امر مسلمین کو ثابت کر رہے تھے جس منصب پر آپ خود فائز تھے¹۔

د: خطبہ پیغمبرؐ کے بعد مسلمانوں کا حضرت علیؑ کو ”مولائے مومنین“ کے عنوان سے مبارکباد پیش کرنا یہ صرف امامت سے مناسبت رکھتا ہے۔ خداوند عالم کی طرف سے دین کے اکمال اور نعمت کے اتمام کا اعلان دوستی کے موضوع اور عنوان سے کسی طرح میل نہیں کھاتا ہے۔

و: حسان بن ثابت شاعر رسول خداؐ اور اس زمانہ میں عرب کا مشہور شاعر اور ادیب جو خود واقعہ غدیر میں موجود تھا اس نے پیغمبر اسلامؐ کی اجازت سے پیغمبرؐ کے خطبہ کو نظم میں پیش کیا اور اس میں کلمہ مولیٰ کو ”امام“ اور ”ہادی“ کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ ایک شعر:

و قال له قم يا علي فاني رضيتك من بعدي اماماً و بادياً

امیر المومنینؑ نے معاویہ کو جو اشعار لکھ کر بھیجے تھے، اس میں اس طرح لکھا ہے:

واوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدیر خم²

۴۔ ابن کثیر نے واقعہ غدیر کو حضرت علیؑ کے سفر یمن سے مربوط قرار دیا ہے جو حجۃ الوداع سے پہلے پیش آیا تھا اور اس میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ چونکہ اس سفر میں حضرت علیؑ نے اپنے ہم سفر ساتھیوں کے مال غنیمت میں بے جا اور غیر شرعی استعمال کی (قبل اس کے کہ اس کو رسول اسلامؐ کی خدمت میں پیش کرتے) مخالفت کی تھی اور آپ کے ساتھی آپ کی اس عدالت پر رنجیدہ ہوئے تھے۔³ اسی بنا پر پیغمبر اسلامؐ نے غدیر

1 احمد بن حنبل نے اپنی مسند جلد ۱ ص ۱۱۹ پر اور ابن اثیر نے اسد الغابہ ج ۴ ص ۲۸۸ پر ایک روایت نقل کی ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا:

”الست اولى من المومنين من انفسهم وازواجی وامناتهم“

کیا میں مومنین پر ان کی جانوں کی بہ نسبت اولی بالتصرف اور مقدم نہیں ہوں اور کیا میری بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں۔ یہ بالکل واضح اور طے شدہ بات ہے کہ آنحضرتؐ کی بیویوں کا مسلمانوں کی ماں ہونا، سورہ احزاب کی چھٹی آیت کے مطابق صرف حضرت سیمخوص ہے جو آپ کے منصب سے مناسبت رکھتا اور اس مقام پر اس کو مسلمانوں کی جان و مال پر اولویت کے ساتھ ذکر کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ پیغمبرؐ اپنے عہدہ نبوت کو پہنچوانا چاہتے تھے اور پھر اسی کے مثل یعنی حضرت علیؑ کی ولایت اور خلافت کا اعلان کرنا مقصود تھا۔ واضح رہے کہ ابن کثیر کہ جس کا ایک خاص نظریہ اور عقیدہ ہے اور اس نے مذکورہ حدیث کو نقل کرنے کے بعد کسی وضاحت اور دلیل کے بغیر اس روایت کو ضعیف اور غریب کہا ہے۔ البدایہ والنہایہ ج ۵ ص ۲۱۱۔

جبکہ اس کے پہلے راوی یعنی عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ علماء اہل سنت کے مطابق موثق ہیں اور یہ روایت دوسری سندوں سے بھی نقل ہوئی ہے۔ رجوع فرمائیں:

الغدیر ج ۱ ص ۱۷۸-۱۷۷۔

2 مکمل طور سے ان قرآن اور شواہد کے بارے میں آگاہی کے لئے رجوع کریں: الغدیر ج ۱ ص ۳۸۵-۳۷۰؛ پیشوائی از نظر اسلام، جعفر سبحانی، ص ۲۳۸-۲۳۴۔

3 اس واقعہ کی مزید معلومات کے لئے رجوع کریں: واقدی، مغازی ج ۳ ص ۱۰۸۱؛ البدایہ والنہایہ ج ۵ ص ۲۰۹-۲۰۸۔

خم میں حضرت علیؑ کی فضیلت اور امانتداری اور عدالت کو بیان کیا اور آپ کے نزدیک جو قرب و منزلت ان کو حاصل تھی اس کو بیان کیا۔ اور بہت سارے لوگوں کے دلوں میں جو آپ کے متین کینہ و کدورت اور حسد تھا اسے ختم کیا۔¹

یہ تاویل اور توجیہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یمن کے سفر سے متعلق پیغمبر اسلامؐ نے پہلی ملاقات میں حضرت علیؑ کے ہم سفر ساتھیوں کا جواب مکے میں (حج سے پہلے) دیدیا تھا۔ اور فرمایا تھا: لوگ علیؑ کی شکایت نہ کریں۔ خدا کی قسم وہ حکم الہی کے نافذ کرنے میں بہت سخت اور بے خوف ہیں۔²

رسول خداؐ کے اس صریحی بیان سے مسئلہ ان لوگوں کے لئے تمام ہو گیا جو آنحضرتؐ سے کچھ سننا چاہتے تھے اور پھر کوئی بات نہیں رہ جاتی کہ تین سو (۳۰۰) افراد³ کے لئے جو رنجش حضرت علیؑ سے پیدا ہو گئی تھی اور اس کو آپ نے بھی دور کر دیا تھا۔ دوبارہ اس کو پیغمبر اسلامؐ ایک لاکھ کے مجمع میں بیان فرماتے۔

۵۔ اگر حضرت محمدؐ نے حضرت علیؑ کو غدیر میں امام بنایا ہوتا تو اصحاب آپ کے بعد آپ کے اس حکم کی مخالفت نہ کرتے اور آپ کی صریحی تاکید اور وصیت سے منہ نہ موڑتے کیونکہ آپ کے اصحاب صالح اور باایمان لوگ تھے۔ جنہوں نے راہ اسلام میں اپنی جان اور مال کے ذریعے کامیاب امتحان دیا تھا لہذا یہ بہت ہی بعید بات ہے کہ اتنا عظیم واقعہ پیش آئے اور وہ لوگ اس کی مخالفت کر بیٹھیں خاص طور سے جبکہ آنحضرتؐ کی رحلت اور غدیر کے درمیان میں تقریباً ستر (۷۰) دنوں کا مختصر سا فاصلہ پایا جاتا ہے لہذا یہ بہت بعید ہے کہ اتنی جلدی لوگ ایسے واقعہ کو فراموش کر دیں۔

اس سوال کے جواب کے لئے اگر ہم رسول خداؐ کے دور کے حادثات اور واقعات پر ایک سرسری نگاہ ڈالیں تو اگرچہ اصحاب کے روحانی مراتب اور درجات مجموعی طور سے اپنی جگہ پر مسلم ہیں مگر پھر بھی پیغمبر اکرمؐ کے فرمان سے سرپیچی کرنا ان لوگوں کے درمیان کوئی نئی بات نہیں تھی کیونکہ اس دور میں بھی کچھ مسلمانوں کا ایمان ایسا ناچستہ تھا کہ وہ لوگ خدا و پیغمبرؐ کے احکام کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خم نہیں کرتے تھے خاص طور پر جب پیغمبرؐ کا حکم ان کے ذاتی مفادات، قبیلہ کے رسم و رواج اور ان کے سیاسی افکار سے میل نہیں کھاتا تھا تو پھر وہ لوگ ایک طرح سے اپنی رائے اور اجتہاد کے ذریعہ یہ کوشش کرتے تھے کہ پیغمبرؐ کی رائے کو تبدیل کر دیں ورنہ خود ہی اس پر عمل پیرا ہونے میں کوتاہی کرتے تھے اور بسا اوقات آپ کے اوپر اعتراض بھی کرتے تھے۔ اس طرح کے حادثات اور مخالفتوں کے نمونے، جیسے صلح حدیبیہ میں صلح نامہ لکھتے وقت، حجۃ الوداع میں احرام سے خارج ہونے کا مسئلہ، لشکر اسامہ کی روانگی اور حیات پیغمبرؐ کے آخری ایام میں قلم و دوات جیسے

1۔۔۔ فبین فیہا فضل علی بن ابی طالب و براءۃ عرضہ ماکان تکلم فیہ بعض من کان معہ بأرض الیمن، بسبب ماکان صدر منہ الیہم من المعدلۃ الی ظنہا بعضہم جوراً و تضییقاً و بخلًا، و الصواب کان معہ۔۔۔ و ذکر من فضل علی و امانتہ و عدلہ و قربہ الیہ ما ازاح بہ ماکان فی نفوس کثیر من الناس منہ۔۔۔ (البدایہ والنہایہ، ج ۵، ص ۲۰۸)۔

2 یا ایہا الناس لا تشکوا علیاً فواللہ انہ لا یحسن فی ذات اللہ او فی سبیل اللہ [من ان یشی]۔ (تاریخ الامم والملوک، ج ۳، ص ۱۶۸)؛ (نہایۃ الارب فی فنون الادب، ترجمہ: محمود مہدوی دامغانی، ج ۲، ص ۳۲۹؛ الدایۃ والنہایہ، ج ۵، ص ۲۰۹؛ رجوع کریں: ترجمۃ الامام علیؑ من تاریخ مدینہ دمشق، تالیف: حافظ ابن عساکر، تحقیق: الشیخ محمد باقر المحمودی (پیرتوت: دار التعارف للطبوعات، ۱۳۹۵ھ-ق) ج ۱، ص ۳۸۶)۔

3 مورخین اور سیرت نگاروں نے یمن کی ماموریت میں حضرت علیؑ کی سپہ سالاری کے ماتحت سپاہیوں کی تعداد تین سو (۳۰۰) افراد لکھی ہے۔ رجوع کریں: وادعی، مغازی، ج ۳، ص ۱۰۹؛ طبقات الکبری، ج ۲، ص ۱۶۹)۔

مشہور واقعات بھی تاریخ میں ثبت ہیں ایسے تمام واقعات کو علامہ سید شرف الدینؒ نے اپنی گراں قدر کتاب ”النص والاجتهاد“ میں ذکر فرمایا ہے۔

اس کے علاوہ قرآن مجید کی متعدد آیات، پیغمبر اکرمؐ کے حکم کی پیروی کے واجب و لازم ہونے کے اوپر تاکید کرتی ہیں اور اس کو ایمان کا جز قرار دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اس خطرہ کی طرف متوجہ بھی کیا ہے کہ حکم پیغمبرؐ سے سرپیچی یا آپ کے اوپر سبقت نہ کریں اور یہ امید نہ رکھیں کہ پیغمبرؐ ان کی اطاعت کریں گے۔ مندرجہ ذیل آیات سے یہ صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اس زمانہ میں بھی پیغمبرؐ کی مخالفت ہوتی رہتی تھی جیسا کہ ارشاد ہے:

(فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم)^۱

”جو لوگ حکم خدا کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس امر سے ڈریں کہ ان تک کوئی فتنہ پہنچ جائے یا کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے“

(ياايها آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله و اتقوا الله ان الله سميع عليم)^۲

”ایمان والو! خبردار خدا اور رسول کے سامنے اپنی بات کو آگے نہ بڑھاؤ اور اللہ سے ڈرو بیشک اللہ ہر بات کا سننے والا اور جاننے والا ہے“

(واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم)^۳

”اور یاد رکھو کہ تمہارے درمیان خدا کا رسول موجود ہے یہ اگر بہت سی باتوں میں تمہاری بات مان لیتا تو تم زحمت میں پڑ جاتے“

(وما كان لمومن ولا مومنة اذا قضى الله ورسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً بعيداً)^۴

”اور کسی مومن مرد یا عورت کو اختیار نہیں ہے کہ جب خدا اور رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں (یا کوئی حکم دیں) تو وہ بھی اپنے امر کے بارے میں صاحب اختیار بن جائے اور جو بھی خدا اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے“

(وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً)^۵

”اور ہم نے کسی رسول کو بھی نہیں بھیجا ہے مگر صرف اس لئے کہ حکم خدا سے اس کی اطاعت کی جائے پس آپ کے پروردگار کی قسم کہ یہ ہرگز صاحب ایمان نہ بن سکیں گے جب تک آپ کو اپنے اختلافات میں حکم نہ بنائیں۔ اور پھر جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی کا احساس نہ کریں اور آپ کے فیصلہ کے سامنے سراپا تسلیم ہو جائیں“

1 سورہ نور، آیت ۶۳۔

2 سورہ حجرات، آیت ۱۔

3 سورہ حجرات، آیت ۷۔

4 سورہ احزاب، آیت ۳۶۔

5 سورہ نساء، آیت ۶۵۔ ۶۴۔

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَاتَّمِ تَسْمَعُونَ)^۱

”ایمان والو! اللہ ورسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو جب کہ تم سن بھی رہے ہو“

ان تمام باتوں کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگرچہ پیغمبر اسلام نے بے پناہ محنت و مشقت اور زحمات اٹھا کر قبیلہ یا قوم پرستی کے نظام اور اس کے خطرناک اثرات جیسے قبیلہ جاتی تعصب، ایک دوسرے سے رقابت، یا قبیلوں کے درمیان میں رقابتیں جو خود دور جاہلیت کے لوگوں کے لئے ایک درد سر تھا، ان سب کو ختم کر دیا تھا، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تمام رسم و رواج بعض مسلمانوں کے اندر اسی طرح چھپے ہوئے تھے جس طرح سے راکھ کے نیچے آگ دبی ہوتی ہے اور اسی لئے مختلف اوقات میں وہ ابھر کے سامنے آ جاتے تھے۔

جیسا کہ پیغمبر کی رحلت کے فوراً بعد اس اور خزر ج دونوں قبیلہ والوں نے اپنے پرانے قبیلہ جاتی نظام کو زندہ کر دیا اور دونوں طرف سے یہ آوازیں بلند ہو گئیں ”نحن الامراء وانتم الوزراء و منامیر و منکم امیر“ ہم لوگ حاکم اور امیر ہیں اور تم لوگ وزیر ہو یا ایک امیر اور حاکم ہمارے درمیان سے ہو جائے اور ایک امیر و حاکم تمہارے درمیان سے ہو جائے۔^۲

جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ”میں اور ہم“ کی حدوں کو قبیلوں کی سرحدوں سے اٹھا دیا گیا تھا اور سب کے سب ایک ”ہم“ کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ایمانی بھائی تھے جیسا کہ ارشاد ہے ”انما المؤمنون اخوة“

اس بنا پر یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ چاہے کتنی ہی خوش فہمی اور حسن ظن کیا جائے پھر بھی قریش کے بعض سیاسی لوگ مکہ کے زمانہ کی طرح بنی ہاشم سے رقابت کا احساس رکھتے تھے اور اس طرح کے معیاروں کی بنا پر انھیں ایک ہاشمی کی خلافت قبول نہیں تھی۔
۶۔ سورہ مائدہ کی تیسری اور ۶۷ ویں آیت کی شان نزول کے بارے میں کتب تفسیر و حدیث میں دوسرے اور بھی احتمالات ذکر کئے گئے ہیں لیکن ان کی اسناد اور دوسرے فراوان شواہد اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ دو آیتیں غدیر خم میں نازل ہوئیں ہیں۔^۳

ان دونوں آیتوں کا مضمون بھی گواہ ہے کہ ان دونوں آیتوں کا تعلق پیغمبر کے بعد امت کی رہبری اور امامت جیسے اہم کام سے ہے اور وہ دوسرے واقعات جنہیں بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے ان سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے مثلاً تیسری آیت میں مندرجہ ذیل جن چار باتوں کی تاکید کی گئی ہے اور اس میں ان پر نکلیہ کیا گیا ہے یہ صرف امامت ہی سے مناسبت رکھتی ہیں۔

الف: کفار کی مایوسی کیونکہ وہ لوگ یہ تصور کرتے تھے کہ اسلام صرف اور صرف پیغمبر کی ذات اور آپ کی زندگی تک باقی ہے اور آپ کی وفات کے بعد اسلام کی بساط خود بخود الٹ جائے گی لیکن حضرت علیؑ جیسی ایک مضبوط ہمتی، عادل اور برجستہ شخصیت کی جانشینی کے اعلان کے بعد یہ طے ہو گیا کہ اسلام باقی رہے گا لہذا وہ لوگ اس سے مایوس ہو گئے۔

ب: تکمیل اسلام، کیونکہ پیغمبر کا جانشین معین ہوئے بغیر اور امت کی رہبری کا سلسلہ جاری رہے بغیر یہ دین و مذہب منزل تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔

1 سورہ انفال، آیت ۲۰۔

2 ابن قتیبہ دینوری، الامامۃ والسیاسة (قم: منشورات الشريف الرضي)، ص ۲۵-۲۴۔

3 اس مضمون سے مزید آگاہی کے لئے رجوع کریں: الغدير، ج ۱، ص ۲۴-۲۱۴۔

ج: تکمیل رہبری کے تسلسل کے ساتھ، ہدایت کی نعمت کا اتمام۔

د: خداوند عالم کی طرف سے اسلام کی تکمیل کے اعلان کے علاوہ اس کو آخری مذہب اور دین قرار دیا جانا۔¹

لشکر اسامہ

پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ۸ھ میں جنگ موتہ میں اسلامی فوج کے ایک سپہ سالار جناب زید بن حارثہ بھی تھے اور اس میں مسلمانوں کو رو میوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس لشکر کے تینوں سردار سمیت بعض دوسرے اسلامی سپاہیوں نے بھی جام شہادت نوش کیا تھا۔ ۹ھ میں بھی رسول خدا نے سر زمین تبوک تک اسلامی فوج کے ساتھ پیش قدمی کی تھی لیکن وہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی اور آپ کا یہ اقدام ایک قدر تمند فوجی مشق کی حد تک ہی رہ گیا اسی لئے گزشتہ واقعات کی بنا پر شہنشاہ روم کی دشمنی اور اس کی فوجی قدرت و طاقت آپ کے لئے ہمیشہ ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی اور آپ مسلسل رو میوں سے ٹکراؤ اور جنگ کے بارے میں متفکر رہتے تھے اسی بنا پر جب آپ حجۃ الوداع سے لوٹ کر مدینہ واپس آئے تو آپ نے زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ کی سپہ سالاری میں ایک لشکر منظم کیا اور ایک فوج بنائی اور ان کو یہ حکم دیا کہ سر زمین ”ابئی“² جو ان کے والد کی شہادت کی جگہ ہے وہاں تک پیش قدمی کریں اور رو میوں سے جنگ کریں۔

رسول خداؐ نے فوج کی سربراہی کا پرچم اسامہ³ کے حوالے کیا اور ان کو فوجی اور نظامی احکامات کے متعلق نصیحتیں بھی کیں، انھوں نے مقام جُرف⁴ کو اپنی فوج کے قیام کے لئے منتخب کیا تاکہ باقی فوج بھی وہاں آکر جمع ہو جائے۔⁵

اس فوج میں انصار و مہاجرین کے کچھ شناختہ اور مشہور و معروف افراد جیسے ابو بکر، عمر، ابو عبیدہ جراح، سعد بن ابی وقاص،⁶ عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، اسید بن حضیر، بشیر بن سعد⁷ (ابوالاعور) سعید بن زید،⁸ قتادہ بن نعمان اور سلمہ بن اسلم⁹ بھی موجود تھے۔

1 اس سلسلہ میں مزید آگاہی کے لئے اور سورۃ مائدہ کی ان دو آیتوں کے درمیان ایک آیت کے فاصلہ کے بارے میں اور یہ کہ ”یہ تیسری آیت حرام گوشت کے احکام سے متعلق ہے اور یہ ولایت کے مسئلہ سے مناسبت نہیں رکھتی ان تمام چیزوں کے بارے میں رجوع کریں تفسیر نمونہ“ ج ۴، ص ۲۷۱-۲۶۳۔
2 ابئی، دنیا کے وزن پر ہے۔ سر زمین شام کا ایک علاقہ ہے جو عسقلان اور رملہ کے درمیان، موتہ سے نزدیک ہے۔ (حلبی، السیرۃ الحللبیہ (بیروت: دار المعرفہ) ج ۳، ص ۲۷۷)۔

3 اسامہ کا سن اس وقت ۱۷ یا ۱۸ سال لکھا ہے اور کسی تاریخ میں بھی ان کا سن ۲۰ سال سے زیادہ نہیں لکھا گیا ہے۔

4 شام کی جانب مدینہ سے تین میل کے فاصلہ پر ایک جگہ ہے۔

5 ابن سعد، طبقات الکبریٰ، (بیروت: دار صادر) ج ۲، ص ۱۹۰؛ شیخ عبد القادر بدران، تہذیب تاریخ دمشق، تالیف حافظ ابن عساکر (بیروت: دار احیاء التراث العربی) ۱۷۰ھ-ق) ج ۱، ص ۱۲۱؛ زبیری دحلان، السیرۃ النبویہ والآثار المحمدیہ، ج ۲، ص ۱۳۸؛ حلبی، غزشتہ حوالہ، ص ۲۷۷۔

6 ابن سعد، غزشتہ حوالہ، ص ۱۹۰؛ حلبی، السیرۃ الحللبیہ، (بیروت: دار المعرفہ) ج ۳، ص ۲۷۷؛ زبیری دحلان، السیرۃ النبویہ والآثار المحمدیہ، ج ۲، ص ۱۳۸۔

7 ابن ابی الحدید، شرح نہج البلاغہ، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراہیم، دار الکتب العربیہ، ج ۶، ص ۵۲؛ سقیفہ ابو بکر احمد بن عبد العزیز جوہری کے نقل کے مطابق۔

8 ابن سعد، غزشتہ حوالہ، ص ۱۹۰؛ شیخ عبد القادر بدران، تہذیب تاریخ دمشق، تالیف حافظ ابن عساکر، (بیروت: دار احیاء التراث العربی) ۱۷۰ھ-ق) ج ۱، ص ۱۲۱۔

9 ابن سعد، غزشتہ حوالہ، ص ۱۹۰؛ تقی الدین احمد بن علی مقریزی، امتاع الاسماع، تحقیق: محمد عبد الحمید النمیسی (بیروت: دار الکتب العلمیہ، ط ۱، ۱۴۲۰ھ-ق) ج ۲، ص ۱۲۴؛ تہذیب تاریخ دمشق، ج ۱، ص ۱۲۱۔

پیغمبر اکرمؐ نے جب اسامہ کی فوج کو حرکت کرنے کا حکم دیا تھا اس وقت تک آپ بالکل صحت مند اور تندرست تھے لیکن اگلے ہی دن آپ کو بخار عارض ہوا اور بالآخر یہی آپ کے مرض الموت میں تبدیل ہو گیا۔ بستر بیماری پر رسول خداؐ کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ لوگ اسامہ کی کم عمری کی بنا پر ان کی سپہ سالاری پر معترض ہیں اسی لئے ابھی اسامہ کی فوج مدینہ سے حرکت نہیں کر پائی ہے۔ رسول خداؐ اسی بیماری کی حالت میں اور رنج و الم کے ساتھ مسجد میں تشریف لے گئے اور ایک خطبہ میں لوگوں کو اسامہ کی فوج کے ساتھ تعاون اور ان کے ساتھ روانہ ہونے کی ترغیب دلائی اور فرمایا :

ایہا الناس! اے لوگو! یہ کیا باتیں ہیں جو میں نے اسامہ کی سپہ سالاری کے بارے میں بعض لوگوں سے سنی ہیں؟ آج تم اسامہ کی سپہ سالاری کے بارے میں گلہ مند ہو اور اس سے پہلے ان کے والد کی سپہ سالاری کے بارے میں بھی تمہیں گلہ تھا جب کہ خدا کی قسم زیدؓ سپہ سالاری کے لائق تھے اور ان کا بیٹا بھی ان کے بعد اس منصب کے لائق اور اس کا سر اوار ہے۔ الخ۔¹

رسول خداؐ کی زندگی کے آخری ایام میں آپ کی صحت بہت ہی زیادہ ڈھل گئی اور آپ پر مسلسل غش طاری ہو رہا تھا جب ایک بار آپ کو بے ہوشی سے افاقہ ہوا تو آپ نے لشکر اسامہ کے بارے میں پوچھا، تو لوگوں نے کہا کہ روانگی کے لئے تیار ہو رہا ہے۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ :

”اسامہ کی فوج کو روانہ کرو خدا ان لوگوں پر لعنت کرے“² جو اسامہ کے لشکر کے ساتھ نہ جائیں، پیغمبرؐ کی ان تمام تاکیدوں کے بعد چودہ روز تک جن میں آپ مریض رہے³ مختلف لوگوں کے متعدد بہانوں کی وجہ سے اسامہ کی فوج کی روانگی اسی طرح تعطل کا شکار رہی اور اس فوج نے حرکت نہیں کی یہاں تک کہ پیغمبرؐ کی رحلت ہو گئی، جیسا کہ ہم نے غدير خم کے واقعہ کے ذیل میں وضاحت کی تھی کہ یہ واقعہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ بعض مسلمان پیغمبرؐ کے صریح احکام اور فرامین سے سرپیچی کے مرتکب ہوئے ہیں۔

پیغمبرؐ کا اعلیٰ مقصد

اسامہ کی فوج کو روانہ کرنے کے لئے پیغمبرؐ کی مسلسل کوششوں اور محنتوں کے اندر بعض اہم نکات اور موضوعات پائے جاتے ہیں جن کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے۔

1 ابن سعد مغازی حوالہ، مقررہ مغازی حوالہ، ج ۲، ص ۱۲۴: زینی دحلان مغازی حوالہ، شیخ عبدالقادر بدران مغازی حوالہ، حلبی مغازی حوالہ، ص ۲۲۸۔ بخاری اور مسلم میں رسول خداؐ کا فرمان اس طرح سے نقل ہوا ہے :

”ان تطعنوا فی امارتہ فقد کنتم تطعنون فی امارۃ ابیہ من قبل و ایم اللہ ان کان لخلیقہا للامارۃ وان کان لمن احب الناس الی و ان ہذا لمن احب الناس الی بعد“۔ (صحیح بخاری، تحقیق: شیخ قاسم الشمعی الرفاعی، (بیروت: دار القلم، ۱۴۰۷ھ)، ج ۶، ص ۳۲۶؛ المغازی، باب ۲۰۳، حدیث ۹؛ صحیح مسلم، بشرح النووی، (قم: دار الفکر، ۱۴۰۱ھ)، ج ۱۵، فضائل الصحابة، ص ۱۹۵)۔

2 ”جسر و اجیش اسامہ، لعن اللہ من تحلف عنہ۔ (محمد بن عبدالکریم شہرستانی (قم: منشورات الشریف الرضی)، ص ۲۹: اگرچہ شہرستانی نے اس گروہ کے بارے میں رسول خداؐ کی لعنت کو حدیث مرسل کہا، لیکن ابی الحدید، ابو بکر احمد بن عبدالعزیز جوہری نے ”سقیفہ“ کتاب میں اس لعنت کو حدیث مسند کے طور پر عبداللہ بن عبد الرحمن سے نقل کیا ہے کہ آنحضرتؐ نے کئی مرتبہ فرمایا: انفذوا بعث اسامہ، لعن اللہ من تحلف عنہ (شرح نہج البلاغہ، ج ۶، ص ۵۲)۔

3 ابواضح، تاریخ یعقوبی (نجف: المکتبۃ الحیدریہ، ۱۳۸۴ھ) (ق) ج ۲، ص ۱۷۸۔

۱۔ اتنی عظیم اسلامی فوج کو روانہ کرتے وقت اس کی سپہ سالاری ایک ایسے سردار کے حوالے کرنا جس کی عمر بیس سال سے کم تھی جبکہ یہ فوج اس وقت کے قوی ترین دشمن اور اسلامی دارالحکومت سے بہت دور اور حساس علاقہ میں جنگ کے لئے بھیجی جا رہی تھی۔

۲۔ اس فوج میں اسامہ کی سپہ سالاری کے تحت ایسے تجربہ کار اور ماہرین جنگ سپہ سالار اور کمانڈر بھی رکھے گئے تھے نیز اس میں ایسے قبیلوں کے سردار اور پیغمبر کے مشہور اصحاب بھی موجود تھے جو اپنے کو مقام و منزلت اور ایک خاص عظمت کا حامل سمجھتے تھے اور وہ لوگ اس نوجوان سپہ سالار کا یہ منصب خود حاصل کرنے کے لئے تیار کر رہے تھے۔

۳۔ پیغمبر اسلام اگرچہ یہ بخوبی جانتے تھے کہ اب یہ آپ کی عمر مبارک کے آخری ایام ہیں (اور خطبہ غدیر میں آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی فرما دیا تھا) اور اسی کے ساتھ تاریک فتنہ اور خطرناک حوادث کے بادل امت اسلامیہ کے سر پر منڈلا رہے ہیں آپ نے اسلامی فوج کو ایک دور ترین خطے کی طرف روانہ فرمایا اور انصار و مہاجرین کے سرکردہ افراد کو ان کے ساتھ کر دیا آپ کی اس تدبیر اور دور اندیشی اور الہی سیاست کو نظر میں رکھنے کے بعد اس میں کوئی تردید نہیں رہ جاتی کہ آپ نے اتنے عظیم اقدام کو یقیناً کسی اہم مقصد کے لئے انجام دیا تھا کہ ان تمام مشکلات اور خطرات کو سہ لینا اس کے مقابلہ میں بہت آسان تھا۔

ان تمام نکات کی تحقیق اور ان پر توجہ کرنے کے بعد بہ آسانی یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ رومیوں سے فوجی ٹکراؤ کے علاوہ آپ کی نظر میں دواہم مقصد اور بھی تھے۔

(الف) پیغمبر نے اسامہ کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار اس لئے بنایا تھا تاکہ مسلمانوں کو عملاً اس حقیقت کی طرف متوجہ کر دیں کہ کسی عہدے اور مقام تک پہنچنے کے لئے صلاحیت اور لیاقت معیار ہوتی ہے اور کسی کی کم عمری اور جوانی سے اس کی لیاقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جس طرح کسی انسان کے سن کی زیادتی سے اس کے اندر لیاقت پیدا نہیں ہو جاتی اسی لئے پیغمبر اسلام نے اعتراض کرنے والوں کو یہ جواب دیا تھا کہ: ”زید بھی سپہ سالاری کے لائق تھے اور اب ان کا بیٹا ان کے بعد اس منصب کے لائق ہے“

پیغمبر اسلام نے اپنے اس واضح اور دو ٹوک بیان سے اسامہ کی لیاقت اور شائستگی کو واضح کر دیا اور جو لوگ عمر کی زیادتی یا قبیلہ وغیرہ کو ایسے عہدے اور مقام میں دخیل سمجھتے ہیں ان کے باطل افکار کی وضاحت فرمادی۔ کیا اس کے علاوہ اس کی اور کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اسامہ کی سپہ سالاری کے بارے میں جو اتنی تاکید کی تھی اس کے ذریعہ آپ عملاً حضرت علیؑ کی خلافت کے لئے راہ ہموار کر رہے تھے اور جو لوگ حضرت علیؑ کی جوانی کو بہانہ بنا کر خلافت سے متعلق آپ کی لیاقت اور صلاحیت کے بارے میں انگلی اٹھانا چاہتے تھے آپ ان کا جواب دے رہے تھے۔

(ب) پیغمبر کا ارادہ یہ تھا کہ آپ کی وفات کے وقت حضرت علیؑ کے وہ سیاسی رقباء جن کے دل میں خلافت کی لالچ تھی مدینہ سے دور رہیں (اسی لئے مہاجرین و انصار کے چندہ افراد کو آپ نے اسامہ کی فوج میں شامل کیا تھا تاکہ ان لوگوں کے جانے کے بعد ان کے عدم موجودگی میں حضرت علیؑ حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور مخالفین کے لئے کوئی صورت باقی نہ رہے اور جب وہ لوگ میدان جنگ سے واپس پلٹیں تو حضرت علیؑ کی حکومت مستحکم ہو چکی ہو۔¹

1 ابن ابی الحدید (۶۵۶ھ) نے اس تحلیل پر جو ناقابل قبول تنقید کی ہے (شرح نہج البلاغہ، ج ۱، ص ۱۶) اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شیعوں کی یہ تحلیل قدیم زمانہ سے مورخین کے درمیان پائی جاتی تھی۔

اسی سے یہ بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ پیغمبر کی اتنی تاکید اور اصرار کے باوجود بھی کچھ لوگ اسامہ کے ساتھ جانے سے کیوں جان چرارہے تھے؟ اور آج یا کل پر ٹال مٹول کے ذریعہ انھوں نے لشکر اسامہ کو روانہ ہونے سے کیوں روک دیا؟ یہاں تک کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی۔

وہ وصیت نامہ جو لکھنا نہ جاسکا!

پنجشنبہ کے دن (رحلت سے چار دن پہلے) جب پیغمبرؐ بستر علالت پر تھے آپ نے فرمایا: ”قلم اور کاغذ لے آؤ تاکہ میں تمہارے لئے کچھ لکھ دوں جس سے تم لوگ میرے بعد گمراہ نہ ہو“ حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا آپ کے اوپر درد اور مرض کا غلبہ ہے اور آپ ہڈیاں بک رہے ہیں قرآن ہمارے پاس ہے وہی ہمارے لئے کافی ہے۔ اسی دوران حاضرین کے درمیان اختلاف ہو گیا بعض لوگوں نے اُس کی بات کی تائید کی اور کچھ لوگ پیغمبرؐ کے فرمان کی تائید کر رہے تھے اسی میں شور و ہنگامہ بڑھتا گیا اسی دوران پیغمبرؐ سے کہا: آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے آپ نے فرمایا: ”یہ سب کچھ ہونے کے بعد؟ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو (جو مجھے درد و غم اور تکلیف ہے) مجھے اسی حالت پر رہنے دو اور تم لوگ میرے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہو (میری طرف ہڈیاں کی جو نسبت دے رہے ہو) میری یہ حالت اس سے کہیں بہتر ہے، یہاں سے باہر نکل جاؤ۔“

جو کچھ آپ نے پڑھا یہ اس قصے کا خلاصہ ہے جو اہل سیرت اور محدثین نے پیغمبرؐ کی عمر کے آخری ایام کے واقعات کے ذیل میں نقل کیا ہے۔¹

اگرچہ یہ واقعہ بعض کتابوں میں تحریف کر کے یا توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے کچھ لوگوں نے پیغمبرؐ اسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے کا نام ہی غائب کر دیا، یا صرف اس کی بات کے مضمون کو نقل کیا ہے اور بعض اوقات اس کی طرف سے عذر تراشی کی کوشش کی گئی ہے لیکن تمام شواہد و قرائن اس بات کے گواہ ہیں کہ پیغمبرؐ کا یہ اقدام دراصل اپنی جانشینی کے لئے حضرت علیؑ کی شناخت کرانا اور مسلمانوں کو رہبری اور قائد کے بغیر نہ چھوڑ دینے کے سلسلے کی ایک کڑی تھی اور اگر بعض حاضرین نے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو وصیت نامہ لکھنے نہیں دیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ آپ کیا تحریر کرنا چاہتے ہیں۔

جیسا کہ عبد اللہ بن عباس اس نکتہ پر توجہ اور مذکورہ واقعہ کی طرف اشارہ کرنے کے بعد افسوس بھرے الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں۔
(پنجشنبہ کا دن کتنا دردناک تھا کہ پیغمبرؐ نے فرمایا:

”میرے لئے کاغذ اور دوات لے آؤ تاکہ تمہارے لئے کچھ لکھ دوں اور تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو لیکن انھوں نے نہیں سنا۔۔۔۔۔“² کیونکہ یہ واقعہ بہت مشہور بلکہ تاریخ اسلام کے مسلمات میں سے ہے اور گزشتہ اور موجودہ تمام لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے اور کافی حد تک اس کے بارے میں بحث کی ہے لہذا اسی مقدار پر ہم اکتفا کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں مزید تحقیق و جستجو اور اس سے متعلق عذر تراشیوں پر تنقید

1 نمونہ کے طور پر ملاحظہ کریں: صحیح بخاری، تحقیق: الشیخ قاسم السماعی الرفاعی؛ (بیروت: دار القلم، ۱۴۰۷ھ)، ج ۱، کتاب العلم، باب کتاب العلم (باب ۸۲)، ج ۱۲، ص ۱۲۰ و ج ۶، المغازی، باب ۱۹۹، ص ۳۱۸-۳۱۷؛ صحیح مسلم، بشرح النووی، ج ۱۱، باب ترک الوصیۃ لمن لیس لہ شیء یوصی فیہ، ص ۸۹؛ طبقات الکبریٰ، (بیروت: دار الصادر)، ج ۲، ص ۲۴۲، ابن ابی الحدید، شرح نہج البلاغہ، ابو بکر جوہری کے نقل کے مطابق۔

2 ”لما اشتد النبی وجعه قال ائتونی بکتاب اکتب لکم کتاباً لاتضلوا بعله قال عمر ان النبی غلبه الوجع و عندنا کتاب اللہ حسبنا فاختلفوا و کبر اللغظ قال قوموا عنی ولا ینبغی عندی التنازع فخرج ابن عباس یقول ان الرزیة کال الرزیة ملحال بین رسول اللہ و بین کتابہ۔ (صحیح بخاری، ج ۱، ص ۱۲۰؛ رجوع کریں: الطبقات الکبریٰ، ج ۲، ص ۲۴۲)۔

یا بعض ابہامات کا جواب دینے یا اس بارے میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کو ذکر کرنا نہیں چاہتے بلکہ اس کے لئے اس کی متعلقہ کتابوں کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔¹

پیغمبر اسلام کی رحلت

پیغمبر اسلام ۲۳ سال تک الہی پیغام کو پہنچا کر اور اس راہ میں مسلسل دعوت و جہاد اور اپنی رسالت کی انجام دہی کے راستے میں مختلف نشیب و فراز سے گزر کر آخر کار روز دو شنبہ ۲۸ صفر ۱۱ھ² کے دن ۱۴ روز بیمار³ رہنے کے بعد عالم بقا کی طرف رحلت فرما گئے اور مسجد کے برابر میں آپ کا جو حجرہ تھا اسی میں آپ کو دفن کیا گیا بعد میں جب بعض خلفاء کے دور میں اس مسجد کی توسیع کی گئی تو آپ کا مرقد مطہر مسجد (مشرقی سمت) میں شامل ہو گیا۔

اگرچہ ہجرت کے کچھ دنوں بعد مسلمانوں کی مالی حالت اور خود پیغمبرؐ کی مالی حالت بھی بہتر ہو گئی تھی اور آپ کے مخصوص اموال (اموال خالصہ) اور دوسری آمدنی کے ذرائع بھی آپ کے پاس موجود تھے اور آپ کی ظاہری قدرت و طاقت اور روحانی نفوذ میں بے حد اضافہ ہو چکا تھا لیکن آپ کی ذاتی زندگی میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئی تھی اور آپ مسجد کے برابر میں اپنے حجرے میں اسی طرح سادگی کے ساتھ رہتے تھے نہ آپ نے کوئی مال جمع کیا تھا نہ لوگوں کی طرح آپ کے پاس کوئی بڑا گھر تھا آپ کا وہ بستر جس پر آپ آرام فرماتے تھے وہ بھی ایک چڑے کا بستر تھا جس کے اندر کھجور کی پتیاں بھری ہوئی تھیں⁴ چٹائی کے اوپر نماز پڑھتے تھے اور اکثر اوقات اسی چٹائی اور بوریے کے اوپر آرام کرتے تھے جس کے نشان آپ کے چہرے یا بدن پر نمایاں ہو جاتے تھے۔⁵ آپ نے اپنی عمر کے آخری ایام میں یہ حکم فرمایا کہ بیت المال کے وہ چند دینار جو آپ کی ایک زوجہ کے پاس بچے ہوئے تھے ان کو غرباء میں تقسیم کر دیا جائے۔⁶ آپ نے اسی طرح سادگی سے زندگی گزاری اور بالآخر اپنے سادے حجرے میں دنیا سے تشریف لے گئے لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک عظیم دین ایک آسمانی کتاب اور ایک موحد اور خدا پرست امت کو اپنی یادگار کے طور پر چھوڑا اور دنیا کی تاریخ میں ایک نئے تمدن اور ثقافت کی بنیاد رکھی۔

1 مثال کے طور پر ذکر شدہ کتب کی طرف رجوع کریں: الطرائف، ابن طاووس، علی بن موسیٰ، (قم: مطبعة الخيام)، ج ۲، ص ۴۳۵-۴۳۱؛ النص والاجتهاد، شرف الدین، سید عبدالحسین موسوی (بیروت: دار النعمان، ط ۳، ۱۳۸۴ھ-ق)، ص ۱۷۷-۱۶۲؛ جعفر سبحانی، فروغ ابدیت، (قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ط ۵، ۱۳۶۸)، ج ۲، ص ۵۰۰-۴۹۳؛ مصطفوی، حسن الحقائق فی تاریخ الاسلام والفتن والاحداث، ص ۱۳۵-۱۲۹؛ یوسف غلامی، پس از غروب، (قم: دفتر نشر معارف، ج ۱، ۱۳۸۰)، ص ۵۳-۳۸۔ محمد حسین ہیکل، حیات محمد (قاہرہ: مکتبۃ النهضة المصریہ، ط ۸، ۱۹۶۳)، ص ۵۰۱؛ شرح امام نووی بر صحیح مسلم (طبع شدہ با اصل صحیح مسلم)، ج ۱۱، ص ۹۳-۸۹۔

2 محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، (تہران: دار الکتب الاسلامیہ، ۱۳۸۵ھ-ق)، ج ۲۲، ص ۵۱۴؛ تاریخ وفات رسول اکرمؐ کے بارے میں دوسرے اقوال بھی نقل ہوئے ہیں۔ رجوع کریں: گزشتہ حوالہ، ص ۵۲۱-۵۱۴؛ ابن سعد، طبقات الکبریٰ، ج ۳، ص ۲۷۲-۲۷۱؛ السیرۃ الخلیہ، ج ۳، ص ۷۳-۷۲۔

3 ابن واضح، تاریخ یعقوبی، (نجف: المکتبۃ الحیدریہ، ۱۳۸۴ھ-ق)، ج ۲، ص ۱۷۸۔

4 حلبی، السیرۃ الخلیہ، ج ۳، ص ۵۴۔

5 گزشتہ حوالہ۔

6 ابن سعد، طبقات الکبریٰ، ج ۲، ص ۲۳۹-۲۳۷۔

رحلت پیغمبرؐ کے وقت اسلامی سماج، ایک نظر میں

پیغمبر اسلامؐ نے مکہ سے ہجرت کے بعد مدینہ میں قیام کر کے وہاں کے آزاد اور معاون ماحول سے استفادہ کرتے ہوئے اسلامی معاشرے کی سنگ بنیاد رکھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے راستوں سے رکاوٹوں کو ہٹاتے چلے گئے اسلامی امت کو ایک دینی اور سیاسی شناخت عطا کی اور الہی پیغام کو مکمل طور سے لوگوں تک پہنچا دیا اور جس وقت آپؐ نے رحلت فرمائی آپؐ اپنی رسالت کو پایہ تکمیل تک پہنچا چکے تھے اور درخشندہ اور روشن کامیابیاں آپؐ کے قدم چوم رہی تھیں لیکن اس کے باوجود اس وقت کے معاشرے میں کچھ مخصوص حالات اور افکار پھیلے ہوئے تھے جن میں سے اہم چیزوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔

۱۔ جیسا کہ اشارہ کیا جا چکا ہے کہ پیغمبر اسلامؐ نے اسلامی تعلیم کے سایہ میں عرب کے مختلف اور پرانگندہ قبیلوں کو (جن کا کام ایک دوسرے سے جھگڑا کرتا تھا) ایمان اور عقیدے کے مشترک رشتے کی بنا پر ایک دوسرے سے جوڑ دیا اور ان کے درمیان میں دینی بھائی چارا (عقد مواخات) قائم کر دیا۔ ماضی کی پرانگندہ قوم اور افراد کو امت واحدہ میں تبدیل کر دیا اور آپؐ نے انھیں لوگوں کی مدد سے الہی حکومت تشکیل دی جس کی رہبری کے فرائض آپؐ خود انجام دے رہے تھے۔ آپؐ کا دار الحکومت اور مرکز شہر مدینہ تھا، اس حکومت میں وہ مسائل اور سماجی باتیں جن کے بارے میں خدا کی طرف سے نص موجود نہیں تھی مسلمانوں کی رائے اور مشوروں سے حل ہوتے تھے، ان کے پاس مکمل طور سے آزادی رائے پائی جاتی تھی عربوں نے اسلام کے سایہ میں پہلی بار اس قسم کی وحدت، قدرت اور معنویت کو قریب سے دیکھا تھا لیکن اس کامیابی کو اسی طرح باقی رکھنے کے لئے ایسے ہی مقتدر، شائستہ اور لائق رہبر اور قائد کی ضرورت تھی جو پیغمبر اسلامؐ کے بعد نظام امت و امامت پر بھروسہ کرتے ہوئے خود پیغمبرؐ کی طرح اسلامی معاشرے کو معنوی اور سیاسی دونوں لحاظ سے آگے بڑھا سکے۔

۲۔ پیغمبرؐ کی رحلت کے وقت پورے جزیرہ نمائے عرب سے تقریباً بت پرستی کا خاتمہ ہو چکا تھا اگرچہ جزیرہ العرب کے باہر کوئی فتح نہیں ہوئی تھی لیکن پیغمبرؐ کی عالمی دعوت اور تبلیغ کی بنا پر اسلام کا پیغام دنیا کے شہنشاہان مملکت کے کانوں تک پہنچ چکا تھا لیکن خود جزیرہ نمائے عرب میں وہ بہت سے لوگ جو پیغمبرؐ کی زندگی کے آخری ایام میں مسلمان ہوئے تھے (خاص طور سے فتح مکہ اور جنگ تبوک کے بعد) وہ صرف اور صرف ظاہری طور اسلام لائے تھے کیونکہ انھوں نے اسلامی حکومت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لئے اسلام قبول کیا تھا ان میں سے اکثر لوگوں کے دلوں تک اسلام اور ایمان نہیں اترا تھا اور پیغمبر اسلامؐ کو اتنی فرصت نہیں مل پائی کہ آپؐ دینی مبلغین کو بھیج کر ان کی ثقافتی اور مذہبی بنیادوں کو درست کر سکیں اس میں سے بہت سے لوگوں نے پیغمبر اکرمؐ کو ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا بلکہ ان کے سردار اور نمائندے ہی پیغمبرؐ سے ملاقات کرتے تھے اسی لئے دوبارہ اسلام کی قدرت کے ضعیف ہونے اور کفر و بت پرستی اور ارتداد کی واپسی کا بہت احتمال تھا اس وجہ سے بھی اسلامی رہبری کا جاری رہنا ضروری تھا تاکہ پیغمبرؐ کا یہ ثقافتی مشن جاری رہے اور اسلام کی تعلیمات کی وضاحت اور تبیین اور تبلیغ اور ثقافتی نیز روحانی رشد و ہدایت کا سلسلہ منزل تکمیل تک پہنچ جائے۔

۳۔ ۹ھ میں منافقین کے سرکردہ لیڈر عبداللہ بن ابی کی موت کے بعد اگرچہ اس خانہ گروپ کی قدیم شکل و صورت ختم ہو گئی تھی اور وہ استحکام باقی نہیں رہ گیا تھا لیکن پھر بھی اس ٹولہ کے افراد مدینہ اور اس کے اطراف میں موجود تھے یہ لوگ ہر لمحہ ایسی فرصت کی تلاش میں رہتے تھے جس سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں پر کوئی کاری ضرب لگا سکیں۔ منافقین (جو اسلام کے اندرونی دشمن تھے) کے علاوہ دہرونی خطرے بھی اسلام کے سامنے تھے ایک شہنشاہ روم دوسرے شہنشاہ ایران جیسا کہ اس وقت کے قرآن و شواہد سے ان کی اسلام دشمنی اور اسلام کے بارے میں ان کے منفی نظریات کی تائید ہوتی ہے۔ یہ خطرناک مثلث یقیناً پیغمبرؐ کو متفکر کرنے کے لئے کافی تھا اور آنحضرتؐ کے لئے اس کو

ناکارہ بنانے کے واسطے چارہ جوئی کرنا ضروری تھی۔ یہ مسئلہ بھی ایسے حساس لمحات اور حالات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جس کے لئے مسلمانوں کی وحدت اور ایک پرچم تلے کسی طاقت ور رہبر اور قائد کی رہبری کی ضرورت ہے۔

۴۔ جیسا کہ گزر چکا ہے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے جزیرہ نمائے عرب میں رہنے والے لوگوں کی زندگی قبیلہ جاتی نظام پر استوار تھی اور قبیلہ جاتی نظام، رشتہ داری اور نسل پرستی کی بنیادوں پر استوار تھا ایسے نظام کے سماجی اسباب، جیسے قبیلہ جاتی تعصب و فخر و مباہات ایک دوسرے سے انتقام لینا، قبیلہ جاتی جنگ، یہ سب ان کے لئے درد سر بنے ہوئے تھے۔

پیغمبرؐ نے بے پناہ زحمت و مشقت برداشت کر کے اسلام کی وحدت بخش تعلیم اور کلمہ توحید کے سہارے اس نظام کو درہم برہم کر دیا اور مشترک ایمان کو مشترک خون اور مشترک نسل کا جائے گزین بنادیا اور قبیلہ جاتی نظام کے جو خطرناک اور برے اثرات تھے ان کو کافی حد تک ختم کر دیا یہ سب اسلام، قرآن اور رسالت پیغمبرؐ کے بہترین نتائج ہیں۔

لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس نظام جاہلیت کی جڑیں (اس کی پرانی جڑوں کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں ابھی تک باقی تھیں اور جب کبھی کسی حادثہ کی ہوائیں اس دہی ہوئی آگ کے اوپر سے راکھ کو اڑا لیا جاتی تھیں تو ان کی قبیلہ پرستی کی فکریں سامنے آ جاتی تھیں اور پیغمبر اسلامؐ نہایت زیر کی اور ہوشیاری سے اس کا سد باب کر دیتے تھے اور اس کو کسی بحران اور حادثہ میں تبدیل نہیں ہونے دیتے تھے یہ بات اس زمانہ کے حساس حالات کی عکاس ہے کہ مسلمانوں کی وحدت جو بہت قیمتی سرمایہ لگا کر حاصل ہوئی تھی اس کو کس قدر خطرہ تھا انھیں قبیلہ جاتی رسم و رواج اور ذہنیات کی بہترین دلیل خود سقیفہ کا واقعہ بھی ہے جو پیغمبرؐ کی رحلت کے فوراً بعد سامنے آیا تھا یہ قلبی دھڑکن اور فکر اس زمانہ کے مسلمانوں کے سر کردہ افراد کے وظیفہ کو اور بھی سنگین کر دے رہی تھی۔ اور ان کے سامنے ایک سخت امتحان تھا اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ کون لوگ وحدت اور اتحاد کی حفاظت کے لئے ایثار و قربانی کے لئے حاضر ہیں اور کون لوگ پرانے نظام جاہلیت پر اب بھی مصر ہیں۔

۵۔ پیغمبر اسلامؐ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مسلمانوں کے دینی اور سیاسی قائد رہے اور آپؐ یہ دونوں وظیفے ایک ساتھ انجام دیتے تھے۔ جس طرح مسلمان آپؐ کی خدمت میں بیٹھ کر آپؐ کی تقریریں، خطبات اور آپؐ کے ہونٹوں سے نکلنے والے کلمات وحی کو سنتے رہتے تھے اسی طرح آپؐ کی امامت میں نماز جماعت پڑھتے تھے اور روحانی اعتبار سے آپؐ کی ذات اور شخصیت میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ آپؐ کے وضو کے پانی کے قطروں کو تبرک سمجھتے تھے اور یہی لوگ آپؐ کے حکم سے میدان جنگ میں ایک دوسرے پر سبقت لینے کی کوشش کرتے تھے، دشمنوں کو قتل کرتے تھے، اور خود بھی شہید ہو جاتے تھے، آپؐ کی طرف سے شہروں کی حکمرانی اور گورنری کے لئے منصوب ہوتے تھے، آپؐ کی نمائندگی اور سفارت کے طور پر مخالفین سے مذاکرات کرتے تھے۔

لہذا آپؐ کی رحلت کے بعد صرف یہ کافی نہیں تھا کہ آپؐ کا جانشین صرف اسلامی معاشرے کی سیاسی رہبری کرے بلکہ اس کے لئے یہ ضروری تھا کہ آپؐ کی جگہ پر کوئی ایسا شخص بیٹھے جو سیاسی رہبری کے علاوہ لوگوں کی دینی ضروریات اور ان کے دینی مسائل سے بھی بخوبی عہدہ برآ ہو سکے یعنی دینی اور اسلامی علوم اور معارف کے بارے میں اتنا وسیع علم اور آگہی رکھتا ہو کہ اس جگہ پر بھی وہ پیغمبرؐ کی خالی جگہ کو پُر کر سکے۔

اجمالی فہرست

حرف اول.....	۱
عرض مترجم.....	۳
مقدمہ مولف.....	۴

پہلا حصہ

پہلی فصل

جزیرۃ العرب کی جغرافیائی، سماجی اور ثقافتی صورتحال.....	۷
دوسری فصل	
عربوں کے صفات اور نفسیات.....	۳۰
تیسری فصل	
جزیرہ نمائے عرب اور اسکے اطراف کے ادیان و مذاہب.....	۳۹

دوسرا حصہ

پہلی فصل

اجداد پیغمبر اسلام ﷺ.....	۶۴
دوسری فصل	
حضرت محمد ﷺ کا بچپن اور جوانی.....	۶۸
تیسری فصل	
حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی جوانی.....	۷۷

تیسرا حصہ

پہلی فصل

بعثت اور تبلیغ.....	۸۵
دوسری فصل	
علی الاعلان تبلیغ اور مخالفتوں کا آغاز.....	۱۰۲

تیسری فصل

قریش کی مخالفت کے نتائج اور ان کے اقدامات ۱۰۹

چوتھا حصہ

پہلی فصل

مدینہ کی طرف ہجرت ۱۳۳

دوسری فصل

مدینہ میں پیغمبر اسلام کے سیاسی اقدامات ۱۴۳

تیسری فصل

یہودیوں کی سازشیں ۱۵۰

چوتھی فصل

لشکر اسلام کی تشکیل ۱۵۷

پانچواں حصہ

پہلی فصل

عالمی تبلیغ ۱۹۵

دوسری فصل

اسلام کا پھیلاؤ ۲۰۱

تیسری فصل

حجۃ الوداع اور رحلت پیغمبرؐ ۲۲۱